

# INTRODUCTORY URDU

Volume II

C. M. Naim

Revised, Third Edition  
South Asia Language & Area Center  
University of Chicago  
1999

# INTRODUCTORY URDU

Volume II

C. M. Naim

Revised, Third Edition  
South Asia Language & Area Center  
University of Chicago  
1999

Revised, Third Edition  
Copyright © 1999 C. M. Naim

This book was originally prepared in 1965 pursuant to a contract with the United States Office of Education, Department of Health, Education and Welfare. First printed edition, 1975. Revised, second edition, 1980.

Comments and queries about the book may be directed to:

1. South Asia Language & Area Center; Kelly Hall 311;  
University of Chicago; Chicago, IL 60637
2. C. M. Naim; 1130 E. 59<sup>th</sup> Street ; Chicago, IL 60637


## TABLE OF CONTENTS

Unit I (Model Lesson) بات چیت ۱	3
Unit II (Model Lesson) بات چیت ۲	8
Unit III (Model Lesson) بات چیت ۳	12
Unit IV (Model Lesson) بات چیت ۴	17
Unit V ہمارا مکان	22
Unit VI دو بکرے	28
Unit VII بہادر لڑکا	34
Review Sentences	40
Unit VIII سٹو	42
Unit IX ایک کہانی	50
Unit X گلستانِ سعدی	58
Review Sentences	65
Unit XI اشوک	67
Unit XII جاندار اور بے جان	75
Review Sentences	84
Unit XIII سکندر	86
Unit XIV مسلمانوں کے تیوہار	95
Review Sentences	103
Unit XV منڈی میں ترکاریاں	105
Unit XVI بی اماں	115
Review Sentences	123
Unit XVII ایک خط	125
Unit XVIII سر سید احمد خاں ۱	137
Unit XIX سر سید احمد خاں ۲	147
Review Sentences	156
Unit XX غالب	158
Unit XXI اردو	170
Review Sentences	178

Unit XXII	غالب کے خطوط	180
Unit XXIII	مذہبی امتیاز نہیں & امریکا میں نیگرو	191
	Review Sentences	199
Unit XXIV	اکبر الہ آبادی	201
Unit XXV	شاعر مشرق	212
	Review Sentences	222
Unit XXVI	بنیادی جمہوریتیں	224
Unit XXVII	آسٹریلیا میں ناجائز دولت	231
	Review Sentences	238
Unit XXVIII	خطرے جن کا سامنا ہے	240
	Review Sentences	249
Unit XXIX	یکہ والا - حصہ اول	251
Unit XXX	یکہ والا - حصہ دوم	262
	Review Sentences	271
	Main Glossary	275

## ACKNOWLEDGMENTS

- ۱ - دو بکرے: " اردو کی دوسری کتاب "۔ مکتبہ جامعہ - نئی دہلی - ۱۹۶۲ء -
- ۲ - بہادر لڑکا: " اردو کی دوسری کتاب "۔ مکتبہ جامعہ - نئی دہلی - ۱۹۶۲ء -
- ۳ - ٹٹو: " اردو کی تیسری کتاب "۔ مکتبہ جامعہ - نئی دہلی - ۱۹۶۲ء -
- ۴ - اشوک: " اردو کی پانچویں کتاب "۔ مکتبہ جامعہ - نئی دہلی - ۱۹۶۲ء -
- ۵ - جاندار اور بے جان میں فرق: " ہماری آباد دنیا "۔ فصاحت حسن - اردو گمر - علی گڑھ - ۱۹۶۲ء -
- ۶ - سکندر: " اردو کی چوتھی کتاب "۔ مکتبہ جامعہ - نئی دہلی - ۱۹۶۲ء -
- ۷ - منڈی میں گرمیوں کی تزکاریاں: قومی آواز - لکھنؤ - یکم جون - ۱۹۶۳ء -
- ۸ - بٹاتاں: " اردو کی چوتھی کتاب "۔ مکتبہ جامعہ - نئی دہلی - ۱۹۶۲ء -
- ۹ - سر سید احمد خاں (۲): " سید احمد خاں: حالات و افکار "۔ مولوی عبدالحق - اردو مرکز - نئی دہلی -
- ۱۰ - غالب کے خطوط: " اردو کی آٹھویں کتاب "۔ مکتبہ جامعہ - نئی دہلی - ۱۹۶۲ء -
- ۱۱ - امریکہ کی نیگرو آبادی: قومی آواز - لکھنؤ - ۲ جولائی ۱۹۶۳ء -
- ۱۲ - آسٹریلیا میں ناجائز دولت: قومی آواز - لکھنؤ - ۳۰ جون ۱۹۶۳ء -
- ۱۳ - خطرے جن کا سامنا ہے: قومی آواز - لکھنؤ - ۱۶ جون ۱۹۶۳ء -
- ۱۴ - یکہ والا: رشید احمد صدیقی - " اردو کی ساتویں کتاب "۔ مکتبہ جامعہ - نئی دہلی - ۱۹۶۲ء -



## TEXTS





## Unit I

- ا۔ السلام علیکم، شکیل صاحب۔
- ب۔ وعلیکم السلام۔ آئیے کبیر صاحب۔ تشریف رکھیے۔ کہیے مزاج کیسے ہیں؟
- ا۔ اللہ کا شکر ہے۔ بہت دنوں سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچا آج خیریت پوچھتا چلوں۔
- ب۔ جی ہاں، ادھر تین چار دن سے کچھ بخار ہو گیا تھا، اس لئے گھر سے نہ نکل سکا۔ دفتر بھی نہیں گیا۔
- ا۔ اب تو طبیعت ٹھیک ہے نا؟
- ب۔ جی ہاں، اب تو خدا کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں۔ معمولی بخار تھا، کل اتر گیا۔ آج میں نے سوچا ایک دن اور آرام کر لوں۔ کل سے دفتر جانا شروع کر دوں گا۔
- ا۔ آج کل سردی بہت ہو رہی ہے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ نے اچھا کیا کہ آج دفتر نہیں گئے۔

## Unit I: Notes

1. A. /as-salaamu-alaikum, sakiil saahab./  
“As-salamu-alaikum, Shakil Sahib.”
2. B. /wa-alaikum-as-salaam. aaiyee kabiir saahab. taşriif rakhiyee. kahiye mizaaj kaisee haiN./  
“Wa-alaikum-as-salam. Please come in, Kabir Sahib. Have a seat. How are you?”
3. A. /allaah-kaa sukr hai. bahot dinooN-see aap-see mulaaqaat nahiiN huii thii. maiN-nee soocaa, aaj xairiyat puuchtaa caluuN./  
“I’m well, thank God. I hadn’t seen you for many days. I thought I should stop by to find out if all is well.”
4. B. /jii haaN, idhar tiin-caar din-see kuch buxaar hoo-gayaa thaa, is liee ghar-see na nikal sakaa. daftar bhii nahiiN gayaa./  
“Yes, I had a bit of a fever the past few days, that’s why I couldn’t go out. I didn’t go to work either.”
5. A. /ab too tabiiat Thiik hai naa?/  
“You’re all right now, aren’t you?”
6. B. /jii haaN, ab too xudaa-kee fazl-see bilkul Thiik huuN. maamuulii buxaar thaa, kal utar-gayaa. aaj maiN-nee soocaa, eek din aur aaraam kar-luuN. kal-see daftar jaanaa şuruu-kar-duuNgaa./  
“Yes, thank God I’m fully well now. It was just some ordinary fever; it went away yesterday. Today I thought I should rest one more day—I shall start going to work tomorrow.”
7. A. /aaj-kal sardii bahot hoo-rahii hai. bahot ehtiyaaat-kii zaruurat hai. aap-nee acchaa kiyaa ki aaj daftar nahiiN gaae./  
“It’s quite cold these days. One needs to be very careful. You did right when you didn’t go to work today.”

\*\*

**Please first read the introduction to the main glossary in this volume for an explanation of the symbols and numbers used in these and other notes.**

1. /as-salaamu-alaikum/, “May peace be upon you.” It is a common greetings among Muslims, both men and women, and the proper response is, /wa-alaikum-as-salaam/, “And on you too peace.” While this phrase may be used in Pakistan to greet a non-Muslim too, that is not generally the case in India, where several other Urdu greetings may be used equally frequently. The latter are: /aadaab/, aadaab arz/, and /tasliim/. All these greetings are also commonly used at the beginning of letters. (See 1:17.)

/sakiil/ is a man’s name, and the use of /saahab/ after it adds a touch of politeness. Three things should be noted: (1) /saahab/, also pronounced /saahib/, always comes after the name; (2) in formal speech, it is used only with male names, but informally it may also occur with female names and terms of reference; and (3) it does not necessarily indicate a formal relationship between two persons—in Urdu culture, even close friends

may address each other with /saahab/. The feminine counterpart of /saahab/ is /saahibaa/, but it is used only in formal situations. (See 255.)

Both /sakiil/ and /saahab/ are unmarked nouns, hence they remain unchanged in the vocative.

2. /aaiyee/ is the polite imperative form of /aanaa/, “to come.” So is /tasriif rakhiyee/ of /tasriif rakhnaa/, a composite verb made with /tasriif/, a feminine noun, and /rakhnaa/—the literal meanings of the two words are irrelevant here. /tasriif rakhnaa/ means “to sit down.” It is more often used in its polite imperative form, to mean: “Please be seated.” Used in other constructions, it often means: “to be present.” Example: /kyaa najmaa saahibaa tasriif rakhtii haiN?/, “Is Ms Najma at home?” A related verb is /tasriif laanaa/, “to come.” Both verbs are integral to Urdu’s formal or polite discourse. (See 252ff.)

/kahiyye/, the polite imperative form of /kahnaa/, “to say; to tell,” is often used merely as a preliminary to some question, as is the case here.

/mizaaj/, “disposition,” is used here in the plural. For some people, its singular form would be too ‘clinical’; they would use it in the singular in the contexts of health and illness, and in the plural as an innocuous greeting.

3. /allaah-kaa sukr hai/, lit. “there is gratitude to God,” is an idiomatic expression—it is not found in other tenses. Such pietistic remarks are common in polite conversation.

/bahot dinooN-see/ is an adverbial phrase. In this context, it could also have been /bahot din-see/. (See 199.)

/mulaaqaat/, a feminine noun, means “a meeting.” It is the grammatical subject of the verbal phrase, /huii thii/. Note that the ‘object’ of ‘meeting’ is marked with the postposition /-see/, same as in the case of the verb /milnaa/, “to meet.” The past perfect construction, /huii thii/, is needed because it expresses something which chronologically precedes what is expressed next with a simple past construction, /maiN-nee soocaa/, “I thought.” By not using the direct construction of /milnaa/—/maiN nahiiN milaa thaa/, “I had not met”—the speaker explicitly indicates that his volition was not the cause of their not meeting. (See 126, 252.)

The final sentence consists of two clauses, a main clause, /maiN-nee soocaa/, followed by a coordinate clause. /soocnaa/, “to cogitate, think about,” is a transitive verb. Its perfect participle is in the masculine singular because it has no noun to agree with: the subject is marked with the postposition /-nee/, and the direct object is the following coordinate clause. (See 134.)

Note that in quoting a direct discourse in Urdu, it is not obligatory to use either the quotation marks or the particle /ki/, “that.” (See 197.) As the speaker is the subject in both clauses, /maiN/ is elided in the second—the inflected form of the verbs leaves the reference unambiguous.

/calnaa/ expresses an act of movement or walking. It differs from /aanaa/ and /jaanaa/ in that it includes no implication of a direction—neither toward where the speaker is, nor away from there. (In other contexts, it may express the idea of ‘going together with the speaker.’ Example: /caliyye/, “Please come with me.”)

/puuchtaa caluuN/, lit. “[I] should [come by], ask, then go on.” The first verb/ /puuchnaa/, is in its imperfect participle form and is occurring in a complement function to the second verb, /calnaa/, which occurs in its subjunctive form in order to express the idea of a wish or desire. Both verbs have a common subject and also a chronological link. (See 104, 105.)

4. /jii/, used before /haaN/ and /nahiiN/ to make them polite responses, may also be used by itself in two ways: (1) to indicate assent; and (2) as an interrogative interjection meaning, “I beg your pardon?”

/idhar/ usually means “in this direction”. Here, in the context of /tiin-caar din/, it is more of an equivalent to the English, “recently.” In either case it underscores ‘proximity’, as opposed to /udhar/, which underscores ‘remoteness’.

/buxaar hoonaa/, “to have a fever,” requires an indirect construction. (See 126, 193.)

Of the three finite verb phrases, the first is in the past perfect—it expresses its causal and chronological relationship with the other two phrases, which are in the simple past. The past perfect also indicates that the state of ‘being with fever’ ended before the speech act.

/is liee/, “therefore.” Not to be confused with /is-kee liee/, “for the sake of this thing or person.” Note that in any given context the ‘reason’ would be the immediately preceding clause or sentence, hence it would mostly be /is liee/, and not /us liee/, “for that reason.”

For /saknaa/ and /bhii/, see sections 172 and 210ff., respectively.

Note the use of the two particles for negation. The use of the full form, /nahiiN/, in the final sentence complements the emphasis the speaker adds to his statement by using /bhii/.

5. The use of /too/, a particle of emphasis, after /ab/, “now,” adds a nuance that may be best understood by contrasting four sentences.

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| A. /ahmad ab Thiik hai/      | “Ahmad is well now.” (He was ill earlier, but no longer.)  |
| B. /ahmad ab bhii Thiik hai/ | “Ahmad is still well.” (He was well earlier, and he is well even now.)                             |
| C. /ahmad abhii Thiik hai/   | “Ahmad is well for now.” (He is well at the moment, but one doesn’t know how he will be tomorrow.) |
| D. /ahmad ab too Thiik hai/  | “Now Ahmad is all right.” (Yes, he was ill earlier, but right now he is all right.)                |

Note that the particles for emphasis are always placed immediately after the word or phrase they underscore. (For more details, see 210.)

/naa/, always written with a final /alif/, should not be confused with /na/, the particle for negation, which is always written with a final /chhooTii hee/. /naa/ is put at the end of a declarative sentence to turn it into a question which basically seeks confirmation of what the declarative sentence expresses. In these sentences, /naa/ will be pronounced with an interrogative intonation: a sharp rise, followed by a quick fall. Note that in Urdu, in contrast to English, it is always only /naa/, and never any portion of the original verbal phrase.

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| woo aayaa hai      | He has come.            |
| woo aayaa hai naa? | He has come, hasn’t he? |

6. /xudaa-kee fazl-see/ is another pietistic adverbial phrase commonly used in Urdu. In the third speech above, the pietistic response could have been: /xudaa-kaa fazl hai/. Note the special spelling of /bilkul/.

/maamuulii buxaar thaa/ is grammatically as complete a sentence in Urdu as /buxaar maamuulii thaa/—Urdu, unlike English, does not require dummy subjects. (See 8.) The former would be situationally equivalent to: “It was some common flu.” The latter to: “The fever was not bad.” The verb /utarnaa/, used here in its completive form, /utar-jaanaa/, means “to go down.” The completive form is used not because the fever went down ‘completely’, but because the sentence ‘completes’ the discourse on ‘fever’. The next sentence starts another topic. (See 140, 161, 162, 164, 165.)

/soocnaa/, with its direct construction, expresses more fully the sense that the subject consciously thought about the matter.

On the use of /aur/ in the sense of “further; more of the same,” see 217.

/aaraam karnaa/ is used in its completive form, /aaraam kar-leenaa/, to fully express both fullness and reflexiveness—‘for ones own benefit’—of the act. (Not that /aaraam karnaa/ can possibly be used with /deenaa/ as its completive verb.) Similarly, in the next sentence, /suruu-karnaa/ is used in its most common completive form, /suruu kar-deenaa/. (But one can also use /suruu kar-leenaa/ in some limited contexts. Example: /maiN kaam suruu-kar-huuN too aauN/, “Let me begin the work, then I’ll come.” Here it would indicate that getting the work started was of much significance to the speaker.)

/daftar/, “office,” would be used in all white-collar work contexts; in blue-collar contexts, it would be more correct to use /kaam/, “work.”

7. /aaj-kal/, a combination of /aaj/, “today,” and /kal/, “tomorrow; yesterday,” means “these days.” Such combinations of related words are not uncommon in Urdu. (See 216.)

/sardii hoo-rahii hai/, lit. “coldness is happening.” In Urdu one does not say /aaj sard hai/, lit. “Today is cold.” Instead, one says, /aaj sardii hai/, lit. “There is coldness today.” Likewise one says, /aaj garmii hai/, “Today it is warm.” In the context of weather, one can also use /paRnaa/ instead of /hoonaa/: /aaj bahot sardii paR-rahii hai/, “Today it is very cold.”

/zaruurat honaa/, “to need X /-kii/,” requires an indirect construction. The ‘real’ subject will be followed by ‘-koo/. (See 126.) The present sentence, with /zaruurat/ as its ‘grammatical’ subject, is complete in Urdu, and also better expresses the generalized meaning. (The fuller sentence would be: /aap-koo bahot ehtiyaat-kii zaruurat hai/, “You need to be very careful.”)

Note that /acchaa/, an adjective, is being used as a masculine singular noun in the main clause; it is the direct object—and the ‘grammatical’ subject—of the verbal form /kiyaa/. It stands for the ‘right act’ expressed in the coordinate clause.

## Unit II

- ا۔ کیوں بھیئى شكيل صاحب، آپ كو فرصت ہے؟
- ب۔ ضرور۔ كيا كهیں جانے كا ارادہ ہے؟
- ا۔ جى ہاں، ذرا بڑے بازار تك چلتے ہیں۔ كچھ چیزیں خریدنا ہیں۔ آج تو دير تك دكانیں كھلى رہیں گى۔
- ب۔ اچھا، بہت سی چیزیں خریدنی ہیں؟
- ا۔ كچھ كپڑا خریدنا ہے۔ جاڑا شروع ہونے والا ہے۔ میں نے سوچا كچھ گرم كپڑے بنوا لینے چاہئیں۔
- ب۔ چلیے۔ مجھے بھی ایک گرم پتلون بنوانی تھی۔ ابھی تو كپڑا سستا ہوگا؟
- ا۔ جى ہاں، ورنہ سردى شروع ہوگئی تو پھر دام بڑھ جائیں گے۔

## Unit II: Notes

1. A. /kyooN bhaii, sakiil saahab, aap-koo fursat hai?/  
“Well, Shakil Sahib, are you free?”
2. B. /zaruur. kyaa kahiiN jaanee-kaa iraadaa hai?/  
“Certainly. Do you intend to go some place?”
3. A. /jii haaN, zaraa baRee baazaar-tak caltee haiN. kuch ciizeeN xariidnaa haiN. aaj too deer-tak dukaaneeN khulii raheeNgii./  
“Yes, let’s go to the Big Market briefly. I have to buy a few things. The shops will stay open late tonight.”
4. B. /acchaa, bahot sii ciizeeN xariidnii haiN?/  
“O.K. Do you have many things to buy?”
5. A. /kuch kapRaa xariidnaa hai. jaaRaa suruu-hoonee-waalaa hai. maiN-nee soocaa kuch garm kapRee banwaa-leenee caahiyeen./  
“I have to buy some cloth. Winter is about to begin. I thought I should get some warm clothes made.
6. B. /caliye, mujhee bhii eek garm patluun banwaanii thii. abhii too kapRaa sastaa hoogaa?/  
“Let’s go. I too need to get a pair of pants made. Cloth should still be inexpensive, [don’t you think?]”
7. A. /jii haaN, warnaa sardii suruu-hoo-gaii too phir daam baRh-jaaeeNgee./  
“Yes, [that’s true.] The prices will increase once it starts to get cold.”

\*\*

1. /kyooN/, “why,” is also used, like /kahiye/, at the beginning of a sentence containing a question, in which case its function is to alert the addressee to the fact that he is being asked a question.

/bhaii/ should not be confused with /bhaai/, “brother; male cousin,” though historically the former is just an abbreviated form of the latter. /bhaii/ is used to address both males and females. It carries a degree of informality and intimacy, and will often be used even with strangers of either sex to create an air of geniality.

/fursat/, “free time; leisure,” is an abstract noun, and as such requires an indirect construction—the ‘real’ subject marked with /-koo/. (See 193.)

2. /iraadaa/, “plan; intention,” is a masculine noun. It is used here in an indirect construction with /hoonaa/, of which it is the ‘grammatical’ subject, while the ‘real’ subject will be marked with /-kaa/. (In this case, /aap-kaa/ has been dropped because the context is unambiguous as to whose ‘intentions’ are being talked about.)

/kahiiN/, “somewhere,” is not an interrogative form and should not be confused with /kahaan/, “where?”

3. The particle /zaraa/, lit. “a little,” has two major functions. (1) It occurs in combination with the adjectival suffix /-saa/, in which case the combination, /zaraa-saa/, means “tiny; a little bit.” Examples: /zaraa-sii baat/, “a very small matter;” /zaraa-saa



aadmii/, “a tiny little man.” (2) It occurs as an explicator before adjectives and adverbs, where it may be translated as “a little bit more...” Example: /zaraa dhiiree caliyee/, “Please walk a little slower.” /kooii zaraa acchii kitaab diijiye/, “Please give me a book which is a little better.” And (3) it occurs, usually at the beginning, in a variety of sentences to reduce the relative ‘significance’ of the expressed act. It particularly happens in the case of sentences containing an imperative form, in which case the use of /zaraa/ makes them more polite. Example: /zaraa kooii acchii kitaab diijiye/, “Please give me some good book.” (Cf. the preceding example.) In other words, /zaraa/ makes the command or request appear as being no big deal. Note that it can be used in other types of sentences too.

maiN zaraa un-see mil-luuN, phir...	Let me just meet him, then...
zaraa kitaabeeN xariidnii haiN	I’ve to buy some books, that’s all.

Note the use of the imperfect participle form of /calnaa/ to communicate the meaning: “Let you and I go instantly.” (See 112.) Here, it will also be considered a more polite expression of the speaker’s intentions than a straightforward imperative or future construction. Further, in this sentence, both /zaraa/ and /-tak/ are being used for the same purpose: to make the going to the market appear as something minor and limited, and not something too taxing for the addressee.

For the “infinitive plus /hoonaa/” construction used in /ciizeeN xariidnaa haiN/, see 191.

In the final sentence, /raheeNgii/ replaces /hooNgii/ to give a more ‘durative’ effect to the sentence. (See 179.)

4. /acchaa/ is used here as an exclamation, and carries the following intonation:

acchaa?	Is that so?
2 3	

Compare 4 with the corresponding sentence in 3. They represent two of the three ways the verbal phrase in this construction may occur. (Students are urged to follow the example in 4: i.e. both the infinitive and the verb agree with the ‘grammatical’ subject. See 191.)

5, /kapRaa/, “cloth; a single item of clothing.” /kapRee/, “clothes; pieces of cloth.”

For the “infinitive plus /-waalaa/” construction, see 20. Its use expresses a sense of imminence which won’t be present in the regular future form of the verb.

/banwaanaa/ more explicitly conveys the fact that the speaker will not be sewing the clothes himself, and that he will have a tailor make them. The completive form with /leenaa/ conveys the meaning that the action will be for the benefit of the subject. Note that both the infinitive (used as a complement) and the finite verb, /caahiyeen/, agree with their ‘grammatical’ subject, /kapRee/. (See 190.)

6. The use of the past auxiliary form, /thii/, does not, in this context, suggest that the need is over, rather it communicates that the speaker had indeed felt the need for some time, though not with such urgency as would require the use of a present tense auxiliary.

The use of the future form in the final sentence communicates a stronger conviction on the speaker’s part than would be the case if he had used a subjunctive: /abhii saayad kapRaa sastaa hoo/.

7. /warnaa/, “otherwise,” is a conjunction, and as such it is normally placed at the beginning of the coordinate clause.

There is no difference between /too/ and /too phir/ in their use in conditional sentences. Both are equally common. However in this usage /phir/ receives no phonetic stress. If stressed, it would mean, “again; once more,” and then it would usually come before the verbal phrase. Example: /too daam phir baRh-jaaeeNgee/, “Then the prices will go up again.”

/daam/, a masculine noun, means “rate,” the general price of something or some things, as opposed to /qiimat/, a feminine noun, which refers to the more specific price of an individual item. Here /daam/ refers to the price per yard of the cloth; the specific price of any particular suit-length cut from the bolt would be its /qiimat/. (Also see 7:15.)

### Unit III

- ا۔ آئیے صاحب تشریف رکھیے۔ کیا خدمت کروں؟
- ب۔ پتلون کے لئے کچھ گرم کپڑا دکھائیے۔ کوئی اچھی گیبر ڈین یا ورسٹڈ۔
- ا۔ ضرور۔ یہ گیبر ڈین دیکھیے۔ بائیس روپے گز ہے۔ بالکل نیامال۔ ابھی پرسوں ہی مل سے آیا ہے۔ دل چاہے پتلون بنوائیے، چاہے پورا سوٹ۔
- ب۔ ہاں کپڑا تو اچھا ہے۔ کوئی دوسرے رنگ بھی ہیں؟
- ا۔ جی ہاں، پانچ رنگ ہیں۔ یہ دیکھیے گہرا نیلا۔ اس کے علاوہ لائٹ گرے اور خاکی بھی ہے۔
- ب۔ مجھے تو یہ گہرا نیلا بہت پسند ہے۔ کیا دام بتلایا آپ نے، بائیس روپے؟
- ا۔ جی ہاں بائیس روپے۔ یہ تو ابھی جاڑے سے پہلے کے دام ہیں، سردی شروع ہو گئی تو پھر پچیس سے کم پر نہیں ملے گی۔

### Unit III: Notes

1. A. /aaiyee saahab, taṣriif rakhiyee. kyaa xidmat karuuN?/  
“Please come in, sir. How may I serve you?”
2. B. /patluun-kee liee kuch garm kapRaa dikhaaiyee. kooii acchii gaibarDiin yaa warsTaD./  
“Please show us some woolen cloth. Some gabardine or worsted.”
3. A. /zaruur. yee gaibarDiin deekhiyee. baaiis rupyee gaz hai. bilkul nayaa maal. abhii parsooN hii mil-see aayaa hai. dil caahee patluun banwaaaiyee, caahee puuraa suuT./  
“Certainly. Here, please look at this gabardine. Twenty-two rupees a yard. Totally new material. Came from the factory only the day before yesterday. Have some pants made, if you wish, or perhaps a full suit.”
4. B. /haaN, kapRaa too acchaa hai. kooii duusree rang bhii haiN?/  
“Yes, it’s good fabric. Do you have other colours too?”
5. A. /jii haaN, paaNc rang haiN. yee deekhiyee gahraa niilaa. is-kee alaawaa laaiT-gree aur xaakii bhii hai./  
“Yes sir, five colours. Look at this deep blue. In addition we have light grey and khaki too.”
6. B. /mujhee too yee gahraa niilaa bahot pasand hai. kyaa daam bataayaa aap-nee, baaiis rupyee?/  
“I like this dark blue very much. What did you say the price was? Twenty-two rupees?”
7. A. /jii haaN, baaiis rupyee. yee too abhii jaaRee-see pahlee-kee daam haiN. sardii suruu-hoo-gaii too phir pacciis-see kam-par nahiiN mileegii./  
“Yes sir, twenty-two rupees. This is the price now, before winter. For it won’t be available for less than twenty-five rupees per yard once the weather starts getting cold.”

\*\*

1. Note the use of /saahab/ by itself as a generalized—male or female—term of respectful address

/kyaa xidmat karuuN/ is both respectful and learned. However, one is more likely to hear /kyaa caahiyyee, saahab/ in most such contexts. Also, though the sentence begins with /kyaa/, it is not a ‘yes-or-no’ type question—here /kyaa/ is an interrogative qualifier to /xidmat/. This is again a case of ellipsis, in this case of two pronominal references—the full sentence would be: /maiN aap-kii kyaa xidmat karuuN?/. /xidmat/, a feminine noun, means, “service.” The related verb is /xidmat karnaa/, NF, “to serve X /-kii/; to render some service to X /-kii/.”

2. /patluun/, from “pantaloons,” is singular. It could be either feminine or masculine in Urdu.

/garm kapRaa/, lit. “warm cloth,” is commonly used to refer to woolen fabrics.

3. /baaiis rupyee gaz/ is the predicative complement before the auxiliary /hai/, whose elided subject is /gaibarDiin/. The word for “per” in Urdu is /fii/, which is usually dropped before the words for specific measures such as /gaz/, “yard,” and /kilo/, “kilogram.” It will usually be retained when the reference is to single items.

eek rupyaa fii kitaab	One rupee per book.
fii mazduur sau rupyee	One hundred rupees per labourer.
paaNc rupyee ghanTaa	Five rupees per hour.

Rupee is the coin used in both India and Pakistan; in Bangladesh it is called Taka. It is now sub-divided into 100 paisas. In the coinage before 1947, a rupee, /rupyaa/ or /rupiyaa/, was divided into 16 annas, /aanee/, each further divided into four pice, /paisee/. Similarly, now a metric system is also used for measurements.

/maal/, a masculine noun, means “goods; material.” /nayaa maal/ can imply both the freshness of the material and its new design.

/parsoon/, like /kal/, has both a past and a future meaning: “day before yesterday; day after tomorrow.” Similarly, /narsoon/: “two days before yesterday; two days after tomorrow.”

/dil caahee/, lit. “If [your] heart desires...,” is commonly used to make a polite suggestion, much in the same manner as the English, “If you like then...,” or “If you so desire then...” The final sentence is a good example of extended ellipsis. It actually consists of two conditional sentences, each in turn consisting of two clauses. The full form would be: /agar aap-kaa dil caahee too patluun banwaaiee, aur agar aap-kaa dil caahee too puuraa suuT banwaaiee/. Note that /too/, generally required in conditional sentences, has been elided in these sentences with /dil caahee/. This omission perhaps reduces the cause-effect relationship between the two clauses, making the whole more of a suggestion.

4. /haaN/ is used here more as an interjection than an answer to some question, hence the elision of /jii/. However, in a more formal context, /jii/ would have been retained even in this function.

The difference between /kooii/ and /kuch/ is both quantitative and qualitative. /kooii/ usually occurs before singular nouns, and /kuch/ before plurals. The former also focuses more on the identity of the thing, while the latter is concerned mainly with its quantity. For example, in response to the question, /kooii kitaabeeN haiN?/, “Do you have any books?” we would be told the names of some of the available books, while the question, /kuch kitaabeeN haiN?/, “Do you have some books?” would bring out their number. /kuch/ is also used before singular mass nouns, but /kooii/ almost never. We can say, /kuch paanii diijiyee/, “Please give me some water,” but not /kooii paanii diijiyee/ unless we have a choice of several kinds of water. (Also see 72.)

5. Some other common colours are: /piilaa/, “yellow;” /laal/, “red;” /haraa/, “green;” /safeed/, “white;” and /kaalaa/, “black.”

/gahraa/ usually means “deep; having some depth”, but in the context of colours it means “dark.” The opposite of it is /halkaa/, “light,” which in other contexts means “light in weight.” Examples: /gahraa niilaa/, “dark blue,” /gahrii doostii/, “deep friendship;” /halkaa niilaa/, “light blue,” /halkaa sanduuq/, “a light trunk.”

6. /pasand/ is both a feminine noun and an adjective. As a noun, it means “preference; liking.” As an adjective, it is never used in the modifier function; it occurs only in the complement function in three verbs:

/pasand-karnaa/, N, “to like.” (Direct Construction)

/pasand-hoonaa/, K, “to like.” (Indirect construction; ‘real’ subject marked with the postposition /-koo/.)

/pasand-aanaa/, K, “to like.” (Indirect construction; ‘real’ subject marked with the postposition /-koo/.)

As is the case with direct constructions, with /karnaa/ the focus is on the action of the subject—the subject’s volitional act of ‘liking’, not the ‘agreeableness’ of the object. With /aanaa/ and /hoonaa/, the perspective is shifted: now the object becomes the ‘grammatical’ subject of the verb and consequently draws more attention. It is now the object which “does, or is something.” With /pasand/, /hoonaa/ mostly occurs in its two auxiliary forms, to describe a ‘state’ spread over some time (present or past), or in the imperfect participle, to make ‘contrary-to-fact’ conditional sentences. /pasand-aanaa/ is used when the speaker wishes to suggest some ‘process’ or ‘action’ with reference to something specific and some specific or restricted time. Consider the following examples:

1. /maiN-nee aam pasand-kiyee/: As a direct construction, it underscores that what happened was a volitional act on the part of the subject. Hence, depending on the context, its situational equivalents in English would be: (1) “I approved the mangos.” (2) “I preferred or chose the mangos.” It would not be considered a suitable equivalent to the English, “I liked the mangos.” In fact, if used for that purpose, it might be taken as too egocentric.

2. /mujhee aam pasand-thee/: This describes a state of things over a period time in the past, hence it is equivalent to the English, “I used to like mangos.”

3. /mujhee aam pasand-aaee/: The perfect participle of /aanaa/ emphasises that it was a single complete act of ‘liking’. Hence it would be translated as “I liked the mangos.” The sentence, with /aam/ as its ‘grammatical’ subject, would also underscore their quality.

7. /jaaRee-see pahlee/, “before the winter,” is an adverbial phrase from which an adjectival phrase is made by adding the possessive postposition /-kaa/. This is commonly done in Urdu. Examples: /yahaaN-kaa kaam/, “the work that needs to be done here;” /jaldii-kaa kaam/, “a work done in haste;” /eek ghanTee-kaa kaam/, “an hour’s work.”

The final sentence is a future conditional. Note the perfect participle in the conditional clause; it indicates the speaker’s certainty regarding that future ‘conditioning’ event—‘the winter’s start’—while the future form in the main clause indicates his certainty regarding the ‘conditioned’ event: the prices going up.

/pacciis-see kam-par/ is an adverbial phrase, made by adding /-par/ to the adjectival phrase, /pacciis-see kam/, “less than twenty-five.”

/see/ is used for comparative function with adjectives, including numbers. Examples: /saliim ahmad-see baRaa hai/, “Saleem is bigger than Ahmad.” /das-see zyaadaa laRkiyaaN/, “more than ten girls.”

In comparative sentences, one often comes across a striking ellipsis. Consider the following sentences:

tumhaaraa kaam un-see acchaa hai  
aap-kaa ghar too mujh-see bhii  
zyaadaa duur hai

Your work is better than his.  
Your house is more distant than  
mine.

In the first sentence, /un-kee kaam-see/ has been abridged to /un-see/, not /un-kee-see/. In the second, /meeree ghar-see/ has been replaced with /mujh-see/. In both cases, the context, not the literal meaning, makes the reference clear. Such ellipses are fairly common in

Urdu, though only in shorter sentences and usually where the context is clear enough.  
(Students should not try to use this ellipsis in the beginning, instead they should use fuller sentences.)

## Unit IV

- ا۔ آپ کی کیا رائے ہے، شکیل صاحب۔ یہ گبر ڈین ٹھیک رہے گی سوٹ کے لئے؟
- ب۔ سوٹ تو بہت اچھا بنے گا اس کا۔ دام بھی مناسب ہیں۔
- ا۔ ہاں، کوئی سوا سو میں سوٹ تیار ہو جائے گا۔ تین گز لگے گا نا؟
- ج۔ جی ہاں، تین گز آپ کے سوٹ کے لئے کافی ہوگا اور آپ صاحب، آپ سوٹ نہیں بنوا رہے ہیں اس سال؟
- ب۔ نہیں سوٹ تو نہیں۔ ہاں ایک پتلون ضرور بنوانی ہے۔ کوئی سیاہ ور سٹڈ ہو آپ کے پاس تو دکھائیے۔
- ج۔ یہ دیکھیے۔ بہت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ محض انیس روپے گز۔
- ب۔ ایک دام؟
- ج۔ اب آپ سے کیا مول تول کریں گے صاحب۔ آپ تو پرانے گاہک ہیں۔
- ب۔ اچھا تو ایک پتلون کے لئے دے دیجیے۔



## Unit IV: Notes

1. A. /aap-kii kyaa raaee hai, sakiil saahab. yee gaibarDiin Thiik-raheegii suuT-kee liee?/  
“What do you think, Shakil Sahib? Will this gabardine be all right for a suit?”
2. B. /suuT too bahot acchaa baneegaa, is-kaa. daam bhii munaasib haiN./  
“It would certainly make a fine suit. The price is right too.”
3. A. /haaN, kooii sawaa sau-meeN suuT tayyaar-hoo-jaaegaa. tiin gaz lageegaa naa?/  
“Yes, the suit would altogether cost about a hundred and twenty-five rupees. It would take three yards, won’t it?”
4. C. /jii haaN. tiin gaz aap-kee suuT-kee liee kaafii hoogaa. aur aap saahab, aap suuT nahiiN banwaa-rahee haiN is saal?/  
“Yes sir, three yards should be enough for your suit. And you sir, aren’t you getting a suit made this year?”
5. B. /nahiiN, suuT too nahiiN, haaN eek patluun zaruur banwaanii hai. kooii siyaah warsTaD hoo aap-kee paas too dikhaaiyee./  
“No, not a suit, but I do need to get a pair of pants made. Please show me if you have any black worsted.”
6. C. /yee deekhiyee. bahot hii aalaa ciiz hai. mahez unniis rupiyee gaz./  
“Here, sir, take a look. It is of very superior quality. And only nineteen rupees a yard.”
7. B. /eek daam?/  
“That’s the only price?”
8. C. /ab aap-see kyaa mool-tool kareeNgee saahab. aap too puraanee gaahak haiN./  
“Why would we haggle with you, sir? You are an old customer.”
9. B. /acchaa too eek patluun-kee liee dee-diijiyee./  
“O.K. Please give me a pants’ length.”

\*\*

1. Note the placement of /kyaa/—it is placed as a modifier before /raaee/ rather than as its predicative complement before /hai/. This is the preferred—idiomatic—usage with /kyaa/ and kaun/ in equational sentences. /aap-kii raaee kyaa hai?/, however, is equally correct grammatically. One can also use /raaee/ in an adverbial phrase: /aap-kii raaee-meeN/, “in your opinion.” In the latter usage, /raaee/, “opinion,” would imply something more formal than /xayaal/, “idea; thought.”

aap-kii raaee-meeN yee kitaab kaisii  
hai

How is this book in your judgment?

aap-kee xayaal-meeN yee kitaab  
kaisii hai

How do you think this book is?

The inversion in word order in the final sentence effectively makes the latter into two questions, placing more emphasis on the second: “Will this gabardine be all right?” And, “Particularly for a suit?”

/Thiik raheegii/, “will remain right,” carries a more durative effect than /Thiik hoogii/, “will be right”—in other words, “will it turn out to be right [over time].” Consider the following:

maiN wahaaN caar baras karniḡnar rahaa	I was the Commissioner there for four years
woo gaibarDiin acchii rahii	That gabardine turned out to be good.
woo Tiicar kaisaa raheegaa?	How would he turn out as a teacher?

Note that in the first two sentences /rahnaa/ is replacing /hoonaa/ in the latter’s meaning of “to be,” i.e. the perfect participles of /rahnaa/ are replacing the past auxiliary forms of /hoonaa/, and not its perfect participle forms. (/maiN karniḡnar huua/ would mean “I became a Commissioner.”) In all three, the use of /rahnaa/ adds a durative nuance to some state that came (or comes) to be at some particular time. Compare the following two sentences:

meeree xayaal-meeN woo acchaa Tiicar hoogaa	I think he must be a good teacher. [‘He’ already has been a teacher for some time.]
meeree xayaal-meeN woo acchaa Tiicar raheegaa	I think he will turn out to be a good a teacher. [Either ‘he’ was just made a teacher or might be made soon.]

2. /bannaal/, “to be made,” is an active intransitive verb in Urdu. It is occurring here with /acchaa/, an adjective, as its predicative complement—i.e. /acchaa/ agrees with the subject in gender and number. The primary meaning of /bannaal/ is retained in these ‘equational’ sentences where an adjective would be used to describe the state in which the subject would be after being ‘made’.

3. /sawaa/ is used with numbers, weights, and measures, and means “the particular number, weight, or measure plus a quarter of it.” (See 39.)

Note the use of /meeN/ in the adverbial phrase, /sawaa sau-meeN/, “within [Rs.] 125.” It is in accord with this postposition’s primary meaning: “within the defined limits of something.” (The limits or boundaries may be concrete or abstract, set in space or time.)

/tayyaar/, “ready; prepared,” is used in two common verbs: /tayyaar-hoonaa/, “to get ready;” and /tayyaar-karnaal/, “to get something ready.” The related feminine noun, /tayyaarii/, “preparation,” is also used in a verb /tayyaarii karnaal/, NF, “to make preparations for X /-kii/.”

ham khaanee-kee liee tayyaar-huee	We got ready for the meal.
ham-nee khaanaa tayyaar-kiyaa	We prepared the meal. We got the meal ready.
ham-nee khaanee-kii tayyaarii kii	We made preparations for the meals.
ham-nee khaanee-kee liee tayyaarii kii	We got ready for the meal.

Compare the last two sentences. The first, for example, could mean that we got the meal’s ingredients together, while the second would mean that we showered and got dressed.

*/lagnaas/* has no primary meaning though it is used in several common constructions. (See 225.) Here it is used with */gaa/* as its subject. In this usage it may be understood to mean: “to be used or spent in [‘achieving’] X */-meeN/*.” Thus the full sentence could have been: */suuT-meeN tiin gaa kapRaa lageegaa naa?/*, “Three yards of cloth would be used to make the suit, wouldn’t it?” This very common construction may be used with reference to time and money too.

wahaaN jaanee-meeN doo minaT lagee	It took two minutes to go there.
makaan-meeN kitnaa paisaa lagaa?	How much did the house cost?
mujhee wahaaN jaanee-meeN doo minaT lagee	It took me two minutes to go there.

Compare the first sentence with the third and note how the latter has been expanded by using the postposition */-koo/*.

*/lagaanaa/*, the transitive form of */lagnaas/*, is also used in a similar manner. Compare the following sentence with the third above.

maiN-nee wahaaN jaanee-meeN doo minaT lagaee	I spent two minutes on going there.
---	-------------------------------------

4. */kaafii/*: “enough; sufficient; a fair amount.” Examples: */caar gaa kaafii hai/*, “Four yards is enough.” */aaj mujhee kaafii kaam hai/*, “I have quite a bit of work today.”

Note how, in the second sentence, */is saal/* has been put at the end almost as an afterthought, but also to give the phrase some emphasis.

5. */haaN/* is used here more as a conjunction, something like */albattaa/*, “however.” The latter’s use would have been too emphatic in this context.

*/siyaaH/* would be considered a more educated word for “black,” than */kaalaa/*. Other such words are: */sabz/*, “green;” */surx/*, “red;” and */zard/*, “yellow.”

6. Note the special spelling of */aalaa/*, a loan-word from Arabic.

*/hii/* is added to */bahot/* to make the explicator extra forceful.

*/mahez/* differs from */sirf/* in that it carries more of a qualitative connotation, whereas */sirf/* is more quantitative. Something like the distinction between “merely” and “only” in certain contexts in English.

7. */eek daam?/*, an idiomatic phrase, can be best translated as: “Is this going to be the only price, or can we bargain?” Another example: */eek daam bataaiyee/*, “Please tell me the final [lowest possible] price.”

8. The first sentence illustrates another use of an unstressed */kyaa/*. (The first was its use at the beginning of a sentence to make it into a ‘yes-or-no’ type question.) If */kyaa/* occurs unstressed in the middle of a sentence, with the sentence stress on some other word, usually preceding or following */kyaa/*, and, sometimes, also with a quick pitch rise and fall at the end, the sentence becomes a rhetorical question that actually implies a complete negation of the statement it makes. For example, the sentence */aap-see mool-tool kareeNgee saahab/*, “We’ll bargain with you, sir,” can be turned into two rhetorical questions. (In each case below, the stressed word has been underlined. Also see 218.)

<u>aap-see</u> kyaa mool-tool kareeNgee saahab	How can we bargain with <u>you</u> , sir? [There is no way we can.]
aap-see kyaa <u>mool-tool</u> kareeNgee saahab	You think we’ll <u>bargain</u> with you? [There is no way we will.]

/mool-tool/, a masculine noun, “the act of bargaining.” It is also pronounced /mool-taul/. /mool/, “price.” /taul/, “measure of weight,” from /taulnaa/, “to weigh.” (See 216.)

/aap too puraanee gaahak haiN/, “You are an old customer.” /puraanaa/ is not used when the inference is about the actual age of something animate. One uses /buuRhaa/, “old, aged,” in the latter context. In other words, /puraanaa/ is the opposite of /nayaa/, “new,” while /buuRhaa/ is the opposite of /jawaan/, “youthful.”

## Unit V

# ہمارا مکان

یہ ہمارا مکان ہے۔ اس میں میں اور میرا چھوٹا بھائی رہتے ہیں۔ مکان کے آگے برآمدہ ہے۔ اُس کے پیچھے دو کمرے، ایک میرا، ایک میرے بھائی کا۔ اندر آنگن ہے، جس میں ایک طرف<sup>۱</sup> باورچی خانہ<sup>۲</sup> ہے اور دوسری طرف کونے میں غسل خانہ اور پاخانہ۔ کھانے کا کمرہ الگ نہیں۔ باورچی خانے میں ہی<sup>۳</sup> ایک تخت پڑا ہے جس پر بیٹھ کر<sup>۴</sup> ہم کھانا کھاتے ہیں۔ رات کو ہمارا باورچی اسی<sup>۵</sup> تخت پر سوتا ہے۔ میرے اور میرے بھائی کے کمروں میں سونے کے لئے پٹنگ ہیں اور کام کرنے اور بیٹھنے کے لئے میزیں اور کرسیاں۔

میں شہر میں ایک بینک میں کام کرتا ہوں۔ میرا بھائی کالج میں پڑھتا ہے۔ یہ مکان کالج کے بالکل پاس<sup>۶</sup> ہے اور بینک سے بھی دُور نہیں۔ سائیکل سے جانے میں دس منٹ لگتے ہیں۔<sup>۷</sup> کرایہ بھی زیادہ نہیں کیونکہ<sup>۸</sup> مکان کے مالک میرے والد کو جانتے ہیں۔ کتنا اچھا ہو اگر خدا سب کو ایسے نیک مکاندار اور ایسا اچھا مکان دے۔

## Unit V: Notes

1. /*taraf*/, a feminine noun, means “direction, side.” It is also used adverbially, hence the oblique case. /*eek taraf*/, “on one side.”
2. /*baawarcii-xaanaa*/: “kitchen; lit. cook-house.” /*xaanaa*/ means “house” in Persian. It may be used to form compounds in Urdu with even non-Perso-Arabic words. Examples: /*mooTar-xaanaa*/, “garage,” /*taaRii-xaanaa*/, “toddy-house.”
3. /*baawarcii-xaanee meeN hii*/: “in the kitchen itself.” The use of /*hii*/ was necessary after the preceding sentence about there being no separate dining room; without /*hii*/ the sentence wouldn’t have the proper emphasis.
4. /*paRnaa*/: “to lie; to be placed casually.” In these meanings, /*paRnaa*/ usually occurs with inanimate subjects, and only in present perfect, past perfect and future perfect constructions.

kamree-meeN eek taxt paRaa hai	There is a <i>takht</i> in the room.
saarii kitaabeeN meez-par paRii thiiN	All the books were lying on the table.

If we wish to eliminate the sense of ‘casualness’, implied by the use of /*paRnaa*/ in the above, we can say:

kamree-meeN eek taxt bichaa hai	There is a <i>takht</i> laid out in the room.
saarii kitaabeeN meez-par Rakhii thiiN	All the books were placed on the table.

(See 167.)

5. /*baiTh-kar*/ is the conjunctive participle of /*baiThnaa*/ (See 97.)
6. /*usii taxt-par*/: “on that same *takht*..”  
/usii/ = /us/ + /hii/. Similarly, /isii/ = /is/ + /hii/. Their direct case forms are /wahii/ and /yahii/ from /woo/ and /yee/, respectively. The plural forms of /usii/ and /isii/ are /unhii/ and /inhii/, written optionally with /chooTii hee/ or /doo-casmii hee/. In writing, the latter is often confused with /unhiiN/, which is in fact a combination of /unhooN/ and /hii/. (See 213.)
7. /*duur*/ and /*paas*/ are used adverbially either alone or conjointly with a preceding postposition, namely /-see duur/ and /-kee paas/, respectively.

kaalij-see duur	far from the college
baink-kee paas	near the bank

In a sentence such as /*baink kaalij-see paas hai*/, /-see/ and /*paas*/ are not occurring conjointly, but in separate adverbial functions. The sentence would mean: “From the college, the bank is quite near.”

8. /*jaanee-meeN das minaT lagtee haiN*/: “It takes ten minutes to go.” Lit. “Ten minutes are used.” /*lagnaa*/, among other things, means “to be spent or used up; to cost,” in which case it requires an indirect construction: the subject in the English situational equivalent will be marked by the postposition /-koo/.

namaaz-meeN das minaT lagee	The prayers took ten minutes.
mujh-koo namaaz-meeN das minaT lagee	It took me ten minutes to pray.
makaan banwaanee-meeN kitnaa rupiya lageegaa	How much money would it take to get the house built?

Note the use of /-meeN/ in the above sentences. (See 3:4; 225.)

9. /kyooNki/ is to be learned together with /cuuNki/. (See 223.) Both words mean “because, since,” but they are used differently. /cuuNki/ occurs at the beginning of a sentence and requires the second clause to begin with /is liyee/, “therefore.” /kyooNki/, on the other hand, never occurs at the beginning: the clause containing it always occurs as the second in a sentence.

cuuNki bas nahiiN aaii is liyee maiN kaaliij nahiiN jaa-sakaa/

maiN kaaliij nahiiN jaa-sakaa kyooNki bas nahiiN aaii/

Both sentences mean: “I couldn't go to the college because the bus didn't come.”

10. /xudaa/: “God; god.” In Urdu, /allaah/ exclusively refers to God of Islam, while /xudaa/ is used to refer to God in all traditions. The latter also means “god.” When used for “God,” /xudaa/ is always singular and masculine. Note the form of the verb in the text, it is /dee/, not /deeN/. Similarly, God will be addressed in the exclusively singular form: /tuu/. For example: /ai xudaa, tuu rahiim hai/, “God, you're Merciful.” (See 24, 87.)

With Allah, however, a more polite and intimate form may be used in Urdu by adding the word /miyaaN/, “master”: /allaah miyaaN/. This polite phrase is mostly used by children and women. With /allaah miyaaN/, the gender and number agreement in verbs and adjectives will be masculine and plural. (See 14:30.)

## Exercises

### A. Situational Variants.

یہ میرا مکان ہے۔ اس میں اور میرا چھوٹا بھائی دونوں رہتے ہیں۔ ہر آمدے کے پیچھے ہم دونوں کے کمرے ہیں۔ مکان کے اندر آنگن ہے۔ آنگن کے ایک طرف باورچی خانہ ہے اور دوسری طرف کونے میں غسل خانہ ہے اور پاس ہی پاخانہ۔ کھانے کا کمرہ نہیں ہے۔ باورچی خانے کے اندر ایک تخت ہے اور ہم دونوں اُس پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ رات کو ہمارا نوکر، باورچی خانے کے تخت پر سوتا ہے۔ ہم دونوں کے کمروں میں سونے کے لئے پلنگ ہیں۔ ہمارے کمروں میں کام کرنے اور بیٹھنے کے لئے میزیں اور کرسیاں ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی کالج میں پڑھتا ہے۔ ہمارا مکان کالج سے دور نہیں ہے اور بینک کے بھی پاس ہی ہے۔ سائیکل سے جانے میں دس منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ چونکہ مکاندار کو ہمارے والد جانتے ہیں اس لئے کرایہ بھی کم ہے۔

1. دونوں	doonooN	both; the two
2. ہم دونوں	ham doonooN	both of us
3. نوکر	M naukar	servant
4. چونکہ	cuuNki	because
5. کم	kam	less

### B. Translate into English.

کمرے کے آگے دو سائیکلیں ہیں، ایک میری، ایک میرے بھائی کی۔ میں شہر میں ایک کالج میں پڑھتا ہوں۔ میرا بھائی شہر میں ایک اسکول میں پڑھتا ہے۔ وہ مکان کالج سے بہت زیادہ دور ہے۔ کالج کے پاس مکانوں کا کرایہ زیادہ ہے۔ کمرے کے پیچھے آنگن نہیں ہے۔ اُس کے ایک



طرف باورچی خانہ ہے، دوسری طرف غسل خانہ۔ باورچی خانہ میں ہی ایک کھانے کی میز اور دو کرسیاں ہیں۔ میں اپنے کمرے میں ایک تخت پر سوتا ہوں۔ میں اس مکان کے مالک کو جانتا ہوں۔ وہ اس شہر میں نہیں رہتے کیونکہ وہ شہر سے دور ایک بینک میں کام کرتے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی سائیکل پر اپنے اسکول جاتا ہے۔ اسکول مکان سے کچھ دور ہے۔ اس کے اسکول کے بالکل پاس ہی میرا کالج ہے۔ اس مکان میں وہ صاحب رہتے ہیں۔ برآمدے میں دو لڑکیاں ہیں، ایک نجمہ ایک اس کی دوست۔ مجھ کو اسکول جانے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے۔ تم چاروں اس مکان میں رہو گے۔ وہ تینوں لڑکیاں میری دوست ہیں۔ ہمارے پاس اچھی کرسیاں نہیں۔ میں احمد کا گھر نہیں جانتا۔ مجھے احمد کا گھر معلوم نہیں۔ کیا تم میرے بھائی احمد کو جانتے ہو۔ مجھے کتاب پڑھنے میں ایک گھنٹہ لگا۔ تم کو اس کام میں کتنا وقت لگے گا۔ مجھے اس آدمی کا نام معلوم نہیں۔ میں نجمہ کے ساتھ رہوں گی کیونکہ وہ میری دوست ہے۔ چونکہ یہ مکان بڑا ہے اس لئے اس کا کرایہ بھی زیادہ ہے۔

### C. Fill in the blanks.

یہ ..... مکان ہے۔ اس میں ..... اور میرا چھوٹا بھائی ..... مکان کے آگے برآمدہ ..... کھانے ..... کمرہ الگ نہیں۔ باورچی خانے میں ..... ایک تخت پڑا ہے جس پر بیٹھ کر ہم کھانا ..... رات کو ..... باورچی ..... تخت پر سوتا ہے۔ میرے اور ..... بھائی کے کمرے میں سونے کے لئے پلنگ ..... اور کام کرنے اور بیٹھنے کے لئے ..... اور ..... یہ مکان کالج کے ..... پاس ہے اور بینک سے بھی ..... نہیں۔ سائیکل ..... جانے میں دس منٹ ..... ہیں۔ کتنا اچھا ہو اگر خدا سب کو ..... نیک مکاندار اور ایسا اچھا مکان .....۔

### D. Translate into Urdu.

- I. This is your brother's house. II. My father and I will live in this house.
- III. There is no verandah in front of the house. IV. There are two bedrooms, a dining room, a kitchen, two bathrooms and two toilets in this

house. V. I sleep on a cot in my bedroom. VI. My brother works in the city in a bank. VII. He goes to the bank on a bicycle, and it takes him thirty minutes. VIII. We do not know the owner of this house. IX. We live here because our school is here. X. The price of the cloth is not much. XI. This work will take many days. XII. I know Ahmad's new shop. XIII. Both these houses are Najma's. XIV. All the three books are very good. XV. Do you know her sister?

**E. Answer the following in Urdu.**

۱- یہ کس کا مکان ہے ؟ ۲- اس مکان میں کون رہتا ہے ؟ ۳- مکان کے آگے کیا ہے ؟  
۴- آنگن کہاں ہے ؟ ۵- باورچی خانہ کہاں ہے ؟ ۶- کیا کھانے کا کمرہ الگ ہے ؟ ۷- آپ  
کے مکان میں کتنے کمرے ہیں ؟ ۸- کالج میں کون پڑھتا ہے ؟ ۹- کیا مکان کالج اور بینک سے  
دور ہے ؟ ۱۰- مکان کا کرایہ کیوں زیادہ نہیں ؟

## Unit VI

# دو بکرے

ایک دن ہم ندی پر گئے! ندی پر لکڑی کا چھوٹا سا پل تھا۔<sup>۱</sup> پل بہت چوڑا نہ تھا۔ بس ایک آدمی جاسکتا تھا۔ ہم وہاں کھیل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد<sup>۲</sup> دیکھا کہ ایک بکرا ادھر سے چلا جا رہا ہے<sup>۳</sup> اور ایک ادھر سے آ رہا ہے۔ دونوں بکرے پچوں<sup>۴</sup> میں پہنچ گئے۔ اب جائیں تو کیسے جائیں؟ اگر لڑتے ہیں تو ندی میں گر جاتے ہیں۔<sup>۵</sup> ایک بکرے نے دوسرے سے کہا ”میں پل پر بیٹھ جاتا ہوں تم میری پیٹھ پر سے<sup>۶</sup> چلے جاؤ۔“

دوسرا بکرا راضی ہو گیا۔ پہلا بکرا بیٹھ گیا اور دوسرا اس کی پیٹھ پر سے گذر گیا۔ پھر پہلا بکرا اٹھا اور اس پار آ گیا۔ بکرے نے ہمیں دیکھا اور ہمارے پاس آ گیا۔ بتاؤ یہ کس کا بکرا ہے؟ یہ ہمارا بکرا ہے۔ دیکھو ہمارا بکرا کیسا ہوشیار ہے۔

## Unit VI: Notes

1. With several verbs for 'movement', for example *jaanaa/*, */aanaa/*, and */pahoNcnaa/*, */-par/* is used in the sense of "to" or "at" with reference to some 'place', but not obligatorily. For some people, however, the use is required with reference to bodies of water (river, pond, lake, well). In other words, they may say, */ahmad dukaan gayaa/*, "Ahmad went to the store," but only */ahmad nadii-par gayaa/*, "Ahmad went to the river."

2. The use of */saa/* or its other two forms (*/see/* and */sii/*) after an adjective or explicator reduces any absoluteness in the original meaning. Thus */bahot/* may imply excess, but */bahot see/* suggests only a multiplicity. With singular nouns, the shift would be from definiteness to indefiniteness. Compare the following pairs of sentences:

<i>wahaaN bahot loog thee</i>	There were a whole lot of people there.
<i>wahaaN bahot see loog thee</i>	There were quite a few people there

<i>mujhee acchii kitaab diijiyee</i>	Give me the good book.
<i>mujhee acchii sii kitaab diijiyee</i>	Give me a good book.

<i>yee khaanaa xaraab hai</i>	This food is bad.
<i>yee khaanaa xaraab saa hai</i>	This food is slightly bad.

(See 81.)

3. With measures of time, */baad/* may occur by itself without a preceding */-kee/*.  
*/thooRii deer-baad/ = /thooRii deer-kee baad/* "After a while..."  
*/eek ghanTee-baad/ = /eek ghanTee-kee baad/* "After an hour..."

Note that in the second example, */ghanTee/* is still in the oblique case.

4. */calaa-jaanaa/*: "to go; to go away." */calaa/*, here, will be inflected like a marked adjective to agree with the subject in gender and number.

<i>laRkii calii-jaa-rahii thii</i>	The girl was going along.
<i>laRkee calee-gayee</i>	The boys went away.

5. */biicooN-biic-meeN/*: "...right in the middle..." A more emphatic statement than simply */biic-meeN/*.

<i>saRak-kee biic-meeN</i>	In the middle of the road....
<i>saRak-kee biicooN-biic-meeN</i>	Right in the middle of the road....

6. */agar laRtee haiN too nadii-meeN gir-jaatee haiN/*: "If they were to fight now they'd fall into the river." The conditional or causal effect is provided by */agar/* and */too/*, while the use of the present imperfect construction in both clauses makes the statement true for more than one instance. (Also see 221.)

7. The use of */jaanaa/* in */gir-jaatee haiN/* in the preceding sentence and in */baiTh-jaataa huuN/* here is what we call its 'completive' function. (See 162 and 163.)

8. */meerii piiTh-par see/*: "...over my back..." Note the use of two postpositions—a very explicit way to indicate that in Urdu the action has two parts. In the first, the subject comes 'on' the back, then in the second it moves 'away from' the back. Similarly, a combination of two postpositions, */-meeN see/*, is also used in Urdu to communicate first

the location ('within') of something and then a movement away from that location. For example: /kamree-meeN see jaaoo/, "Go through the room." Often in such sentences, the adverbial phrase will be followed by /hoo-kar/, the conjunctive participle of /hoonaa/, to make the meaning, "via," unambiguous. Compare the following two sentences:

chat-par see hoo-kar calee-jaaoo	Go by the way of the roof.
chat-par see calee-jaaoo	Go away from the roof.

Also compare the following:

kamree-meeN see kitaabeeN laaoo	Bring the books that are in the room.
kamree-meeN see hoo-kar kitaabeeN laaoo	Bring the books through the room.

(See 209. Also see 9:10.)

9. /duusraa/: "the second; the other." (See 37.)

## Exercises

### A. Situational Variants.

ندی پر لکڑی کا بڑا سا پل نہیں تھا۔ یہ پل بہت تنگ تھا۔ اس پر ایک ہی آدمی چل سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد دیکھا کہ ایک بکرا ادھر سے جا رہا ہے اور دوسرا بکرا ادھر سے آرہا ہے۔ دونوں بکرے پل کے بیچ میں ملے۔ ایک نے دوسرے سے کہا ”میں پل پر لیٹ جاتا ہوں تم مجھ پر سے گذر جاؤ۔“ دوسرا بکرا مان گیا۔ تب پہلا بکرا لیٹ گیا اور دوسرا اُس پر سے گذر کر اُس پار چلا گیا۔ بعد میں پہلا بکرا اٹھ کر ادھر آ گیا، اور مجھے دیکھ کر میرے پاس چلا آیا۔ کہو یہ کس کا بکرا ہے؟ یہ میرا بکرا ہے۔ دیکھو میرا بکرا کتنا ہوشیار ہے۔

1. تنگ	tang	narrow
2. ملنا	milnaa	to meet with X /-see/
3. لیٹنا	leeTnaa	to lie down
4. مان جانا	maan-jaanaa	to agree
5. تب	tab	then
6. بعد میں	baad-meeN	afterward

### B. Translate into English

تھوڑی دیر ہوئی وہ ندی پر گئے۔ ندی پر لکڑی کا ایک بڑا پل تھا۔ پل بہت چوڑا تھا اور اُس پر بہت سے آدمی چل سکتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ دو سائیکلیں ادھر سے جا رہی ہیں اور ادھر سے چار آدمی آرہے ہیں۔ نجمہ ایک گھنٹہ ہو ایساں آئی ہے۔ اب ہم اس پار سے اُس پار

کیسے جائیں؟ دوسرا بکرا راضی نہیں ہوا۔ اگر دونوں لڑیں گے تو ندی میں گر جائیں گے۔ میرے والد کل شہر سے میرے پاس آگئے۔ اس پل پر سے بس ایک آدمی گذر سکتا تھا۔ اسکول کے پاس بہت سے لڑکے کھیل رہے تھے۔ ان کے والد کو وہاں دیکھ کر میں ان کے پاس چلا گیا۔ وہ پل کے بیچوں بیچ بیٹھ گیا۔ میں نے ان سے کہا تو وہ مان گئے۔ یہاں بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ جب میں ان سے ملا تو وہ پڑھ رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم ندی پر جائیں گے۔ تب آپ نے کیا دیکھا۔ وہ مکان مجھے پسند ہے کیونکہ ندی کے پاس ہے۔ ان کی دوسری کتاب کیسی ہے۔ مجھے ان کی پہلی کتاب زیادہ پسند ہے۔ آپ وہاں کس سے ملیں گے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ یہاں کب آئی۔ وہ پلنگ پر لیٹ کر سو گیا۔ پل پر سے کالج جانے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے۔ وہ کل آنے پر راضی ہو گیا۔ ہم احمد سے ملنے پر راضی نہیں ہوں گے۔ ہماری بس اس پل پر سے جاتی ہے۔ جب تم اس سے کہو گی تو وہ مان جائے گی۔ ان کی دکان بازار کے بیچ میں ہے۔ اس کی چھوٹی بہن بہت ہوشیار ہے۔

### C. Fill in the blanks.

..... دن ہم ندی پر گئے۔ ندی..... لکڑی کا چھوٹا سا پل.....۔ پل بہت..... نہ تھا۔ بس ایک..... جاسکتا تھا۔ ہم وہاں کھیل..... تھے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا..... ایک بکرا ادھر..... چلا جا رہا ہے اور ایک..... سے آ رہا.....۔ دونوں بکرے بیچوں..... میں پہنچ گئے۔..... جائیں تو کیسے.....؟ اگر..... ہیں تو ندی میں..... ہیں۔ ایک..... نے دوسرے سے..... ”میں پل..... بیٹھ جاتا..... تم میری..... پر سے.....“ دوسرا اُس کی پیٹھ..... گذر گیا۔ بکرے نے..... دیکھا اور ہمارے..... آ گیا۔

### D. Translate into Urdu.

I. One day we went to the river. II. There was no bridge on that river. III. We shall go via the bridge. IV. The river was not very wide. V. Two men reached the middle of the river. VI. After some time I saw that my brother was coming over from that bank to this bank. VII. Both men sat down on the wooden bridge. VIII. My sister arrived today. IX. The first

man got up and went to that side. X. My father saw me and came near me. XI. What did one girl say to the other? XII. Your brother will come here after a little while. XIII. His second house was better than the first. XIV. Your younger brother is very smart. XV. They didn't agree to come.

**E. Answer the following in Urdu.**

۱- ایک دن آپ کہاں گئے؟ ۲- ندی پر کیا تھا؟ ۳- کیا یہ پل تنگ تھا؟ ۴- آپ ندی کے پاس کیا کر رہے تھے؟ ۵- تھوڑی دیر بعد آپ نے کیا دیکھا؟ ۶- اگر وہ بکرے لڑتے تو کیا ہوتا؟ ۷- ایک بکرے نے دوسرے سے کیا کہا؟ ۸- کیا دوسرا بکرا راضی ہو گیا؟ ۹- پھر دونوں بکروں نے کیا کیا؟ ۱۰- آپ کا بکرا کیسا ہے؟



## Unit VII

### بہادر لڑکا

ریل سیٹیاں بجاتی<sup>۱</sup>، دھواں اڑاتی چلی جا رہی تھی۔ اُس نے چوڑے چوڑے<sup>۲</sup> میدان طے کیے۔ ہرے بھرے کھیتوں سے گذری۔<sup>۳</sup> وہ پہاڑیوں کے اوپر گئی۔ اندھیرے دروں میں سے ہو کر<sup>۴</sup> نکلی۔ بڑے بڑے پل اور دریا پار کیے اور سیٹی بجاتی، دھواں اڑاتی آگے نکل گئی۔<sup>۵</sup>

راستے میں ایک دریا تھا۔ دریا کے اوپر پل تھا اور پل کے اوپر ریل کی پٹی۔ کسی طرح پل میں آگ لگ گئی۔<sup>۶</sup> ایک لڑکے نے دیکھا کہ پل جل رہا ہے۔ اُس نے ریل کی سیٹی سنی۔ اُس نے ریل کے پیوں کی آواز سنی۔ سوچا کہ ریل پل کی طرف آرہی ہے۔ ریل میں سینکڑوں آدمی بیٹھے ہیں۔ اُن میں بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی۔ ریل پل پر آئے گی۔ پل دریا میں گر پڑے گا۔<sup>۷</sup> ریل بھی گر پڑے گی۔ سینکڑوں آدمی مرجائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ پل کے کنارے کھڑا<sup>۸</sup> ہو گیا۔

ریل اب بھی سیٹیاں بجاتی چلی آرہی تھی۔ لڑکے نے اپنا کرتا اتارا۔ پٹیوں کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ کرتے کو جلدی جلدی<sup>۹</sup> ہلانے لگا۔<sup>۱۰</sup> ریل سیٹی دیتی رہی۔ وہ اپنا کرتا ہلاتا رہا۔ ریل سیٹی دیتے دیتے تھک گئی۔<sup>۱۱</sup> ریل چلانے والے<sup>۱۲</sup> نے ریل روک دی۔ پل جل کر گرا۔ لڑکا بھی اُس کے ساتھ دریا میں گر پڑا۔ وہ مر گیا۔<sup>۱۳</sup> ریل نہیں گری اور سینکڑوں آدمیوں کی جان بچ گئی۔

## Unit VII: Notes

1. In this unit we exemplify several ways of expressing two actions performed by the same subject. (See 103-106.)

2. /cauRee cauRee maidaan/: “many broad open fields.” The repetition of an adjective adds the sense of multiplicity, hence it occurs only with plural nouns. Since Urdu does not have a definite article, a repeated adjective before a plural noun also makes the latter indefinite. For example, /acchii kitaabeeN/ means “the good books,” while /acchii acchii kitaabeeN/ will mean “several good books.” Note that the last phrase does not mean “very good books.” (See 74, 131, 215.)

3. /guzarnaa/: “to pass, or pass by; to traverse, or go across.” Both meanings require the postposition /-see/. One may also make the sense of a location more explicit by using /-par see/ or /-meeN see/. (See 8:6.)

4. /hoo-kar/ is the conjunctive participle of /hoonaa/. (General comments on conjunctive participles may be found in section 94.) /hoo-kar/, however, has a special function, already briefly mentioned in 8:6. In that function, with or without another adverbial phrase, /hoo-kar/ means “via, or having been some place”—in other words, it gains almost the meaning of /jaanaa/, “to go.” Compare the following two sentences:

ham laahaur jaa-kar najmaa-see mileeNgee	We'll go to Lahore and meet Najma.
ham kaalij hoo-kar baazaar jaaeeNgee	We'll first go to the college and then to the market. We'll go to the college via the market.

Consider also the following:

pul-par see hoo-kar jaaoo	Go by the bridge.
yee gaaRii lakhnauu hoo-kar banaaras jaaeegii	This train will go to Benares via Lucknow.
maiN abhii dukaan-par see hoo-kar aayaa huuN	I've come straight after visiting the store.

5. /aagee nikal-gaii/: “...went away and beyond.” In /nikal-jaanaa/, the primary meanings of both its constituents, /nikalnaa/ (“to come out”) and /jaanaa/ (“to go”), are functional, though sometimes with an idiomatic effect.

ham maidaanoonN-meeN nikal- gayee	We went out into open spaces.
ghar-see nikal-jaaoo	Get out of the house!
saayad woo baazaar nikal-gayaa	Perhaps he went off to the market.

6. /pul-meeN aag lag-gayii/: “The bridge caught fire.”

/aag lagnaa/, “to catch fire,” requires an indirect construction, with its subject—what caught fire—followed by either /-meeN/ or /-koo/. Here, the grammatical subject of /lagnaa/ is /aag/, “fire,” a feminine noun. Its 'real' subject on the basis of the English gloss is /pul/, “bridge,” a masculine noun. The use of /-meeN/ instead of /-koo/ implies that the bridge caught fire in its entirety. (See 225.)

7. On the use of /paRnaa/ in this sentence, see 166.

8. /khaRaa-hoonaa/: “to stand.” Note that there is no such verb as /khaRnaa/, although /khaRaa/ often functions as if it were the perfect participle of such a verb. For

example: /woo khaRii huii baat kar-rahii thii/, "She was talking while standing." Cf. /woo baiThii huii baat kar-rahii thii/, "She was talking while seated."

Note that the perfect participle of /baiThnaa/ is used to express the achieved state of "sitting down." Compare the following two sentences:

woo baiThii hai	She is sitting. She is seated.
woo baiTh-rahii hai	She is trying to sit down. She is in the process of sitting down.

9. /jaldii jaldii/: "...in great haste." In contrast to the case with adjectives, the repetition of an adverb adds intensity to its meaning. (See 106, 131, 215.)

aahistaa aahistaa	very slowly
un-kee piichee piichee	closely following behind her

10. On Infinitive + /lagna/, see 175.

11. /reel siiTii deetii rahii/: "The train continued to whistle." Lit. "the train remained in the state described by the participle /siiTii deetii/." (See 179.)

12. /reel siiTii deetee deetee thak-gayii/: "The train got tired and stopped whistling." (See 106, 215.)

13. /reel calaanee-waalaa/: "the driver of the train." (See 19.)

/calaanaa/, "to drive; to cause to move," is used with reference to driving a car, running a machine, or wielding a weapon.

maiN yee mooTar nahiiN calaa-saktaa	I can't drive this car.
pankhaa calaaiyee	Please turn on the fan.
us-nee talwaar calaaii	He struck a blow with the sword.

14. /marnaa/, "to die," is too explicit and mundane; it will not be used in any context that involves some degree of intimacy, respect or formality. Other more euphemistic expressions would be used in such contexts. (See 3:16, 259.)

## Exercises

### A. Situational variants

ریل سیٹیاں دیتی چلی آرہی تھی۔ اُس نے چوڑے چوڑے میدان پار کیے۔ ہرے بھرے کھیتوں کے پاس سے نکلی اور پہاڑیوں پر پہنچ گئی۔ پھر اندھیرے دروں میں سے گزری۔ ریل کے راستے میں ایک دریا تھا جس پر پل تھا اور ریل پر ریل کی پٹری تھی۔ ایک لڑکے نے ریل کی سیٹی اور پیوں کا شور سنا۔ اُس نے سوچا کہ جب یہ ریل پل پر سے گزرے گی تو پل دریا میں گر جائے گا۔ ریل میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ مر جائیں گے۔ ان مسافروں میں عورتیں بھی ہیں اور بچے اور بوڑھے بھی، یہ سب گر کر مر جائیں گے۔ وہ لڑکا بہت ہوشیار تھا۔ اُس نے اپنا کرتا اتارا اور پل کے بیچوں بیچ کھڑا ہو کر کرتے کو ہوا میں ہلانے لگا۔ لڑکے کو دیکھ کر ریل چلانے والے نے سیٹی دی اور گاڑی روک دی۔

1. شور	M	soor	noise
2. لوگ	Mp	loog	people
3. مسافر	M	musaafir	traveller
4. ہوا	F	hawaa	air ; wind
5. گاڑی	F	gaaRii	train ; cart ; any vehicle

### B. Translate into English.

ایک لڑکا سیٹی بجاتا آرہا تھا۔ میں نے آپ کے آنے کی آواز نہیں سنی۔ وہ جلدی جلدی میدان میں سے گزرنے لگا۔ میرا بھائی پہاڑیوں کے اوپر گیا تھا۔ بکرا دریا کے پل پر چلا آرہا ہے۔ لڑکا ریل کی پٹری پر چل رہا ہے۔ کسی طرح مکان میں آگ لگ گئی۔ میں نے دیکھا کہ تخت جل رہا

ہے۔ اس کمرے میں کتنے آدمی بیٹھے ہیں۔ میرے والد بوڑھے ہو گئے ہیں۔ ایک آدمی میرے مکان کے آگے کھڑا تھا۔ میں اُن لڑکوں کے ساتھ دریا پر گیا۔ وہ کرتا ہلاتے ہلاتے تھک گیا۔ میں بہت تھک گیا ہوں۔ اُنہوں نے دیکھا کہ وہ عورت پل کی طرف جا رہی ہے۔ ایک لڑکی برآمدے میں کھڑی تھی۔ اپنے والد کو دیکھ کر میں گھر کے اندر چلا گیا۔ اس چوڑے میدان کے پار لڑکوں کا کالج ہے۔ بازار کے راستے میں شکیل کا نیا گھر پڑتا ہے۔ میں نے سوچا کہ آج تم شاید جلدی آؤ۔ اگر ریل ندی میں گرتی، تو سب مسافر مر جاتے۔ ان لوگوں میں کچھ ہمارے دوست بھی ہیں۔ میری بہن کتاب پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ میں نہیں جانتا وہاں آگ کیسے لگی۔ کتابوں کے ساتھ ساتھ میز بھی جل گئی۔ ان کو دیکھ کر میں جلدی جلدی کتاب پڑھنے لگی۔ آج آپ کے گھر کے پاس شور کیوں ہو رہا ہے؟ تم نے اس کو کام کرنے سے کیوں روکا؟ میں نے احمد کو دیکھا تو سائیکل روک دی۔ ریل دریا کے کنارے کنارے جاتی ہے۔

### C. Fill in the blanks.

ریل سیٹیاں .....، دھواں اُڑاتی ..... تھی۔ ..... نے چوڑے ..... میدان  
 طے ..... ہرے ..... کھیتوں سے گذری۔ اندھیرے دڑوں میں سے ..... نکلی۔ راستے میں  
 ایک ..... تھا۔ دریا ..... اوپر ..... تھا اور پل کے ..... ریل کی ..... کسی ..... پل میں آگ .....  
 ..... اُس ..... ریل کی ..... سنی۔ اُس نے ..... کے ..... کی آواز سنی۔ ..... کہ ریل ..... کی .....  
 آرہی .....۔

### D. Translate into Urdu.

I. There was a river on the way to the school. II. Somehow the new bicycle caught fire. III. My father saw that the house was burning. IV. I heard my brother's voice. V. My servant heard the noise of the train. VI. Hundreds of men are sitting near the river. VII. The train passed through the fields. VIII. The cycle can fall into the river. IX. What did the boy think when he saw the train? X. My brother took off his shirt. XI. We will go with you

to your house. XII. Who is standing in front of the room? XIII. On seeing Shakeel I went to him. XIV. My room caught fire but I escaped. XV. Your friend is brave, but not very smart.

**E. Answer the following in Urdu.**

۱- ریل کہاں سے ہو کر نکلی؟ ۲- ریل کے راستے میں کیا تھا؟ ۳- لڑکے نے کرتا اتار کر کیا کیا؟ ۴- کیا آپ جانتے ہیں پل میں آگ کیسے لگی؟ ۵- ریل دریا میں کیوں نہیں گری؟ ۶- لڑکے نے اپنا کرتا کیوں اتارا؟ ۷- لڑکا کہاں کھڑا ہو گیا؟ ۸- ریل چلانے والے نے کیا کیا؟ ۹- پل اور لڑکے کو کیا ہوا؟ ۱۰- ریل میں بیٹھنے والوں کی جان کیسے بچی؟

## Review Sentences

- ۱- میں لکڑی کی کرسی پر بیٹھ کر کام کرتا ہوں۔ ۲- رات کو میرا باورچی کمرے میں سوتا ہے۔ ۳- ریل کی پٹری دریا کے کنارے کنارے گذرتی ہے۔ ۴- اس نے دریا میں پل کے جل کر گرنے کی آواز سنی۔ ۵- میں اُن کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا اسکول میں آگ لگ گئی ہے۔ ۶- دیکھیے، پل کے کونے پر ایک لڑکا بیٹھا ہے۔ ۷- لڑکا سائیکل پر سے گرا اور مر گیا۔ ۸- کتنا اچھا ہو اگر میرے والد مجھے ایک اچھی سائیکل لے دیں۔ ۹- میرے کمرے میں آگ لگ گئی مگر میں بچ گیا۔ ۱۰- بہادر لڑکا کتنا ہوشیار ہے۔ ۱۱- دریا پار کرنے کے لئے پل پر سے گذرنا ہوتا ہے۔ ۱۲- میں نے کالج کا راستہ طے کیا۔ ۱۳- اس الگ کمرے میں میرے والد رہتے ہیں۔ ۱۴- میرا بھائی تھک کر پلنگ پر سو گیا۔ ۱۵- دوسرے دن میرا بھائی کالج جانے پر راضی ہو گیا۔ ۱۶- میں کھانے کی میز پر کھانا کھاتا ہوں۔ ۱۷- اس کھیت کے پیچھے ایک چوڑا راستہ ہے۔ ۱۸- میرا اور میرے چھوٹے بھائی کا مکان ندی سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ۱۹- میرے والد کالج سے بہت دور رہتے ہیں۔ ۲۰- میں نے سیٹی بجا کر سائیکل روک دی۔ ۲۱- سینکڑوں مرد اور عورتیں اندھیرے مکانوں میں رہتے ہیں۔ ۲۲- ریل بکرے کی پیٹھ پر سے گذر گئی۔ ۲۵- باورچی خانے میں آگ جل رہی ہے۔ ۲۶- لڑکے نے میری آواز سنی اور میرے پاس آ گیا۔ ۲۷- میرا بہادر بھائی اندھیرے کھیتوں میں سے ہو کر چلا گیا۔ ۲۸- وہ جانتا ہے کہ احمد ہوشیار آدمی ہے۔ ۲۹- میں نے سوچا کہ میری سائیکل کالج کے پاس کھڑی ہے۔ ۳۰- ہم بہادر لڑکے کے مکان پر گئے۔ ۳۱- لڑکا پل کے بچوں بچ کر بیٹھ گیا۔ ۳۲- میرے والد بوڑھے ہیں اور پلنگ پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں۔ ۳۳- میرے بھائی کا کمرہ اس برآمدے کے کونے میں ہے۔ ۳۴- ریل دریا میں گر پڑی اور سینکڑوں لوگ مر گئے۔ ۳۵- اُس کی سائیکل کے پھیے چھوٹے ہیں۔ ۳۶- ہمارے مکان میں دو لڑکے رہتے ہیں جو کالج میں پڑھتے ہیں۔ ۳۷- اس نے دیکھا کہ پل کے ایک طرف مکان ہے اور دوسری طرف کالج ہے۔

۳۸- رات کو میں گھر میں پلنگ پر بیٹھ کر پڑھتا ہوں۔ ۳۹- کھانے کا کمرہ غسل خانے سے بالکل الگ ہے۔ ۴۰- دونوں آدمی پل پر لڑنے لگے اور پھر دریا میں گر گئے۔ ۴۱- دو لڑکیاں دریا کے کنارے کھیل رہی تھیں۔ ۴۲- سائیکل چلانے والے نے لڑکے کی آواز سنی اور سائیکل روک دی۔ ۴۳- میرا بھائی میری پیٹھ پر بیٹھ کر ندی کے پار گیا۔ ۴۴- دریا میرے مکان کے بالکل پاس ہے اور کھیت بھی دور نہیں ہے۔ ۴۵- اب میں اگر ان کے پاس جاؤں بھی تو کیسے جاؤں؟ ۴۶- اس سائیکل پر میرا چھوٹا بھائی کالج جاتا ہے۔ ۴۷- میں نے اُس کو بتایا کہ یہ میرے والد کا بینک ہے۔ ۴۸- ریل چلانے والے نے بتایا کہ اس نے لڑکے کو پٹری پر کھڑا دیکھ کر ریل روک دی۔ ۴۹- میری سائیکل برآمدے میں کھڑی ہے، اس پر بیٹھ کر کالج چلے جاؤ۔ ۵۰- مکان سے بینک تک جانے میں کتنے منٹ لگتے ہیں؟



## Unit VIII

### ٹٹو

سامنے پہاڑی کے نیچے دو تین ٹٹو سامان سے لدے کھڑے ہیں۔ ٹٹو کتنا چھوٹا سا ہے۔ اُس پر سامان کتنا لاد دیا ہے کہ چار آدمی مل کر<sup>۱</sup> بھی نہیں اٹھا سکتے۔<sup>۲</sup> میاں ٹٹو ہیں کہ مگن کھڑے ہیں۔<sup>۳</sup> ٹٹو بڑا<sup>۴</sup> مضبوط<sup>۵</sup> جانور ہے۔ اسی لئے پہاڑوں پر سامان لے جانے کے لئے اور سفر کرنے کے لئے ٹٹوؤں سے بہت کام لیتے ہیں۔

ان ٹٹوؤں کو دیکھ کر ترس آتا ہے۔<sup>۶</sup> یہ بیچارے کئی من کا بوجھ لے کر اوپر چڑھیں گے۔ تھک جائیں گے تو آہستہ آہستہ چلنے لگیں گے اور ٹٹو والا ان کی ڈنڈوں سے خبر لے گا۔<sup>۷</sup> وہ تو چاہتا ہے کہ اُسے جہاں پہنچنا ہے جلدی سے پہنچ جائے اور کرایہ وصول کر لے۔ ٹٹو چاہے مرے چاہے رہے۔<sup>۸</sup>

بے چارے ٹٹو والے بھی کیا کریں۔ انھی ٹٹوؤں کے کرائے پر گذر کرتے ہیں۔ اسی لئے آپ<sup>۹</sup> بھی محنت کرتے ہیں اور ٹٹو سے بھی خوب<sup>۱۰</sup> محنت لیتے ہیں۔ مگر ٹٹو سے جتنی محنت لیتے ہیں اتنا اُسے کھانے کو نہیں دیتے۔ وہ کام نہیں کرتا تو اُسے مارتے ہیں۔<sup>۱۱</sup> وہ زبان سے نہیں بول سکتا تو یہ سمجھتے ہیں کہ اُسے تکلیف ہی نہیں ہوتی۔

یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ اگر وہ ٹٹو کو اچھا کھانے کو دیں تو وہ اچھا کام بھی کرے۔ جتنا کھائے گا اتنا ہی مضبوط ہوگا اور اتنی ہی محنت کر سکے گا اور اتنے ہی زیادہ اُنہیں پیسے ملیں گے۔ مگر اُنہیں یہ باتیں<sup>۱۲</sup> کون بتائے؟

## Unit VIII: Notes

1. /mil-kar/: “jointly; coming together.” Besides “to meet,” /milnaa/, more often /mil-jaanaa/, also means “to come or join together.”

agar hinduu aur musalmaan mil-      If the Hindus and Muslim would unite....  
jaaeN

woo doo saRkeeN kahiiN nahiiN      Those two streets never meet.  
miltiiN

2. /miyaaN/ is used in various ways. It can mean “husband.”

najmaa-kee miyaaN kyaa kartee      What does Najma's husband do?  
haiN

woo apnee miyaaN-kee paas      She lives in America with her husband.  
amriikaa-meeN rahti hai

It may be used after a person's name or nickname as an expression of affection, particularly by elders addressing juniors.

munnee miyaaN, yahaaN aaiyee      Munnee, please come here.

It may be used by a servant to refer to or address his master. (Also see 10:5 and 14:30.)

naukar-nee aa-kar kahaa, aap-koo      The servant came and said, “The master  
miyaaN bulaatee haiN      wants you.”

It may be used in a similar way with the name of someone who is considered venerable for his religiosity as a Muslim sufi or scholar.

ham maqbuul miyaaN-kee paas      We went to Maqbul Miyan to get a  
taawiiz leenee gayee      talisman.

It may also be used by itself as a familiar interjection, particularly by Urdu speakers from North India. When used in combination with a name or some other noun, it usually occurs second. Its use before a name or a noun implies a higher degree of familiarity and informality. Thus, a person named Maqbul may be addressed as /miyaaN maqbuul/ by his father or some intimate friend, but not by someone junior to him in rank or age.

3. /miyaaN TaTTuu haiN ki magan khaRee haiN/: “As for Mr. Pony, 'he' just stands there happily lost in thought.” The sentence, which in effect is coordinate to the preceding sentence, consists of two clauses placed in a juxtapositional relationship with each other by /ki/, both having the same subject. (See 214.) In such sentences, only the future and the two auxiliary forms of /hoonaa/ are used in the first clause. Compare the following two sentences:

maiN un-kee paas kahi baar gayaa      I went to him several time but he didn't  
leekin woo ghar-see baahar nahiiN      come out of the house.  
niklee

maiN un-kee paas kahi baar gayaa      I went to him several times, but he—why  
leekin woo thee ki ghar-see baahar      he never came out of the house.  
nahiiN niklee

Note the use of /leekin/ in the above. Other examples:

baariṣ baRhtii gayii leekin najmaa      The rain kept increasing, but as for Najma,  
thii ki rukii nahiiN      she didn't stay [but left].

maiN huuN ki un-koo har haftee      Here am I writing him a letter every week,  
 xat likhtaa huuN, aur woo haiN ki      and there is he not writing even every  
 har mahiinee bhii nahiiN likhtee      month.

4. /baRaa/, lit. "big," may be used as an explicator, meaning "very; much." (See 84.)

baRaa mazbuut makaan      a very strong house

baRii chooTii sii kitaab      a very tiny book

5. /mazbuut/: "strong." /mazbuut/ implies enduring strength as opposed to active power. The latter is expressed by the word /taaqaat/, "power," a feminine noun. Related adjective: /taaqaatwar/, "powerful." Consider the following examples:

TaTTuu mazbuut jaanwar hai      The pony is a strong animal.

seer taaqaatwar jaanwar hai      The tiger is a powerful animal.

yee doonooN mulk bahot taaqaatwar      Both these countries are very powerful.  
 haiN

yee meez zyaadaa mazbuut hai      This table is stronger.

yee laRkaa zyaadaa taaqaatwar hai      This boy is stronger.

While a table can not be described as /taaqaatwar/, a human being or rather a human body may be described as /mazbuut/ in the sense of having the strength to endure physical hardships.

6. /taras aanaa/ requires an indirect construction, i.e. its 'real' subject will be followed by /-koo/. /taras/ (formally /tars/): "pity; compassion," a masculine noun, would be its grammatical subject. /taras/ is also used in another related verb: /taras khaanaa/: "to take pity on X /-par/." The latter, a transitive verb, would express an active role on the part of the subject, while the former would describe a state of feeling compassion. According to the rules of politeness in Urdu, /taras khaanaa/ would normally not be used with a first person subject. (See 260.)

mujhee us-par taras aayaa      I felt pity for him.

mujh-par taras khaaiyee      Feel some pity for me. Or, Take pity on me.

us-koo deekh-kar aap-koo bhii      You too will feel pity for him when you  
 taras aaeegaa.      see him.

us-koo deekh-kar aap bhii taras      -ditto-  
 khaaeNgee

7. /xabar leenaa/ is being used here in a special, ironic sense. The sentence literally means: "The pony-owner would look after them with a stick." /xabar leenaa/ usually means "to inquire about X's /-kii welfare; to look after X /-kii—/xabar/, "news," being a feminine noun.

8. /TaTTuu caahee maree caahee rahee/: "...whether the pony lives or dies."

By placing /caahee/ (a subjunctive form of /caahnaa/) at the head of two clauses, whether coordinate (nominals) or subordinate (verbal), one puts them into an appositional relationship.

caahee tum caahee ahmad, eek koo      Either you or Ahmad, one will have to  
 too ruknaa paReegaa      stay.

mujhee kyaa, tum caahee rahoo      What is it to me whether you stay or leave?  
 caahee jaooo

aap caahee jaaeeN caahee na  
jaaeeN, kaam to hoogaa hii  
caahee hindustaan caahee  
paakistaan, doonooN jagah  
muškileeN eek haiN

The work will certainly be done whether  
you go or not.  
Whether India or Pakistan, the problems  
are the same at both places.

9. /aap bhii mehnat kartee haiN/: “They themselves work hard.../.

/aap/ is being used here in a reflexive sense, in the same way as /xud/, which is the more common word to indicate “-self.” In this function, /aap/ would usually be followed by one of the particles of emphasis.

tum aap un-see milnee kyooN  
nahiiN jaatee

Why don't you go to meet him yourself?

ahmad-nee aap hii yee kaam nahiiN  
kiyaa

Ahmad himself didn't do this work.

The above may also be written as /tum xud un-see milnee kyooN nahiiN jaatee/ and /ahmad-nee xud yee kaam nahiiN kiyaa/, respectively.

Also note the use of /bhii/ in the two clauses. In sentences of the type where English uses pairs of conjunctions, “both ... and...; neither ... nor ...,” to indicate a totality, Urdu uses /bhii/ in both clauses, the two linked with the conjunction /aur/. That was and still is the general practice in Urdu, though now one also finds such sentences with /bhii/ only in the second clause. (See 211.)

yee seeb saste bhii nahiiN aur  
acchee bhii nahiiN

These apples are neither cheap nor good.

maiN bhii jaauNgaa aur najmaa  
bhii meeree saath jaaeNgii

I'll go, and Najma too will go with me.

maiN bhii na kheeluuNgaa aur aap  
bhii na kheeleNgee

Neither would I play, nor would you.

Note that the above Urdu sentences may also be written as follows:

1. /yee seeb na too saste haiN na acchee/.

2. /maiN jaauNgaa aur najmaa bhii meeree saath jaaeNgii/.

3. /na too maiN kheeluuNgaa, na aap kheeleNgee/.

10. /xuub/: “nice; fine.” It can also be used as an explicator with other adjectives, in which case it would mean “very; much” with an implied approval of that state.

woo xuub aadmii hai

He is a fine man.

laRkii-nee xuub koos̄i kii

The girl tried very hard.

yee seeb xuub acchee haiN

These apples are excellent.

11. /maarna/: “to hit or strike.” In the context of hunting, it may also mean “to kill.” A related form, /maar-Daalnaa/ means “to kill, to murder.”

us-nee laRkee-koo DanDee see  
maaraa

He hit the boy with a stick.

us-nee laRkee-koo DanDaa maaraa

He threw the stick at the boy.

us-nee diiwaar-par DanDaa maaraa

He struck the wall with the stick.

ham-nee aaj tiin ciRyaaN maariiN

We bagged three birds today.

TaTTuu-waalee nee TaTTuu-koo    The pony-owner killed the pony.  
maar-Daalaa

12. /baat/ should be learned together with /ciiz/. Both are feminine nouns and are equivalent to “thing” in English in most contexts. /baat/ refers to abstract 'things', while /ciiz/ refers to the concrete.

yee baat acchii nahiiN

This isn't a good matter. This isn't a good thing.

yee ciiz acchii nahiiN

This thing is not good.

mujhee eek baat bataaiyee

Tell me one thing.

mujhee doo ciizeeN diijiyee

Give me two things.

aaj eek ajiib baat huii

Something strange happened today.

## Exercises

### A. Situational variants.

ٹٹو بہت چھوٹا جانور ہے اور اُس پر مالک نے سامان اتنا لادا ہے کہ چار آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ مجھے ان ٹٹوؤں کو دیکھ کر ترس آتا ہے۔ یہ بیچارے بھاری بھاری بوجھ لے کر پہاڑی پر چڑھتے ہیں۔ جب تھک جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ چلنے لگتے ہیں۔ لیکن تب ان کا مالک اُن کو ڈنڈے سے مارنے لگتا ہے۔ ٹٹوؤں کے مالک کر بھی کیا سکتے ہیں۔ وہ بھی تو بس اپنے جانوروں کے کرائے پر گذر کرتے ہیں۔ اسی لئے خود بھی کام کرتے ہیں اور ٹٹو سے بھی بہت کام لیتے ہیں۔ مگر یہ لوگ اس سے جتنا کام لیتے ہیں اتنا اُسے کھانے کو نہیں دیتے۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ اگر وہ اپنے ٹٹو کو اچھی طرح کھانا دیں تو وہ خوب مضبوط ہو گا اور بھاری بھاری سامان اٹھا سکے گا۔

1. بھاری                      bhaarii                      heavy
2. خود                              xud                              oneself, self

### B. Translate into English.

پہاڑی کے نیچے کچھ جانور لکڑی سے لدے کھڑے ہیں۔ وہ تو بس جلدی سے اپنا کرایہ لینا چاہتا ہے۔ کیا آپ کو بہت جلدی ہے؟ یہ پل بہت مضبوط ہے۔ ان بیچاروں کو دیکھ کر آپ کو بھی ترس آئے گا۔ وہ جتنا چاہتا ہے اتنا اُس کو دیجیے۔ وہ سامان اٹھاتے اٹھاتے بہت تھک گیا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے جہاں پہنچنا ہے جلدی پہنچ جاؤں۔ وہ اپنے مکانوں کے کرایہ پر گذر کرتے ہیں۔ اُن کے والد ان سے بہت محنت لیتے ہیں۔ میں اسی لئے آپ سے کہتا تھا کہ زیادہ سامان نہ لادیے۔ تم جتنا کام کرو گے اتنا ہی تھکو گے۔ وہ مضبوط آدمی ہے اور زیادہ محنت کر سکتا ہے۔ ہم لوگ مل کر ہی یہ سامان اٹھا سکتے ہیں۔ وہ کچھ نہیں کہتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اُسے تکلیف نہیں ہوتی۔ ان کو

کون اتنا کرایہ دے گا؟ میں سمجھتا ہوں اُسے کوئی تکلیف نہیں۔ اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہو تو وہاں نہ جائیے۔ وہ جتنی محنت سے کام کرتا ہے اتنے پیسے اُسے نہیں ملتے۔ وہ اتنا کرایہ نہیں دینا چاہتا۔ ان کی خراب حالت پر سب کو ترس آتا ہے۔ ان کی حالت پر سب لوگ ترس کھاتے ہیں۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو مارا۔ دونوں لڑکوں نے ایک دوسرے کو خوب مارا۔ وہ جیسا کام کرے گا ویسا ہی اُسے کھانا ملے گا۔ میرے والد نے مجھ سے بہت کام لیا۔ اس لڑکے نے بہادری سے کام لیا۔ وہ لڑکیاں مل کر یہ میز اٹھا سکتی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ احمد کس طرح گذر کرتا تھا۔ اگر وہ اتنی محنت نہ کرے تو کیا کرے۔

### C. Fill in the blanks.

..... پہاڑی کے ..... دو تین ٹٹو سامان سے لدے ..... ہیں۔ ٹٹو ..... چھوٹا سا ہے۔ اس پر ..... کتنا ..... ہے کہ چار ..... مل کر بھی نہیں ..... میاں ٹٹو ہیں ..... مگن کھڑے ..... ٹٹو بڑا مضبوط ..... ہے۔ اسی ..... پہاڑوں پر سامان ..... کے لئے اور ..... کرنے کے لئے ..... بہت کام لیتے ہیں۔ بے چارے ..... بھی کیا ..... انھی ٹٹوؤں ..... کرائے پر ..... کرتے ہیں۔ اسی لئے آپ ..... محنت ..... ہیں اور ..... سے بھی ..... لیتے ہیں۔ مگر ٹٹو سے جتنی ..... لیتے ہیں ..... اُسے کھانے کو نہیں .....۔

### D. Translate into Urdu.

I. A few goats are standing behind the house. II. How big is your new house? III. One feels pity on seeing these poor people. IV. If they become weary they will sit down. V. The owner should not beat them with a stick. VI. He wants to reach there quickly. VII. You think I have no troubles? VIII. If he does not work, he will not get anything to eat. IX. He himself lives on the rent from these bicycles. X. That's why my father eats well and also feeds his children well. XI. When he does not work, he does not get any money either. XII. These people do not understand that it takes a

lot of time to do this work. XIII. It is so heavy that not all three of us can lift it even together. XIV. The harder you work, the more money you will get. XV. Please give him the kind of books he wants.

**E. Answer the following in Urdu.**

۱- ٹٹو کہاں کھڑے ہیں، اور اُن پر کیا لدا ہے؟ ۲- ٹٹو کیسا جانور ہے؟ ۳- پہاڑوں پر ٹٹو سے کیا کام لیتے ہیں؟ ۴- ٹٹو کو دیکھ کر کیوں ترس آتا ہے؟ ۵- ٹٹو کے مالک ان کو کیوں مارتے ہیں؟ ۶- کیا ٹٹوؤں کو اچھی طرح کھانا ملتا ہے؟ ۷- ٹٹو والے کیا کام کرتے ہیں؟ ۸- جتنا کام ٹٹو سے لیتے ہیں کیا اتنا ہی اُسے کھانے کو دیتے ہیں؟ ۹- اگر ٹٹو کام نہ کرے تو مالک کیا کرتے ہیں؟ ۱۰- اگر ٹٹوؤں کے مالک اپنے جانوروں کو اچھا کھانے کو دیں تو کیا ہو؟



## Unit IX

# ایک کہانی

ایک دریا میں بہت سے<sup>۱</sup> مگرچھ رہتے تھے۔ اُس دریا کے کنارے بہت پیڑ تھے جن پر بہت سے بندر رہتے تھے۔ ایک بوڑھا مگرچھ روز<sup>۲</sup> اُن بندروں کو دیکھتا۔ آخر ایک دن اُس نے اپنے بیٹے سے کہا ”میں اب بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہوں۔ اگر کسی طرح ایک بندر کا دل کھانے کو<sup>۳</sup> مل جائے تو میرے بدن میں پھر<sup>۴</sup> طاقت آجائے۔“

بیٹے نے کہا، ”میں بندر کا دل کیسے لاؤں۔ میں زمین پر جا نہیں سکتا اور بندر پانی میں آتے نہیں۔“

بوڑھے مگرچھ نے کہا، ”بیٹے<sup>۵</sup> جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔“

دوسرے دن اپنے باپ کے کہنے کے مطابق جو ان مگرچھ دریا کے کنارے گیا۔ ایک بندر پیڑ پر بیٹھا تھا۔ مگرچھ نے اُس سے کہا ”کیوں دوست، آم کھانے چلو گے<sup>۶</sup>؟ دوسرے کنارے پر آم کا باغ ہے اور آج کل فصل تیار ہے۔ خوب پکے اور میٹھے آم لگے ہیں۔“

بندر بولا، ”میں اُدھر کیسے جا سکتا ہوں۔ مجھے تیرنا تو آتا ہی نہیں۔“<sup>۸</sup>

مگرچھ نے جواب دیا، ”تمہیں نہیں آتا تو کیا ہوا، مجھے تو آتا ہے۔ میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ۔“

ابھی اُدھر پہنچا دیتا ہوں۔“

بندر فوراً مگرچھ کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ جب دونوں ندی کے بیچ میں پہنچے تو مگرچھ نے اُس کو پانی میں ڈبونا چاہا۔ بندر نے پوچھا ”کیوں بھئی، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں تو تم کو اپنا دوست سمجھتا ہوں۔“

مگرچھ بولا: ”میرا باپ بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہے۔ وہ تمہارا دل کھانا چاہتا ہے تاکہ بدن میں طاقت آئے۔“

بندر بہت چالاک تھا، فوراً بولا، ”ارے، تو تم نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ میں اپنا دل ساتھ<sup>۹</sup> لیتا آتا۔ وہ تو وہیں پیڑ پر رکھا رہ گیا۔“ میں کیا جانتا تھا! کہ تمہارے باپ کو میرا دل چاہیے۔ اب جو تم چاہو۔ دل چاہے ابھی واپس<sup>۱۲</sup> چلو، دل چاہے آج کھانے کے بعد۔“

مگرچھ بولا: ”نہیں، پہلے دل پھر آج۔“

”اچھا۔ جو تمہاری خوشی۔“

مگرچھ کنارے کی طرف لوٹا۔ قریب پہنچتے ہی<sup>۱۳</sup> بندر اُچک کر پیڑ پر چڑھ گیا اور سب سے اونچی شاخ پر بیٹھ کر بولا، ”میرا دل تو یہاں ہے۔ تم کو چاہیے تو یہاں آکر لے لو۔“

مگرچھ بیچارہ مایوس ہو کر چلا گیا۔

## Unit IX: Notes

1. /bahot see/: “many; quite a few.” (See 2:6.)
2. /rooz/: “daily.” It is also a masculine noun meaning: “day, the unit of 24 hours.” In its adverbial function, /rooz/ is interchangeable with /roozaanaa/.

ham rooz wahaaN jaatee thee      We used to go there daily.

ham roozaanaa wahaaN jaatee thee      We used to go there daily.

ham caar rooz wahaaN gayee      We went there four days.

3. /khaanee-koo/ = /khaanee-kee liyee/: “in order to eat; for the sake of eating.” For some, however, the two usages will be differentiated in the following manner:

1. /-koo/ will be used with reference to the object of the verb, as in /aaj khaanee-koo kuch nahiiN/, “Today there is nothing to eat.”

2. /-kee liyee/ will be used when the reference is to the subject, as in /aaj khaanee-kee liyee do loog aaeNgee/, “Two persons will come to eat today.”

With reference to the use of /-kee liyee/, it should be noted that it is usually dropped in Urdu when the main or finite verb in the sentence is a verb meaning some form of 'going' or 'coming'. (The noun, however, remains in the oblique case.) With other words, however, the postposition can either be retained, or replaced with /-koo/.

paRhnee-kee liyee eek kitaab      Please give me a book to read.  
diijiyee

meeree paas paRhnee aaiyee      Please come to me to study.

meeree paas PaRhnee-kee liyee      -ditto-  
aaiyee

maiN un-koo deekhnee jaauuNgaa      I'll go to see him.

mujhee leeTnee-koo eek acchaa      I need a good cot to lie on.  
palang caahiye

4. /phir/ has two common uses. (1) At the beginning of a clause, it means: “then.” (2) Before a verb, it means: “again.”

phir kyaa huaa?      Then what happened?

ham pahlee baazaar jaaeeNgee phir      We shall first go to the market, then to the  
kaalij      college.

phir kahiye      Please say it again.

ham phir wahaaN nahiiN gayee      We didn't go there again.

5. /beeTee/ is the singular vocative form of /beeTaa/, though some people use the direct singular form for this function too. (See 10, 11.)

6. /kyooN doost, aam khaanee caloogee?/: “Well friend, will you come with me to eat mangos?”

/kyooN/, “why,” is used with a vocative or as a clause by itself at the beginning of a sentence to alert the addressee that a question follows.

Note that /-kee liyee/ has not been used after /khaanee/ although it is in oblique case. (See note 3 above.) The use of /calnaa/ implies 'movement with the speaker', as opposed to /jaanaa/—'movement away from the speaker'—and /aanaa/—'movement toward the speaker'. (See 3:1.)

7. /...aam lagee haiN/ = /peeRooN-meeN . . . aam lagee haiN/: “There are [sweet and ripe] mangos on the trees.” Note that the Urdu idiom uses /-meeN/ to indicate an ‘enclosing’, even organic, relationship between a thing and what it is linked with/attached to. If no such relationship is intended, careful speakers would use /-par/. Consider the following sentences:

us-kee kapRooN-meeN siyaahii      His clothes were smudged black.  
lagii thii

us-kee muNh-par siyaahii lagii thii      His face had black smudges.

8. /mujhee tairmaa too aataa hii nahiiN/: “As for swimming, I don't know it at all.” Note how the particles /too/ and /hii/ are used to give the sentence extra emphases, each precisely placed after the emphasized word.

/aanaa/: K : “to know something (a craft or a language) as a skill.”

mujhee angreezii aatii hai      I know English.

us-koo gaanaa nahiiN aataa      She doesn't know how to sing.

kyaa tum-koo yee kaam aataa hai?      Do you have this skill? Do you know how to do this kind of work?

9. /maiN apnaa dil saath leetaa aataa/: “I'd have brought my heart along.” Note the use of the imperfect participle form of the verb to communicate the implied sense of 'contrary to fact'. (See 110, 117.)

/saath/, “along; together with,” may be used by itself as an adverb. It is also used, likewise, in combination with /-kee/: X /-kee saath/, “with X; along with X; in X's company.” Most often /saath/ will be used to replace /apnee saath/ or where the context is obvious enough not to require the use of the full adverbial phrase (i.e. some noun plus the postposition).

maiN saath caluuNgaa      I'll come with you.

ahmad meeree saath kaam kartaa      Ahmad works with me.  
hai

ahmad aur maiN saath kaam kartee      Ahmad and I work together.  
haiN

woo mujhee saath lee-gaii      She took me with her.

10. /woo ... peeR-par rakkhaa rah-gayaa/: “It got left behind on the tree.” Lit. “It remained on the tree in the state of having been placed there.”

/rahnaa/ adds the sense of a continued state (described by the particular participle).

najmaa baiThii rahii      Najma remained seated.

Ahmad baat kartaa rahaa      Ahmad kept on talking.

ham deer tak sootee rahee      We slept a long time.

In the sentence in the text, the use of /jaanaa/ with /rahnaa/ is not just 'completive'; it also slightly changes the meaning—from “to remain” to “to be left behind.”

11. /maiN kyaa jaantaa thaa .../ may be considered a variant of /kyaa maiN jaanta thaa .../, with /kyaa/ being put just before /jaantaa thaa/ for extra emphasis and contrast: “Did I know?” But more correctly, the question is rhetorical, and implies the statement: “I didn't know.” (See section 218.)

12. /waapas/, an adverb, is used with a number of verbs to imply some movement in reverse. For example, /waapas aanaa/, “to come back;” /waapas deena/, “to give back;” and /waapas leena/, “to take back.”

13. /qariib pahoNctee hii/: “...as soon as he reached near...” An adverbial phrase, consisting of the imperfect participle of the verb in oblique case followed by the particle /hii/. It communicates a greater sense of urgency and immediacy than would have a conjunctive participle. (See 212.)

un-koo deekhtee hii maiN-nee  
kahaa

As soon as I saw him, I said....

hamaaree ghar-see nikaltee hii  
baaris hoonee lagii

The moment we came out of the house it  
began to rain.

## Exercises

### A. Situational variants.

ایک دریا میں کئی مگرچھ تھے۔ ایک بوڑھے مگرچھ نے کہا، ”بیٹے، اب نہ میں جوان ہوں اور نہ میرے بدن میں زیادہ طاقت ہے۔ اگر تم مجھے اپنے دوست بندر کا دل لا کر دو تو اس کو کھانے سے میرے بدن میں طاقت آئے۔“ بیٹا بولا، ”میں اس کا دل کیسے لا سکتا ہوں۔ وہ زمین کا جانور ہے اور میں پانی کا۔“ تب اس کے باپ نے اُس کو ایک ترکیب بتائی۔ مگرچھ نے اپنے باپ کا کہنا مان لیا اور دوسرے دن اپنے دوست کے پاس گیا۔ دریا کے اس پار ایک باغ ہے جس میں پھل پک کر تیار ہو گئے ہیں۔ بندر نے کہا کہ وہ تیرا نہیں جانتا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم میرے دوست ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے والد میرا دل چاہتے ہیں۔ بندر اپنا دل اپنے ساتھ نہیں لایا تھا۔ تم چاہو تو ابھی چل سکتے ہو اور اگر چاہو تو آم کھانے کے بعد۔ جب وہ دونوں کنارے پر پہنچے تو بندر جلدی سے پیڑ پر چڑھ گیا۔

1. کئی                      kaii                      several
2. ترکیب                      F                      tarkiib                      device, method

### B. Translate into English.

لڑکا فوراً ٹٹو کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ جب دونوں دریا کے بیچ میں پہنچے تو ٹٹو نے لڑکے کو پانی میں گرانا چاہا۔ والد نے پوچھا ”کیوں بیٹے یہ کیا کر رہے ہو؟“ باورچی بولا ”میری ماں بوڑھی اور کمزور ہو گئی ہے۔“ میں چاہتا ہوں میرے بدن میں طاقت آئے۔ لڑکا بہت ہوشیار تھا، فوراً بولا، ”ارے، آپ نے پہلے کیوں نہ بتادیا۔ میں اپنی کتاب ساتھ لیتا آتا۔ وہ تو گھر پر رہ گئی۔“ میں کیا جانتا تھا کہ تمہارے لڑکے کو میرا سبب چاہیے۔ دل چاہے ابھی آؤ، دل چاہے کھانے کے کچھ

دیر بعد۔ باپ نے کہا، ”نہیں۔ پہلے پڑھنا بعد میں کھیلتا۔“ لڑکے نے کہا ”میں آم کیسے لاؤں۔ میں پیڑ پر چڑھ نہیں سکتا۔“ وہ بچے تیرنا نہیں جانتے اس لئے وہ پانی میں نہیں آتے۔ بوڑھے باپ نے اپنے لڑکے سے کہا، ”جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو گے تو خوش رہو گے۔“ میرے بھائی میرے کہنے کے مطابق پل پر گئے۔ میری دوست نے کہا کہ ندی کے دوسرے کنارے پر آم کا بہت بڑا باغ ہے۔ باورچی نے کہا کہ میز پر کھانا تیار ہے۔ باغ کے مالک نے دیکھا کہ پیڑوں پر لگے ہوئے آم خوب پکے ہیں۔ لڑکا بولا، ”میں ندی پر کیسے جاسکتا ہوں، آج تو مجھے اسکول جانا ہے۔“ میرے دوست نے جواب دیا، ”تمہیں سائیکل چلانا نہیں آتا تو کیا ہوا، میں تمہیں بتا دوں گا۔“ جب دونوں دوست باغ کے بیچ میں پہنچے تو ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے۔ ایک بکرے نے دوسرے کو پانی میں ڈبونا چاہا۔ جب ٹٹو والے سے کراہیہ پوچھا تو اُس نے کہا، ”جو تمہاری خوشی۔“ مجھے ان کے کہنے کے مطابق کرنا چاہیے۔ ہم کچھ دیر بعد پہلے بازار جائیں گے پھر کالج۔ میں روزانہ یہاں کھیلنے کے لئے آنا چاہتا ہوں۔ اس سے پوچھو کیا وہ ساتھ چلے گا؟ آخر اُس نے میرا کہنا مان لیا۔ وہ کسی طرح میرا کہنا نہیں مانتا۔ کیا آپ کالج جانے کے لئے تیار ہیں۔ مجھے گوشت پکانے کی ترکیب معلوم نہیں۔ آج میرے پاس کھانے کو صرف کیلے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیا چاہتی ہیں۔ جب وہ آئے تو میں اسکول جانے کے لئے تیار ہو رہا تھا۔

### C. Fill in the blanks.

ایک..... میں بہت سے مگر مچھ رہتے..... اُس دریا کے..... بہت سے پیڑ تھے جن..... بہت سے بندر..... تھے۔ ایک بوڑھا..... روزان..... کو..... آخر ایک دن..... نے اپنے بیٹے سے..... ”میں اب بوڑھا اور کمزور..... ہوں۔ اگر کسی طرح..... بندر کا..... کھانے..... مل جائے..... میرے بدن میں..... طاقت.....“ بندر..... ”میں ادھر کیسے جاسکتا..... مجھے..... تو..... ہی نہیں۔“ مگر مچھ نے..... ”..... نہیں آتا تو کیا.....،..... تو..... میری..... پر..... جاؤ۔ ابھی ادھر..... ہوں۔“ بندر فوراً..... کی..... پر بیٹھ گیا۔ جب دونوں..... کے

بیچ..... پہنچے تو مگر مجھ..... اس کو..... میں ڈبونا چاہا۔ بندر نے..... ”کیوں..... یہ کیا.....؟“  
میں تو تم..... اپنا..... سمجھتا ہوں۔“

#### D. Translate into Urdu.

I. Many kinds of animals live in that river. II. There were several houses on the bank of the river. III. My brother was sitting on the highest branch of the tree. IV. I said to him, "The chairs are in my room, if you need them, come here and take them." V. When the train did not come, the boy became disappointed and went away. VI. At last one day I began to swim in the river. VII. The cook said, "Now I have become old and weak." VIII. The boy said, "How can I bring the table here, it is very heavy." IX. According to his instructions, I met my brother the next day at the bank. X. The young men work in the fields then go to the river to swim. XI. Nowadays the crops are ready in the fields. XII. On seeing the owner of the orchard, the little boy immediately climbed up the tree. XIII. Who lives in that house these days? XIV. Can you bring for me some sweet mangos? XV. Do you know how to swim? XVI. I went to him first, then came to you. XVII. They brought with them some new books. XVIII. I don't know English. XIX. His father has become very weak. XX. I tried to go to him.

#### E. Answer the following in Urdu.

۱- کیا تم کبھی ٹٹو کی پیٹھ پر بیٹھے ہو؟ ۲- مگر مجھ نے بندر کو پانی میں ڈبونا چاہا تو بندر نے کیا کہا؟ ۳- جو ان مگر مجھ کا باپ بندر کا دل کیوں کھانا چاہتا ہے؟ ۴- بندر نے اپنی جان بچانے کے لئے کیا ترکیب کی؟ ۵- جب مگر مجھ کنارے کی طرف لوٹا تو بندر نے کیا کیا؟ ۶- کیا تم نے کبھی مگر مجھ دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو کہاں دیکھا ہے؟ ۷- بندر دریا میں کیوں نہیں رہتے؟ ۸- کیا تمہیں تیرنا آتا ہے؟ ۹- تم کتنی زبانیں جانتے ہو؟ ۱۰- کیا آپ نے کبھی آم کھائے ہیں؟



## گلستانِ سعدی کی کہانیاں<sup>۲</sup>

### غلام اور کشتی

ایک بادشاہ اپنے ایک غلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر دریا کے پار جا رہا تھا۔ چونکہ غلام نے پہلے کبھی<sup>۳</sup> دریا کا سفر نہ کیا تھا، اس نے رونا پینا شروع کر دیا اور کسی طرح چپ نہ ہوتا تھا۔ اُس کشتی میں ایک فلسفی بھی تھا۔ اُس نے بادشاہ سے کہا ”اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا علاج کروں<sup>۴</sup> اور اس کا ڈر دور کروں۔“ بادشاہ نے اجازت<sup>۵</sup> دے دی۔ فلسفی نے چند مسافروں کی مدد سے غلام کو پانی میں پھینک دیا۔ جب وہ چارپانچ غوطے کھا چکا<sup>۶</sup> تو ہاتھ پکڑ کر دریا سے نکال لیا۔ غلام نے جان بچنے پر خدا کا شکر ادا کیا اور خاموش ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا ”اے فلسفی، اس میں کیا راز ہے؟“ فلسفی بولا ”امن و امان<sup>۷</sup> کی قیمت وہی جانتا ہے جو کسی مصیبت میں پھنس چکا ہو۔“

### دو بھائی

دو بھائی تھے۔ اُن میں سے ایک<sup>۹</sup> بادشاہ کا ملازم تھا اور دوسرا محنت سے روزی کما تا تھا۔ ایک دن وہ ملازم کہنے لگا کہ تم بادشاہ کی خدمت کیوں نہیں کرتے۔ خدمت کرو گے تو اس محنت سے بچ جاؤ گے۔ اُس کے بھائی نے کہا کہ تم کام کیوں نہیں کرتے۔ کام کرو گے تو خدمت کی ذلت سے بچ جاؤ گے۔

## Unit X: Notes

1. /gulistaan-e-saadii/: “The ‘Gulistan’ of Sa'di.” The two nouns are linked with an /izaafat/. (See 240 and also Unit 7 in the Script section.)

*Gulistan* by Sa'di Shirazi (1184-1292) is one of the Persian classics. Its instructive anecdotes and tales are as well-known in the Islamicate world as the fables of Luqman (Aesop).

2. /kahaanii/: “story; short story.”

The related verbs are: /kahaanii sunaanaa/, “to tell a story.” /kahaanii sunnaa/, “to listen to a story being told.”

meerii waalidaa-nee mujhee eek      My mother told me a story.  
kahaanii sunaaii

hameeN kahaaniyaaN sunnaa      We like to hear stories.  
pasand hai

un-kii kahaaniyaaN abhii nahiiN      His short stories have not yet been  
chapiiN      published.

For literary short stories, the more common word now is /afsaanaa/, a masculine noun.

3. /pahlee kabhii/: “ever before.”

/pahlee/: “at first.” Also used in a postposition: /-see pahlee/, “before X.”

pahlee kaaliJ jaaiyee      Go to the college first.

kaaliJ jaanee-see pahlee meeree      Please come to me before going to the  
paas aaiyee      college.

pahlee ham us ghar-meeN rahtee      Earlier we used to live in that house.  
thee

/kabhii/: “ever; sometime.” In combination with /na/ or /nahiiN/, it means “never.” /kabhii kabhii/ means “sometimes.”

aap kabhii wahaaN gayee haiN      Have you ever been there?

maiN wahaaN kabhii nahiiN gayaa      I've never been there.

kabhii hamaaree ghar aaiyee      Please come to our place sometime.

kabhii kabhii kuch jhuuT bhi      Sometimes we have to lie a little too.  
boolnaa paRtaa hai

4. /ilaaj/ : M : “treatment; cure.”

/ilaaj karnaa/ means “to treat or cure X /-kaa/,” and also “to undergo the cure by Y /-kaa/, or treatment prescribed by Z /-kaa/.”

aap-kaa ilaaj kaun kar-rahaa hai      Who is treating you?

aap kis DaakTar-kaa ilaaj kar-rahee      Which doctor are you seeing?  
haiN

maamuulii buxaar-kaa ilaaj muSkil      It's not difficult to cure common fever.  
nahiiN

woo jaRii-buuTii-kaa ilaaj pasand      He prefers herbal treatment.  
kartee haiN

5. /ijaazat/ : F : “permission.” Most commonly used with /deenaa/: /X-koo Y-kii ijaazat deenaa/, “to allow X to do Y.”

unhooN-nee ham-koo jaanee-kii ijaazat nahiiN dii	She didn't allow us to leave.
ham-nee un-see jaanee-kii ijaazat lii	We took her leave to depart.
maiN-nee un-kii ijaazat-see yee kaam kiyaa thaa	I had done this with his permission.
meeree bhaaii-nee mujhee tairnee- kii ijaazat dii	My brother gave me permission to swim.

The most common way to take leave of someone after a visit is to say: /ab ijaazat diijiye/ or /ab ijaazat caahuNga/.

6. /jab woo caar paaNc Gootee khaa-cukaa/: “When he had gone under four or five times....”

Lit. “When he had finished going under water four or five times. . . .”

/Gootaa/, a masculine noun, means “a dive.” /Gootaa lagaanaa/ means “to dive into the water.” /Gootaa khaanaa/ means “to go involuntarily under water.”

For the use of /cuknaa/, see 169.

7. /... xudaa-kaa sukr adaa-kiyaa/: “... thanked God.”

/sukr/ should be learned together with /sukriyaa/. Both are masculine nouns, both roughly mean “gratitude or thanks,” and both are used with the verb /adaa-karnaa/, “to repay what is due; to express; to discharge properly what might be necessary.” But /sukr/ is used exclusively with reference to God, while /sukriyaa/ is used elsewhere.

acchii-hoonee-par najmaa-nee xudaa-kaa sukr adaa-kiyaa	Najma thanked God on getting cured.
acchii-hoonee-par najmaa-nee DaakTar saahab-kaa sukrriyaa adaa- kiyaa	Najma thanked the doctor on getting cured.
hameeN un-kaa sukrriyaa adaa- karnaa caahiye	We ought to thank him.

Both words may also be used with other verbs or by themselves, often as idiomatic expressions. Three such expressions are:

sukriyaa	Thanks.
X-kaa sukrriyaa	Thank you for X.
xudaa-kaa sukr hai	Lit. “There is gratitude [due] to God.” This is a common and casual response among Urdu speakers when someone inquires about their health or welfare.

8. /amn-o-amaan/: “peace and security.” (See 242, and also Unit 7 in the Script section.)

9. /un-meeN-see eek/: “one of them; one among them; one from among them.” Note the two postpositions. The first postposition, /-meeN/, locates the person within a group, while the second postposition, /-see/, specifies and isolates him within that group. (See 8:6; 209.) Compare the following two sentences:

un kitaabooN-meeN caar meerii  
haiN

Among those books, four are mine.

aap un kitaabooN-meeN-see caar  
lee-saktee haiN

Of those books, you can take four.

While /-meeN/ in the first sentence may be replaced with /-meeN see/, the reverse will not be possible in the second sentence. Other examples:

ham-meeN-see kuch sirf tarkaarii  
khaatee haiN

Some of us eat only vegetables.

un laRkiyooN-meeN-see eek  
meerii bahan hai

One of those girls is my sister.

un laRkiyooN-meeN kuch  
amriikan laRkiyaaN bhii thiiN

There were among those girls some  
American girls too.

## Exercises

### A. Situational variants

ایک بادشاہ اپنے ایک غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر دریا پار کر رہا تھا۔ چونکہ غلام نے اس سے پہلے کشتی میں سفر نہ کیا تھا اس لئے ڈر کر رونے پینے لگا۔ وہ کسی طرح خاموش نہ ہوتا تھا۔ ایک فلسفی نے بادشاہ سے کہا ”اگر آپ اجازت دیں تو میں اُس کو چپ کر سکتا ہوں اور اُس کا ڈر نکال سکتا ہوں۔“ غلام کے چار پانچ غوطے کھانے کے بعد فلسفی نے اُس کا ہاتھ پکڑ کر اُسے پانی سے نکال لیا۔ غلام اب چپ ہو کر کشتی میں ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے فلسفی سے پوچھا، ”اس کاراز میں نہیں سمجھا۔ مجھے بتاؤ، یہ اب کیوں خاموش ہو گیا۔“ دو بھائی تھے جن میں سے ایک بادشاہ کا نوکر تھا اور دوسرا کام کر کے گذر کرتا تھا۔ ایک روز بادشاہ کے ملازم نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم بادشاہ کی نوکری کیوں نہیں کر لیتے۔ اس طرح کام کرنے سے بچ جاؤ گے۔ اُس کا بھائی بولا، ”میرے بھائی، تم میرا کہنا کیوں نہیں مانتے۔ تم اگر محنت کر کے گذر کرو گے تو دوسرے کی خدمت کی ذلت سے بچو گے۔“

- |             |             |                            |
|-------------|-------------|----------------------------|
| 1. پار کرنا | paar-karnaa | to cross                   |
| 2. ڈرنا     | Darnaa      | to feel scared of X /-see/ |
| 3. چپ کرنا  | cup-karnaa  | to silence X /-koo/        |

### B. Translate into English.

بچے کہانیاں سننا چاہتے ہیں۔ ایک لڑکا اپنے دوست کے ساتھ ریل میں سوار ہو کر جا رہا تھا۔ لڑکے کشتی پر سوار ہو کر ندی پار کر رہے تھے۔ میرے والد موٹر پر سوار ہو کر بازار گئے۔ چونکہ باورچی نے پہلے کبھی دریا کا سفر نہ کیا تھا اس لئے وہ بہت ڈر رہا تھا۔ چونکہ لڑکے کا سبب پانی

میں گر گیا اس لئے اُس نے رونا شروع کر دیا۔ چھوٹا بچہ کرسی سے گر کر رونے لگا اور کسی طرح چپ نہ ہوا۔ اُس دکان میں آپ کا ملازم بھی تھا۔ میں کشتی میں بیٹھ کر ندی کے اُس کنارے کو جا رہا تھا۔ غلام نے بادشاہ سے کہا کہ میں نے کبھی اس طرح کا سفر نہیں کیا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی سائیکل پر سوار ہونا چاہتا ہوں۔ باپ نے اپنے بچے کو کمزور دیکھ کر سوچا کہ اُس کا علاج کرے۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کو دریا کے کنارے لے گیا۔ میں اب اجازت چاہوں گا۔ انہوں نے مجھے ایسا کرنے کی اجازت دی ہے۔ احمد صاحب نے اجازت دے دی تو میں ان کے مکان میں رہنے لگا۔ لڑکے نے چند آدمیوں کی مدد سے سائیکل کو پانی سے نکالا، پھر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ریل کے مسافروں نے اپنی جان بچنے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ باہر سے آنے کے بعد میرے بڑے بھائی خاموش آنگن کے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ بندر بولا، ”پیڑ پر ہی امن وامان ہے۔“ میں اس سائیکل کی قیمت نہیں جانتا۔ بندر مگر مجھ کی پیٹھ پر سوار ہو کر مصیبت میں پھنس گیا۔ اس شہر میں چند لوگ تھے جو سب بادشاہ کے ملازم بننا چاہتے تھے۔ کچھ لوگ محنت سے روزی کمانا نہیں چاہتے۔ ایک دن فلسفی کہنے لگا، ”بہت سے آدمی محنت سے بچ کر زلت میں پھنس جاتے ہیں۔“ میں ان کتابوں کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جب کوئی تمہاری مدد کرے تو اُس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اب وہ کمزور نہیں۔ میری والدہ کشتی پر سفر کرنے سے ڈرتی ہیں۔ اس لڑکے کو اپنے والد کا بہت ڈر ہے۔ وہ اپنی بیٹی کا علاج کرانے کے لئے نیویارک گئی ہیں۔ وہاں پہنچتے ہی میں شکیل صاحب سے ملنے گیا۔ ہم اُن کے آتے ہی کھانا کھائیں گے۔

### C. Fill in the blanks.

ایک ..... اپنے ایک ..... کے ساتھ ..... میں سوار ..... دریا کے ..... جا رہا تھا۔ غلام نے ..... کبھی دریا کا ..... نہ کیا .....۔ اُس نے بادشاہ سے کہا، ”اگر آپ ..... دیں تو میں اس کا ..... کروں اور اس کا ..... دور .....۔“ فلسفی نے چند ..... کی ..... سے ..... کو پانی میں .....۔ غلام نے جان ..... خدا کا ..... ادا کیا اور ..... ایک ..... میں بیٹھ گیا۔ فلسفی بولا، ”امن و ..... کی

قیمت ..... ہے جو کسی ..... میں پھنس چکا .....۔ “ اُن میں ..... ایک بادشاہ کا ..... تھا اور  
 دوسرا ..... سے روزی ..... تھا۔ ایک دن وہ ..... کہ تم ..... کی ..... کیوں نہیں کرتے۔  
 خدمت ..... تو اس ..... سے بچ ..... کام ..... تو ..... کی ..... سے .....۔

#### D. Translate into Urdu.

I. We will eat after coming back from the college. II. The old man had never before travelled in a train. III. I thanked Najma for helping me. IV. The servant said to the master, "If you will permit me I want to go to the river today." V. He tried to cure his friend's fear but was not able to. VI. The king permitted the old philosopher to sit on a chair. VII. With the help of my friends I was able to bring that heavy table into the house. VIII. The master told the servant not to tell the secret to anyone. IX. Now there is no peace and safety in this city. X. They will have to pay a very high price for this house. XI. No one likes to get caught in trouble. XII. The cook earns his living by working hard. XIII. Hard work saved me from humiliation. XIV. We want your permission to go across the river. XV. Have you travelled before in a boat? XVI. He thanked us as soon as he arrived here. XVII. Which doctor are you seeing these days? XVIII. My sister helped me a great deal in this work. XIX. You don't need anyone's permission to eat good food. XX. When my friend began to cry I tried to console him.

#### E. Answer the following in Urdu.

۱- بادشاہ اپنے غلام کے ساتھ کہاں جا رہا تھا؟ ۲- کیا تمہارے یہاں کبھی بادشاہ ہوئے  
 ہیں؟ ۳- فلسفی نے غلام کے رونے کا علاج کیسے کیا؟ ۴- کیا اُس علاج سے غلام کا ڈر دور  
 ہو گیا؟ ۵- فلسفی کے علاج کا راز کیا ہے؟ ۶- کیا تم نے کبھی دریا کا سفر کیا ہے؟ کیسے کیا ہے؟  
 ۷- پانی سے نکلنے کے بعد غلام کیوں خاموش ہو گیا؟ ۸- کیا تمہارے شہر میں امن و امان ہے؟  
 ۹- بادشاہ کی خدمت کرنا اچھا ہے، یا محنت سے روزی کمانا؟ کیوں؟ ۱۰- کیا آدمی محنت سے بچ  
 سکتا ہے؟

## Review Sentences

- ۱- میں ایک ٹٹو پر سوار ہوا اور دوسرے پر سامان لاد کر پہاڑ پر چڑھا۔ ۲- مگر مجھ چاہتا تھا کہ بندر کو دریا میں پھینک دے۔ ۳- میں خاموش رہتا ہوں تو لوگ مجھے فلسفی سمجھتے ہیں۔
- ۴- بندر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اُس نے رونا شروع کر دیا۔ ۵- میرے باغ میں بیٹھے آدموں کے بہت سے پیڑ ہیں۔ ۶- تم جلدی سے آدموں کی قیمت وصول کر لو۔ ۷- میری کشتی بہت مضبوط ہے اس میں دس آدمی بھی سوار ہو سکتے ہیں۔ ۸- اگر تمہیں آج اس کام میں تکلیف ہوتی ہے تو نہ کرو، میرا ملازم کر دے گا۔ ۹- میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی دریا کے سفر پر ساتھ چلیں۔
- ۱۰- کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے بدن میں زیادہ طاقت آتی ہے۔ ۱۱- تمہارا دل چاہے تو دریا میں تیرو، چاہے تو کشتی میں بیٹھو۔ ۱۲- ہم نہیں سمجھتے کہ محنت کرنا ذلت کی بات ہے۔
- ۱۳- وہ صاحب اپنے ملازم سے بہت محنت لیتے ہیں۔ ۱۴- اُس پیڑ کے نیچے چند آدمی کہانیاں سُن رہے ہیں۔ ۱۵- اُس نے سامان کمرے میں رکھنے کی اجازت دے دی۔ ۱۶- شکیل کی جان بچی تو فوراً اس نے شکر ادا کیا۔ ۱۷- انہوں نے اپنا راز اپنی بہن کو بھی نہیں بتایا۔ ۱۸- جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اُن کو کسی طرح تکلیف نہیں ہوتی۔ ۱۹- میرا بھائی محنت سے نہیں ڈرتا ہے۔ ۲۰- ٹٹو والا محنت کر کے روزی کماتا ہے۔ ۲۱- بندر نے مگر مجھ کے باپ کا علاج نہیں کیا۔ ۲۲- بادشاہ کے کہنے کے مطابق فلسفی نے وہ کام کیا۔ ۲۳- مگر مجھ کا بوڑھا باپ مایوس ہو گیا تو چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ ۲۴- میں جس ڈاکٹر کا علاج کرتا تھا وہ یہاں سے چلے گئے۔
- ۲۵- بندر مگر مجھ سے زیادہ چالاک تھا اس لئے بیچ گیا۔ ۲۶- میرے والد اپنی خوشی کے مطابق سفر کرتے رہتے ہیں۔ ۲۷- آج کل ریل کے سفر میں بہت مصیبت ہوتی ہے۔ ۲۸- میں آج ہی اپنا کام کر کے لاہور سے لوٹا ہوں۔ ۲۹- اس مکان کا کرایہ بہت زیادہ ہے لیکن وہ کرے بھی تو کیا کرے۔ ۳۰- آدمی جتنی محنت کرتا ہے اتنا ہی اچھا رہتا ہے۔ ۳۱- بادشاہ نے غلام کو مارا مگر وہ بے چارہ کچھ نہ بولا۔ ۳۲- وہ لڑکے بادشاہ اور غلام کی کہانی پڑھنا چاہتے ہیں۔



۳۳۔ فلسفی کا دل مضبوط تھا اور وہ پہلے بھی کشتی میں سفر کر چکا تھا۔ ۳۴۔ سامان لانے اور لے جانے کے لئے وہ کشتی سے بھی کام لیتے ہیں۔ ۳۵۔ میرا دوست چاہتا ہے کہ پانی میں تیرے۔ ۳۶۔ مجھے غلام کو دیکھ کر بہت ترس آیا لیکن میں اُس کی مدد کر بھی کیا سکتا تھا۔ ۳۷۔ بندر مگر مجھ کی پیٹھ پر دریا کے پار جانا چاہتا تھا۔ ۳۸۔ مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا۔ ۳۹۔ اتنے بڑے دریا میں کتنی چھوٹی سی کشتی تیر رہی ہے۔ ۴۰۔ غلام جب کشتی میں واپس آیا تو بالکل خاموش تھا۔ ۴۱۔ بادشاہ نے غلام سے پوچھا۔ ”اے غلام! تو نے رونا کیوں شروع کر دیا۔“ ۴۲۔ میں روز اپنے بھائی کے ساتھ باغ میں آم کھانے جاتا ہوں۔ ۴۳۔ جو مصیبت میں پھنستا ہے وہی امن و امان کا راز سمجھتا ہے۔ ۴۴۔ میں نے مکان کا کرایہ مکاندار کو ادا کر دیا۔ ۴۵۔ وہ کسی طرح پیڑ پر چڑھ گیا۔ ۴۶۔ ہم جس کشتی میں سوار تھے اُس میں ایک بوڑھا فلسفی بھی تھا۔ ۴۷۔ میں نے ایسا کام پہلے کبھی نہیں کیا لیکن تم چاہو تو کر سکتا ہوں۔ ۴۸۔ میں چاہتا تھا کہ آج کچھ جلدی واپس جاؤں۔ ۴۹۔ اِس لڑکے کو انگریزی زبان نہیں آتی، وہ صرف اُردو جانتا ہے۔ ۵۰۔ میں نے کچھ دوستوں کی مدد سے اِس شہر میں کام شروع کیا۔

## Unit XI

# اشوک

بہت زمانہ ہوا ہندوستان میں ایک مشہور راجہ گذرا جس کا نام اشوک تھا۔ اس کی راجدھانی پانڈی پتر (پٹنہ) تھی۔ ایک بار اشوک نے دکن کے علاقے کالنگا پر چڑھائی کی۔ اس لڑائی میں اس قدر آدمی مارے گئے<sup>۳</sup> کہ راجا کو بہت رنج ہوا۔ اُس نے ہمیشہ کے لئے لڑائی سے توبہ کر لی اور بدھ مذہب اختیار کر لیا۔

اشوک بہت اچھا بادشاہ تھا۔ اپنی رعایا کو فائدہ پہنچانے کا خیال سے ہر وقت رہتا تھا۔ اُس نے مسافروں کے آرام کے لئے سڑکوں کے کنارے کنویں بنوائے اور غریب آدمیوں اور مویشیوں کے علاج کے لئے سرکاری اسپتال۔ اشوک چاہتا تھا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔<sup>۶</sup> پرانے زمانے میں شکار کھیلنا بھی بادشاہ کی ایک شان تھی،<sup>۸</sup> مگر اشوک نے شکار کھیلنا چھوڑ دیا۔

پرانا قاعدہ تھا کہ جب راجا آرام کرتا ہو تو اُس سے کوئی شخص نہیں مل سکتا تھا۔ لیکن اشوک نے اجازت دے دی تھی کہ اگر کسی شخص کو ضروری کام ہو تو وہ اس سے ہر وقت مل سکتا ہے۔

اپنی حکومت کے آخری بارہ سال اشوک نے بدھ مذہب کی ترقی میں صرف کیے۔<sup>۹</sup> تقریباً چوراسی ہزار مندر اور دوسری مذہبی عمارتیں بنوائیں۔ مہاتما بدھ کی جو چیزیں یادگار تھیں اُن کو جمع کیا اور تھوڑی تھوڑی ہر جگہ تقسیم کرائیں اور ہندوستان کے باہر دور دور کے ملکوں میں بدھ مذہب

پھیلانے کے لئے عالم بھیجے۔ اشوک کی کوششوں سے بدھ مذہب کافی پھیل چکا تھا مگر اُس میں اصلاح کی ضرورت تھی<sup>۱۱</sup>۔ اُس نے ایک مرتبہ بہت بڑا مذہبی جلسہ کیا۔ اُس جلسے کے بعد بدھ مذہب کو پھیلانے کی اور زیادہ کوشش کی گئی<sup>۱۲</sup> اور اُس میں بہت سی اصلاحیں بھی ہوئیں۔ گو<sup>۱۳</sup> راجہ اشوک کو بدھ مذہب سے خاص دلچسپی تھی، پھر بھی اُس نے رعایا کو مذہبی آزادی دے رکھی تھی<sup>۱۴</sup>۔ اُس کی بنوائی ہوئی لاٹیں اب تک دہلی اور دوسرے شہروں میں موجود ہیں۔

## Unit XI: Notes

1. /guzarnaa/: “to come about; to happen.” Another common meaning: “to pass, or pass by.” Originally spelled with a /zaal/, it is now also commonly spelled with a /zee/.

eek mashuur raajaa guzraa                      There happened a famous king.

un-par eek buraa waqt guzraa                      He underwent a bad time.

jab is waaqi’ee-koo kuch din guzar-                      When some days had passed after this  
gaae...                      happened...

2. /is qadar/: “to such an extent...” Lit. “... to this extent . . . that . . .” Note that the subsequent clause begins with /ki/. In other words, /is/ occurs as a ‘proximate marker’ whose function is to alert to the coming coordinate clause introduced by /ki/.

/qadar/ does not occur with all attributives. Those commonly used are: /kis/; /jis/; and /kisii/. Thus: /kisii qadar/ “to some extent;” /kis qadar/ “to what extent?”

3. /maaree gayee/: “...were killed...” Passive construction from /maarnaa/, “to beat; to kill.” (See 184.)

4. /us-nee hameesaa-kee liee laRaaii-see taubaa kar-lee/: “He forswore warfare for good.”

/hameesaa/, “always; ever.” /hameesaa-kee liee/, “for ever.”

/taubaa/, a feminine noun, is the act of repentance, consisting of two parts: (1) the seeking of forgiveness for a sin or error, and (2) the forswearing of it.

5. /apnii ri’aayaa-koo faaedaa pahoNcaanee-kaa xayaal usee har waqt rahtaa thaa/: “He was all the time thinking of benefiting his subjects.”

/xayaal/, a masculine noun, “thought; idea.” It is used with /hoonaa/ in indirect constructions. Thus: /mujhee is baat-kaa xayaal hai/, “I have this thing in mind.” Other auxiliary verbs add only different nuances to the basic meaning. /rahnaa/ here, for example, adds a ‘durative’ effect. (Lit. “The idea used to remain...”) /aanaa/, on the other hand, will express a single instance. Thus: /tab mujhee yee xayaal aayaa..../, “Then this idea occurred to me...”

6. /kisii-koo takliif na pahoNcee/: “...no one should suffer.” Lit. “...hurt should not reach anyone.”

/pahoNcaan/ is also used in such indirect constructions with other words expressing injury, calamity, grief, etc., where the basic verb could be /hoonaa/. The substitution of /pahoNcaan/ for /hoonaa/ is made to express the actual happening of something sad or shocking, as opposed to a state of shock.

7. /sikaar kheelnaa/: “to hunt.” /sikaar/, a masculine noun, means “the act of hunting” as well as “the prey, the bag.” The use of /kheelnaa/, “to play,” as opposed to /karnaa/, the other verb commonly used with /sikaar/, implies that it was a sport rather than a deliberate pursuit to kill.

8. /sikaar kheelnaa bhii baadsaah-kii eek saan thii/: “Hunting was also one of the acts which added glory to a king.”

/saan/, a feminine noun, means “glory; splendour; pride; dignity.” Depending on the context, it may carry the nuance of being something good and also the opposite. Thus: /yee imaarat saandaar hai/, “This building looks splendid.” /us-nee baRii saan-see kahaa.../, “He said quite haughtily...”

9. /sarf-karnaa/: “to spend.” Note that its object is an abstract noun, /saal/, “year.” It may also be used with such concrete nouns as “money” and “water.” The other common verb for “to spend” is /xarc-karnaa/, which is mostly used in the context of “spending money,” and will never be used with an abstract noun.

10. /duur-duur-kee mulkooN-meeN/: “...in many far away countries...” The repeated adverb carries a sense of intensity even though it is being used in an adjectival phrase. (See 131.)

11. /us-meeN islaah-kii zaruurat thii/: “It needed reform.” Lit. “There was a need for reform in it.”

Note the use of /-meeN/ after the 'real' subject in this indirect construction, the 'grammatical' subject being /zaruurat/. In the context of /zaruurat/, an animate 'real' subject would require /-koo/.

kitaab-meeN islaah-kii zaruurat hai The book needs to be improved.

mujhee islaah-kii zaruurat hai I need to reform myself.

12. /...aur zyaadaa koosij kii-gaii/: “...much more effort was made.” Another passive construction.

13. /goo/: “although; though.” Two other words are used in Urdu in this function: /agar-ce/ and /haalaaN-ki/. Both are felt to be more emphatic than /goo/. Note that the subsequent clause begins with /phir bhii/, “even then; even so.” One can also use /leekin/ or /magar/.

14. /us-nee ri'aayaa-koo mazhabii aazaadii dee-rakhii thii/: “He had given his people religious freedom.”

The use of /rakhnaa/ as the second member in the compound verb construction adds the nuance that the effects of the action expressed by the first member were extended over a period of time, and that it is this aspect which the writer wishes to emphasize. In other words, the emphasis is on the 'state' of things and not just on the 'act'. Thus: /us-nee aazaadi dii thii/, “He had given freedom.” But, /us-nee aazaadii dee-rakhii thii/, “He gave them freedom and also let them stay free.”

us-nee kooT-kee baTan khool- He had the jacket's buttons open.  
rakhee thee

ham-nee saamaan baandh-rakhaa We had the boxes tied and ready.  
thaa

/rakhnaa/ occurs in this function with transitive verbs only. Intransitive verbs require /rahnaa/.

## Exercises

### A. Situational variants.

بہت سال پہلے ہندوستان میں ایک مشہور راجہ ہوا تھا جس کا نام اشوک تھا۔ کالنگا کی لڑائی میں اتنے زیادہ آدمی مارے گئے کہ راجہ کو بہت تکلیف ہوئی۔ اُس نے مسافروں کو آرام پہنچانے کے لئے راستوں پر کنویں بنوائے اور غریب لوگوں اور جانوروں کے علاج کے لئے سرکاری اسپتال۔ راجہ چاہتا تھا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو اور سب لوگ آرام سے رہیں۔ پہلے زمانے میں جانوروں کا شکار کرنا بھی بادشاہ کے لئے ایک شان کی بات تھی۔ یہ ایک پرانا قاعدہ تھا کہ راجہ کے آرام کے وقت کوئی آدمی اُس سے مل نہیں سکتا تھا، لیکن اشوک نے حکم دیا تھا کہ جس کو اس سے ضروری کام ہو وہ کسی وقت بھی مل سکتا ہے۔ اشوک کی کوششوں سے بدھ مذہب دور دور پھیل گیا۔ اُس نے بدھ مذہب کی اصلاح کے لئے ایک بڑا جلسہ کیا جس میں بہت سے عالم آئے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ مذہب کے نام پر ایک دوسرے سے لڑیں۔ اشوک کی بنوائی ہوئی لاٹیں اب تک مختلف جگہوں پر موجود ہیں۔

1. حکم M hukm order, command
2. مختلف muxtalif different

### B. Translate into English.

بہت زمانہ ہوا اس مکان میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام اشوک تھا۔ اس مکان کے بنوانے میں تقریباً دس ہزار ڈالر لگے۔ امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی۔سی۔ ہے۔ ایک بار میں نے ایک دوست کے ساتھ ریل سے دکن کے علاقوں کا سفر کیا۔ آج کل ہر جگہ جلسے ہو رہے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لوگوں کو باہر جانے سے روکا گیا۔ اس شہر میں ایک

نیا اسپتال بنوایا جائے گا۔ وہاں جتنے لوگ موجود تھے سب نے ہماری مدد کی۔ تم کو تو ہر وقت ایک ہی بات کا خیال رہتا ہے۔ ایک مرتبہ ندی میں گرنے کے بعد میرے بھائی نے تیر نے سے ہمیشہ کے لئے توبہ کر لی۔ انہوں نے شہر میں رہنے کی جگہ لوگوں سے دور پہاڑوں میں رہنا اختیار کیا۔ ان لوگوں میں مذہب کے نام پر اکثر لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ اگر تم کو اس کام سے دلچسپی ہے تو اس کے لئے کچھ محنت بھی کرو۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ جو کچھ ہم سیکھیں اُس سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا خیال ضرور رکھیں۔ سب راجاؤں کو رعایا کو آرام پہنچانے کا خیال نہیں رہتا۔ اسکول میں لڑکوں نے اپنی پرانی کتابیں جمع کیں اور پھر اُن کو غریب لڑکوں میں تقسیم کر دیا۔ اُس نے غریبوں میں کھانا تقسیم کرایا۔ ملک کی تقسیم کے بعد لوگوں میں مذہب کے نام پر لڑائی ہوئی۔ جب حکومت نے بہت سی جگہوں پر شکار کرنے سے روک دیا تو لوگوں نے شکار کھیلنا چھوڑ دیا۔ میں تین چار مرتبہ وہاں گیا لیکن جب ہر بار وہ نہ ملے تو پھر جانا چھوڑ دیا۔ یہ طالب علم علم کی قیمت سمجھتا ہے۔ میں نے دریا میں تیرنا چاہا تو میرے والد نے اجازت دے دی۔ یہ کام تم نے اچھا کیا ہے لیکن بعض جگہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ تم اپنے والد کو علاج کے لئے سرکاری اسپتال لے جاؤ۔ اشوک کی یادگاریں اب بھی بہت سے شہروں میں موجود ہیں۔ میں اب ہمیشہ کے لئے یہاں سے جا رہا ہوں۔ اس جلسے میں ایک آدمی نے کہا کہ ملک کے فائدے کے لئے سب لوگوں کو کوشش کرنا ضروری ہے۔ یہ کام قاعدے کے مطابق نہیں۔ ڈاکٹر احمد کے علاج سے میری والدہ کو فائدہ ہوا۔ آپ کا نیا مکان پرانے مکان سے مختلف ہے۔ یہ سب مختلف چیزیں ہمارے والد کی یادگار ہیں۔ تمہارے نہ جانے سے اُن کو رنج ہوگا۔ اُس کی باتوں سے سب کو تکلیف پہونچی۔

### C. Fill in the blanks.

بہت ..... ہندوستان میں ایک مشہور راجہ ..... جس کا نام اشوک تھا۔ اس ..... میں  
اس ..... آدمی مارے گئے کہ راجہ کو بہت رنج ..... اس نے مسافروں کے آرام .....

سڑکوں کے..... کنویں بنوائے۔ پرانے زمانے میں شکار..... بھی بادشاہ کی ایک شان..... مگر اشوک نے شکار کھیلنا..... جب راجہ آرام..... تو اس سے کوئی..... نہیں مل..... تھا۔ اشوک نے اجازت..... تھی کہ اگر کسی شخص کو..... کام ہو تو وہ اس سے ہر..... مل سکتا ہے۔ مہاتما بدھ کی جو..... یادگار تھیں ان کو..... کیا اور تھوڑی..... ہر جگہ تقسیم..... اُس جلسے..... بدھ مذہب کو..... کی اور زیادہ..... کی گئی۔ اشوک کو بدھ مذہب سے خاص..... تھی..... اُس نے رعایا کو..... آزادی دے رکھی تھی۔ اُس کی..... ہوئی لائیں اب..... دہلی اور دوسرے شہروں میں..... ہیں۔

#### D. Translate into Urdu.

I. For the comfort of his subjects he had houses built by the roadside. II. She wanted that her son should not have any trouble. III. How much money did you spend on building this house? IV. In the old days it was necessary to hunt. V. No one can talk to him when he is eating. VI. He spent ten years of his life in propagating his religion. VII. In what part of India do you live? VIII. His new book needs some correcting. IX. Today I tried for the last time to meet him. X. The buildings built by him still stand in many Indian cities. XI. The king was very interested in building temples. XII. He gave up his old religion and adopted a new one. XIII. There was no religious freedom in that country. XIV. I went there six times and each time he wasn't there. XV. He collected a lot of old clothes and had them distributed among poor people. XVI. The king had a monument built on the bank of that river. XVII. I want to take my friend to the hospital for treatment. XVIII. If my father allows me I will come to see you. XIX. What was the capital of this region in old days? XX. It takes approximately five hours to go to Washington.

#### E. Answer the following in Urdu.

۱- پرانے زمانے میں تمہارے ملک میں کون لوگ رہتے تھے؟ ۲- اشوک نے کس علاقے پر چڑھائی کی؟ ۳- رعایا کو آرام اور فائدہ پہنچانے کے لئے اشوک نے کیا کیا کام کیے؟



۴- کیا آپ نے کبھی شکار کھیلا ہے ؟ ۵- راجہ کے آرام کا پرانا قاعدہ کیا تھا اور اشوک نے کیا اجازت دی تھی ؟ ۶- بدھ مذہب کی اصلاح کے لئے اشوک نے کیا کیا ؟ ۷- اشوک نے لڑائی سے کیوں توبہ کی ؟ ۸- بدھ مذہب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ؟ ۹- ہندوستان کے باہر بدھ مذہب کہاں کہاں پھیلا ؟ ۱۰- کیا آپ کو کسی مذہب سے خاص دلچسپی ہے ؟

## جاندار اور بے جان میں فرق

سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں<sup>۱</sup> چیز جاندار اور فلاں چیز بے جان ہے۔ ہم یہ کیسے پہچان لیتے ہیں کہ مکھی میں جان ہے اور پتھر بے جان ہے۔ آپ کہیں گے کہ مکھی اس لئے جاندار ہے کیونکہ وہ اڑتی پھرتی ہے<sup>۲</sup> یا بچے کودتے پھاندتے ہیں، اس لئے زندہ ہیں۔ گویا کودنا پھاندنا، چلنا پھرنا زندگی کی دلیل ہے۔ لیکن بچہ سو جاتا ہے حرکت نہیں کرتا تب بھی تو وہ<sup>۳</sup> زندہ رہتا ہے۔ اس لئے کہ جب وہ سوتا ہے تب بھی اُس کا دل اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح ہم پودوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ حالانکہ یہ پودے بولتے نہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے پھرتے نہیں، اُن کی ہماری جیسی آنکھیں نہیں ہوتیں، مگر اس کے باوجود وہ زندہ ہیں۔

اب آئیے جاندار اور بے جان کے بنیادی فرق کو معلوم کریں۔

اول<sup>۴</sup> تو زندہ چیزیں بڑھتی ہیں اور بے جان چیزیں نہیں بڑھتیں۔ بے جان چیزیں بڑی تو ہوتی ہیں لیکن بڑا کرنے والی طاقت اُن کے اپنے اندر نہیں ہوتی۔ جاندار اپنے جسم کے اندر کی توانائی کی بدولت حرکت کرتا ہے۔ مثلاً درخت اپنے آپ<sup>۵</sup> بڑھتا ہے لیکن کوئی عمارت اپنے آپ نہیں بڑھتی۔ اس کے اندر خود<sup>۶</sup> کوئی ایسی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ اونچی<sup>۷</sup> ہو جائے۔

جاندار اور بے جان میں دوسرا فرق یہ ہے کہ جاندار چیزیں غذا کو اپنے جسم کا حصہ بنا لیتی ہیں جس کی وجہ سے اُن کے جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ پودے اپنی غذا ہوا، پانی اور دھوپ سے حاصل کرتے ہیں اور پھر اسی کی مدد سے پھلتے پھولتے ہیں۔ انسان کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے اور اس طرح اپنے جسم میں توانائی پیدا کرتا ہے۔ ریل کے انجن کو بھی کوئلے اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے مگر اُس کی ”غذا“ جسم کا حصہ نہیں بنتی ہے۔

جاندار اور بے جان میں تیسرا فرق یہ ہے کہ زندہ چیزیں زندہ رہنے کے لئے سانس لیتی ہیں۔ بے جان چیزیں سانس نہیں لیتیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی جاندار سانس نہ لے سکے تو اُس کا دم گھٹ جائے گا اور وہ مر جائے گا۔ جانوروں کی طرح پیڑ پودے بھی سانس لیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے<sup>۱۰</sup> کہ اُن کے سانس لینے کا طریقہ مختلف ہے۔

جاندار اور بے جان میں چوتھا فرق یہ ہے کہ زندہ چیزیں اپنی جیسی زندہ چیزیں پیدا کرتی ہیں<sup>۱۱</sup>۔ یہ پیدائش مختلف جانداروں میں مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ لیکن اُس کے برعکس بے جان مادہ کسی طریقے سے اپنی نسل کو نہیں بڑھا سکتا۔

## Unit XII: Notes

1. /jaandaar/, lit. "life-possessing;" /bee-jaan/, lit. "without life."

/jaan/, a feminine noun, means "life, the vital force," as opposed to /zindagii/, which means "life, the eventful span of time."

The prefix /bee-/ is used with all kinds of nouns in Urdu; the opposite words, however, are made variously, and a distinction is made between Perso-Arabic loan words and the words of Indic origin. Thus: /baa-hunar/, "with talent;" /hunar-mand/, "talented;" /hunar-war/, "talented;" /raunaq-daar/, "glorious;" /qusuur-waar/, "guilty." The latter are all Perso-Arabic words. With Indic words, one commonly uses the suffix /-waalaa/ for the same purpose. Thus: /guR-waalii caae/, "the tea made with *gur* or jaggery (instead of sugar). The opposites of all these words may be made with /bee-/. Thus: /bee-hunar/, "without talent;" /bee-raunaq/, "without any semblance of color or glory;" /bee-qusuur/, "innocent;" /bee-guR-kii caae/, "the tea without any *gur* in it."

2. /fulaaN; falaaN/. It is a pronominal form, but also used adjectivally in the qualifier function. Borrowed from Arabic, it means: "so and so; such and such; a certain." In most sentences it may be replaced with /kooii/.

3. /woo uRtii-phirtii hai/: "...it flies around."

The text contains a number of paired verbs: /uRnaa-phirnaa/, /kuudnaa-phaandnaa/, /calnaa-phirnaa/, /ghuumnaa-phirnaa/, and /phalnaa-phuulnaa/. In such pairs, the two verbs are semantically or contextually quite close, but together represent a larger, even new, domain of meaning, a kind of totality. Thus: /kuudnaa/ means "to jump" and /phaandnaa/ means "to leap," but together they mean "to horse or play around." /phalnaa/ means "to bear fruit" and /phuulnaa/ means "to bear flowers," but together they mean "to flourish; to multiply in number." Note how in the other pairs, /phirnaa/, "to make a circular movement," adds the nuance expressed in English by adding "around" to "fly," "walk," and "wander," respectively. Other commonly used such pairs are: /khaanaa-piinaa/, "to eat and drink; to feed oneself;" /likhnaa-paRhnaa/, "to write and read; to engage in scholarly or literary activity;" /gaanaa-bajaanaa/, "to sing and play some instrument; to make music." (See 216.)

4. /tab bhii too.../: "even then..." Note the use of /too/ after another particle for emphasis, /bhii/. Only /too/ may be used this way to add an extra emphasis to the particular 'inclusive' or 'exclusive' emphasis given by /bhii/ or /hii/, respectively.

5. /un-kii hamaarii jaisii aaNkheeN nahiiN hootiiN/: "They don't have eyes like ours."

/X-kaa jaisaa/: "X-like; like X." (See 69, 70, 76-78.)

Note that the above sentence may be analyzed to contain an ellipsis: /hamaarii jaisii/ instead of /hamaari aaNkhooN-kii jaisii/. Also note the use of the imperfect participle, /hootiiN/, to express that it is always the case.

6. /awwal/: "the first; first of all." An adjective, it may also be used adverbially. Here it is being used as an ordinal number. Urdu has borrowed Persian ordinal numbers for listing items in any serious writing. The student will do well to memorize at least the first five of the following: /awwal; doom; soyam/soom; cahaarum; panjum; sasum; haftum; haṣṭum; nahum; dahum/.

7. /daraxt apnee aap baRhtaa hai/: "The tree grows big by itself."

/apnee aap/ is a fairly common adverbial phrase, and means “by oneself; on its own; spontaneously.” It may be replaced by /xud/ or /xud-see/. (See the next note; also see 9:8 and 6:16.)

8. /xud/: “in itself; on its own; inherently; oneself.” When it occurs immediately before or after the subject of the verb, /xud/ may be translated as “-self;” when it occurs as a part of the verbal phrase, /xud/ may mean “only the subject of the verb.”

yee kaam xud Thiik nahiiN	This work is bad in itself.
yee kaam xud kiijiyee	Do this work yourself.
maiN yee kaam xud nahiiN karuuNgaa	I won't do this work all alone.
xud maiN yee kaam nahiiN karuuNgaa	[Not to mention others] I myself won't do this work.

Consider the sentence: /woo xud nahiiN jaanaa caahtaa/. Depending on how we posit breath-groups, the sentence may be spoken in two different ways and with two separate meanings. If a pause is made after /woo/ and /xud/ is read with the verbal phrase, the sentence would mean: “He doesn't want to go all by himself.” On the other hand, if /woo/ and /xud/ are pronounced together as one breath-group, followed by the pause, the sentence would mean: “[No one is holding him back,] he himself doesn't want to go.” The latter meaning may be expressed more unambiguously by placing /xud/ before /woo/.

Further, in many instances, if /xud/ is placed before the subject, the phrase would mean, “[not to mention others,] but the subject himself,” while if it occurs after the subject, the phrase would mean, “[no one else,] the subject alone.”

maiN xud nahiiN jaanaa caahtaa	[None is forcing me,] I myself don't wish to go.
xud maiN nahiiN jaanaa caahtaa	[Not only others are not going,] I myself don't wish to go.

In the adverbial function, /xud/ is interchangeable with /aap/ and /apnee aap/. (See the preceding note.) There is also an adverbial phrase, /xud-see/, “of its own volition; by itself.”

9. /uuNcaa/: “high; tall.” It is used with all nouns except those referring to human beings. In the latter context, Urdu uses /lambaa/, which in other contexts means: “long.” Thus: /uuNcii imaat/, “tall building;” /lambii imaat/, “long building;” /uuNcaa pahaaR/, “high mountain;” /lambaa laRkaa/, “tall boy.” In the context of human beings, /uuNcaa/ means: “high in rank or status.” Thus: /lambee loog/, “tall people;” /uuNcee loog, “high ranking people.”

10. /yee aur baat hai.../: “It is another matter that...”

/aur/, pronounced with prominent stress and higher pitch, means “other; different; another,” rather than “more of the same [as the preceding word].” (See 217.)

11. /paidaa-karnaa/: “to create; to grow (Tr.); to give birth to.”

In Urdu culture, only God can create a living being, consequently /paidaa karnaa/ will mostly be used in its first meaning only with God as its subject. In the second meaning, it may be used with human subjects in the context of agricultural activity (though not animal husbandry). One can say, /woo anaaj paidaa kartaa hai/, “He raises corn,” but one cannot say, /woo bheeR paidaa kartaa hai/, “He raises sheep.” For the latter, one must use the verb /paalnaa/, “to raise or rear; to keep as a domestic animal.” Thus: /kuch loog suar paaltee haiN/, “Some people raise pigs.” Similarly, one uses the

verb /baccaa deenaa/ in the context of animals giving birth. Example: /yee bheeReeN har saal do baccee deetii haiN/, "These ewes give birth to two lambs every year."

The related verb /paidaa-hoonaa/, on the other hand, means "to be born; to grow (Intr.)," and may be used with human and non-human subjects alike. Thus: /wahaaN eek laRkaa paidaa huaa/, "a boy was born there;" /wahaaN eek peeR paidaa huaa/, "a tree grew up there."

Further, in the context of human beings, it is considered more polite to use the word /paidaais/, "birth." Thus: /aap-kii paidaais kahaaN huii?/, "Where were you born?" (Lit. "Where did your birth occur?"). It would be considered impolite to phrase the question as: /aap kahaaN paidaa huee?/. But /woo kis mulk-meeN paidaa huaa thaa?/, "What country was he born in?" would be quite acceptable. (See 260.)

## Exercises

### A. Situational variants.

پہلی بات ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ہم یہ کیسے جان لیتے ہیں کہ ایک چیز میں جان ہے اور دوسری میں نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہم پودوں کے بارے میں کہا کرتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں گو وہ بول نہیں سکتے۔ آنکھیں نہ ہونے کے باوجود وہ زندہ ہیں۔ سب سے پہلا فرق جاندار اور بے جان میں یہ ہے کہ جاندار چیزیں بڑھتی ہیں اور بے جان نہیں بڑھتیں۔ بے جان چیزوں میں بڑا کرنے والی کوئی طاقت موجود نہیں ہوتی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جاندار چیزیں غذا کو اپنے جسم کا حصہ بنا لیتی ہیں جس سے اُن کے بدن میں توانائی پیدا ہوتی ہے۔ ریل کے انجن کو پانی اور کوئلہ دیا جاتا ہے لیکن یہ ”غذا“ اُس کے جسم کا حصہ نہیں بنتی۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ جاندار چیزیں اگر سانس نہ لیں تو زندہ نہیں رہ سکتیں اور بے جان چیزوں کو سانس لینے کی ضرورت نہیں۔ جانوروں کی طرح پیڑ پودوں کو بھی سانس لینے کی ضرورت ہے مگر یہ دوسری بات ہے کہ ہر ایک کا طریقہ مختلف ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ جاندار چیز اپنی ہی طرح کی زندہ چیز پیدا کر سکتی ہے مگر بے جان چیز میں اپنی نسل کو بڑھانے کی طاقت نہیں ہوتی۔

### B. Translate into English.

سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ ریل کہاں جاتی ہے۔ تم یہ کیسے پہچان لیتے ہو کہ تمہارے کمرے کے قریب آنے والا تمہارا دوست ہی ہے۔ یہ کھانا کھانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس پر بہت سی مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ بچے کودتے پھاندتے ہیں تو کبھی کبھی گر کر رونے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ اس لئے کھاتے ہیں کہ زندہ رہیں اور کچھ اُن کے برعکس اس لئے زندہ ہیں کہ کھاتے رہیں۔ وہ سوتا ہے تب بھی اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ آپ کو اُن صاحب کے بارے میں کیا معلوم ہے۔ اُن کے جیسا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ احمد جیسا لڑکا اور آپ اُس کو برا کہتے ہیں! اُن

کے والد ہمیشہ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے رہتے ہیں۔ اُن کے بتانے کے باوجود میں ان دو چیزوں کے فرق کو نہیں سمجھ سکا۔ اس مکان کے کرایے میں آپ کا جو حصہ ہے وہ کون ادا کرے گا؟ اُن کی کتابوں جیسی کتابیں ہر ایک کے پاس نہیں۔ اُن کی جیسی کتابیں بہت کم لوگوں کے پاس ہیں۔ اچھی غذا کھانے سے بچے بڑھتے ہیں اور اُن کے جسم میں طاقت آتی ہے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم اُن سے ملتے رہتے ہو۔ انسان اور پیڑ پودے اپنے آپ بڑھتے رہتے ہیں لیکن مکان یا شہر خود سے نہیں بڑھ سکتے۔ ریل جب پل کے قریب آنے لگی تو اُس کی حرکت میں فرق آگیا۔ تم وہاں اپنے جیسے بہت سے لوگوں سے ملو گے۔ جاندار چیزیں خود بڑھتی ہیں لیکن بے جان چیزوں کو بڑا کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ میں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ اُن عالموں سے مختلف طرح کے سوال پوچھتا رہتا تھا۔ اُن جانوروں کی زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ دریا کے کنارے ایک مگر مجھ دھوپ میں ایسا لیٹا تھا کہ گویا مر گیا ہے۔ وہ آج مجھ سے اس طرح ملے گویا پہلے کبھی ملے ہی نہ تھے۔ پانی میں رہنے والے جانور پانی کے اندر رہتے ہوئے بھی زندہ رہنے کے لئے سانس لیتے ہیں۔ اب اُن میں اتنی طاقت نہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے پھریں۔ میرے کہنے کے باوجود وہ وہاں نہیں گئے۔ اچھی طرح علاج کرانے پر بھی وہ زندہ نہ رہ سکا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ انسان اگر کام نہ کرے تو پھر زندہ رہنے کے لئے اُسے کھانے کو کچھ نہ ملے گا۔ انسانوں کی طرح جانور بھی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ انسان جانوروں کی باتیں سمجھ نہیں سکتا۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں کھانے پینے کے مختلف طریقے ہیں۔ آپ تو اس طرح بات کرتے ہیں گویا آپ کچھ جانتے ہی نہیں۔ ہم نے احمد کے یہاں آنا جانا چھوڑ دیا ہے۔ کچھ طالب علم، مثلاً احمد اور نجمہ، اُن صاحب سے ملنے جائیں گے۔

### C. Fill in the blanks.

سب..... پہلے تو..... یہ..... چاہیے کہ یہ کیسے معلوم..... ہے کہ فلاں چیز..... ہے اور..... چیز بے جان ہے۔ گویا کو دنا.....، چلنا..... زندگی کی..... ہے لیکن بچہ سو جاتا ہے..... نہیں کرتا



..... بھی تو وہ ..... رہتا ہے۔ اسی طرح ہم پودوں کے ..... میں کہتے ہیں کہ وہ زندہ ..... حالانکہ یہ پودے بولتے .....۔ اوّل تو جاندار چیزیں ..... ہیں اور بے جان چیزیں نہیں .....۔ مثلاً درخت اپنے ..... بڑھتا ہے لیکن کوئی عمارت اپنے آپ نہیں .....۔ پودے اپنی غذا ہوا، ..... اور ..... سے ..... کرتے ہیں اور پھر اُسی کی ..... سے پھلتے پھولتے ہیں۔ انسان کھاتا ہے، پانی ..... ہے اور ..... طرح اپنے ..... میں ..... پیدا کرتا ہے۔ یہ آپ جانتے ..... کہ ..... کوئی جاندار سانس نہ لے سکے تو اُس کا دم ..... جائے گا اور وہ .....۔ جانوروں ..... طرح ..... پودے بھی سانس ..... ہیں۔ یہ پیدائش مختلف جانداروں میں مختلف ..... سے ہوتی ہے۔

#### D. Translate into Urdu.

I. He saw me after twenty years, still he recognized me. II. I don't know if his father is still alive. III. Lifeless things may be big but they do not have any power of their own. IV. This is a very tall building and we can see the whole city from its top. V. People tried to stop her but she kept on doing her work. VI. Children can grow only with the help of good nourishment. VII. Do you know whether he still lives here? VIII. I recognized him but I didn't know his name. IX. He came here of his own accord. X. I began my work at the bank with his help. XI. If a man can't breathe he would die. XII. In the same manner when water animals come out of water they die. XIII. The difference between Shakil and Ahmad is that Shakil works hard and Ahmad doesn't. XIV. There are fruit-trees of different types in his garden. XV. He has a lot of money, still he lives in his old house. XVI. Despite your saying so, I won't go there. XVII. Your friend kept talking for two hours. XVIII. He used to work all the time. XIX. This table cannot go there of itself, someone will have to carry it. XX. Their way of cooking meals is different from ours.

#### E. Answer the following in Urdu.

۱- آپ یہ کیسے پہچان لیتے ہیں کہ مکھی جاندار ہے اور پتھر بے جان؟ ۲- اگر حرکت زندگی کی دلیل ہے تو ریل کا انجن جاندار ہے یا بے جان؟ ۳- ہم کیسے معلوم کرتے ہیں کہ کوئی شخص زندہ ہے

- یا مرگیا؟ ۴- تم نے کون سی جاندار چیزوں کو بڑھتے ہوئے دیکھا؟ ۵- کوئی عمارت اپنے آپ کیوں نہیں بڑھتی؟ ۶- ہم اپنی غذا کہاں سے حاصل کرتے ہیں، اور غذا سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ۷- ریل کے انجن کی ”غذا“ کیوں اس کے جسم کا حصہ نہیں بنتی؟ ۸- کیا آدمی اور پیڑ ایک طرح سے سانس لیتے ہیں۔ ۹- ہمیں یہ کیسے معلوم ہے کہ پیڑ پودے بھی سانس لیتے ہیں؟ ۱۰- آپ کے خیال میں اُردو اور انگریزی میں خاص فرق کیا ہے؟

## Review Sentences

۱- اس نئے زمانے میں ضروری ہے کہ جو قاعدے پرانے ہو چکے ہیں ان کی اصلاح کی جائے۔ ۲- اشوک ہر وقت اپنی رعایا کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ ۳- میں چاہتا ہوں کہ اس بات کی اصلاح میں جتنی کوشش کی جاسکے ضرور کی جائے۔ ۴- انسان کو اپنے اندر توانائی پیدا کرنے کے لئے غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ غذا وہ محنت کر کے ہی حاصل کر سکتا ہے۔ ۵- میرے کہنے کے باوجود اس نے وہاں جانا نہیں چھوڑا۔ ۶- کسی چیز کے جاندار ہونے کی بنیادی دلیل یہ ہے کہ وہ سانس لیتی ہے۔ ۷- غریبوں کی ضرورتوں کو معلوم کرنے کے لئے اشوک کے ملازم جگہ جگہ پھرتے رہتے تھے۔ ۸- بے جان چیزوں کے پاس ہمارے جیسے دل نہیں ہوتے ہیں۔ ۹- درخت پانی اور ہوا کی بدولت اپنے آپ بڑھتا ہے۔ ۱۰- ہم یہ کیسے پہچانیں گے کہ مویشی جاندار ہیں؟ ۱۱- اس ملک میں سب لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ۱۲- اشوک کی لائیں دور دور کے ملکوں میں بھی مشہور ہیں۔ ۱۳- جانور بھی اپنی غذا محنت کر کے ہی حاصل کرتے ہیں۔ ۱۴- جس طرح اشوک نے رعایا کے آرام کے لئے عمارتیں بنوائیں اسی طرح دوسرے بادشاہوں نے بھی لوگوں کے فائدہ کے لئے کام کیے ہیں۔ ۱۵- اشوک نے جانوروں کو تکلیف پہنچانے سے توبہ کر لی۔ ۱۶- ان پہاڑوں پر بڑے اچھے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ ۱۷- جانوروں اور انسانوں کے لئے الگ الگ سرکاری اسپتال کھولے جاتے ہیں۔ ۱۸- اگر کسی انسان کو ہوانہ ملے تو اس کی سانس گھٹنے لگے گی اور وہ مر جائے گا۔ ۱۹- بچے اتنا کودتے پھاندتے رہتے ہیں، اس کے باوجود وہ جلدی نہیں تھکتے۔ ۲۰- پودوں کا خود سے بڑھنا ان کی زندگی کی دلیل ہے۔ ۲۱- اگر کسی غریب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو مجھے رنج پہنچتا ہے۔ ۲۲- بچوں کو کھیلنے اور ادھر ادھر گھومنے سے دلچسپی ہوتی ہے۔ ۲۳- پانی کے جانور پانی کے اندر ہی زندہ رہتے ہیں، لیکن کچھ سانس لینے کے لئے پانی کے اوپر بھی آتے ہیں۔ ۲۴- جاندار چیزوں کی نسل بڑھتی رہتی ہے، اس کے برعکس بے جان چیزیں نہ خود بڑھتی ہیں نہ ان کی نسل ہی بڑھ سکتی ہے۔ ۲۵- ہم نے اس سال اپنے ملک میں سفر کرنے پر

بہت پیسہ صرف کیا۔ ۲۶- سب بچوں کو جانوروں کی حرکتوں سے بہت دلچسپی ہوتی ہے۔  
 ۲۷- ریل کا انجن کونکہ اور پانی سے چلتا ہے، اس کے برعکس پودوں کو پانی، دھوپ اور ہوا کی ضرورت  
 ہوتی ہے۔ ۲۸- ہر جاندار اپنے جسم میں مختلف طریقوں سے توانائی حاصل کرتا ہے۔  
 ۳۰- یہ چٹان اتنی بھاری اور مضبوط ہے کہ کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا۔ ۳۱- زندگی کے آخری بارہ  
 سال اشوک نے بدھ مذہب کی خدمت میں صرف کیے۔ ۳۲- میں نے ان کو دور سے ہی پہچان  
 لیا، حالانکہ ان کو کئی سال سے نہیں دیکھا تھا۔ ۳۳- ایک ہندوستانی عالم نے پودوں کے سانس  
 لینے کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے۔ ۳۴- آپ کی پیدائش کس ملک میں ہوئی تھی؟  
 ۳۵- ان کی کوششوں کے باوجود یہ کام ٹھیک سے نہ ہو سکا۔ ۳۶- خدا نے ہم کو صرف زندہ رہنے  
 کے لئے نہیں پیدا کیا ہے۔ ۳۷- کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ہم لوگ ایک مذہبی جلسہ میں جائیں  
 گے۔ ۳۸- آج تو میں خود آپ سے ملنے کے لئے آنے والا تھا۔ ۳۹- اگر یہ کام تم خود کر سکو تو  
 کرو، کیونکہ کوئی اور آدمی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ ۴۰- جانوروں کا سانس لینے کا طریقہ پودوں  
 کے سانس لینے کے طریقے سے مختلف ہے۔ ۴۱- وہ تو ہر وقت ایسی ہی باتیں کرتا رہتا ہے۔  
 ۴۲- آج چوتھا دن ہے کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ ۴۳- اشوک کی یادگار اُس کی بنوائی  
 ہوئی لائیں ہیں جو اب بھی ہندوستان کے کئی شہروں میں موجود ہیں۔ ۴۴- وہ تو اس طرح  
 خاموش ہو گیا گویا بات کرنا ہی نہیں جانتا۔ ۴۵- انہوں نے کئی مرتبہ آپ کے پاس آنے کی کوشش  
 کی لیکن معلوم نہیں کیوں نہ آسکے۔ ۴۶- یہ کام اپنے آپ تو نہیں ہو جائے گا، تم کو بھی محنت  
 کرنی پڑے گی۔ ۴۷- مجھے پرانے بادشاہوں کی بنوائی ہوئی عمارتیں دیکھنے سے خاص دلچسپی ہے۔  
 ۴۸- حالانکہ اُن کا مکان یہاں سے بہت دُور ہے تب بھی تم کو چاہیے کہ وہاں ضرور جاؤ۔  
 ۴۹- دور سے یہ عمارتیں بہت اچھی معلوم ہوتی تھیں لیکن قریب آنے پر اتنی اچھی نہیں معلوم  
 ہوئیں۔ ۵۰- کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میں فلاں فلاں کتابیں کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟

## Unit XIII

### سکندر

جو لوگ کم عمری میں بادشاہ ہوئے انہوں نے اکثر شہرت پائی ہے۔ اُن میں سکندر کا نام سب سے زیادہ مشہور ہے۔ جب وہ تخت پر بیٹھا تو اُس کی عمر سولہ برس کی تھی۔<sup>۲</sup> اُس نے ارسطو جیسے بڑے عالم سے پڑھا تھا۔ سکندر کے باپ کا نام فیل قوس تھا۔ وہ یونان کے ایک حصے کا بادشاہ تھا۔ اُس کے مرنے پر سکندر بادشاہ ہوا۔ یہ اب سے ڈھائی ہزار برس پہلے کی بات ہے۔<sup>۳</sup> بادشاہ ہونے کے بعد سکندر نے سارے<sup>۴</sup> یونان پر قبضہ کر لیا اور بہت اچھی طرح سلطنت کا کام سنبھالا۔<sup>۵</sup> جب اُس کی طاقت بہت بڑھ گئی تو اُس نے مصر پر حملہ کیا۔ مصر کا بندرگاہ اسکندریہ اُسی کے نام سے اب تک مشہور ہے۔

جب کوئی بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ کو اپنا حاکم مانتا ہے تو اُسے کچھ نذر دیا کرتا ہے۔ اُسے خراج کہتے ہیں۔<sup>۶</sup> سکندر کا باپ بھی ایران کے بادشاہ دارا کو خراج دیا کرتا تھا۔ سکندر نے اُسے خراج دینے سے انکار کر دیا۔ دارا نے سختی<sup>۷</sup> شروع کی۔ اِس پر<sup>۸</sup> سکندر نے ایران پر چڑھائی کر دی۔ راستے میں بہت سے ملک پڑتے تھے۔<sup>۹</sup> سکندر سب کو فتح کرتا ہوا ایران پہنچ گیا۔ دارا کی فوج بہت زیادہ تھی لیکن سکندر نے چالاکی سے اُس کے غلاموں کو ملا لیا اور اُسے قتل کرا دیا۔ اُس کے بعد سکندر جیت گیا اور اُس نے دارا کی لٹکی سے شادی کر لی۔<sup>۱۰</sup>

ایران فتح کرنے کے بعد سکندر نے افغانستان کے رستے سے ہندوستان پر حملہ کیا، اور ٹیکسلا فتح کرتا ہوا جہلم تک آگیا۔ یہاں راجہ پورس سے اُس کا سامنا ہوا۔ پورس کی فوج میں بہت سے ہاتھی تھے، جب اُن ہاتھیوں پر تیر برسے<sup>۱۱</sup> تو یہ بھاگ کھڑے ہوئے<sup>۱۲</sup> اور پورس کی فوج میں گڑبڑ پڑ گئی۔<sup>۱۳</sup> اِس طرح پورس ہار گیا۔ اُس کے بعد سکندر آگے بڑھا، لیکن اُس کی فوج بہت تھک گئی تھی اور اپنے دیس جانے کے لئے بے چین ہو رہی تھی۔ اِس لئے واپس ہو گیا۔ رستے میں شہر بابل<sup>۱۴</sup> میں اُسے بخار آیا، اور وہ مر گیا۔ مرنے کے وقت اُس کی عمر تیس برس کی تھی۔

سکندر کی فوج کے افسر اُس کی لاش یونان لے گئے۔ وہاں سکندر کے حکم کے مطابق اُس کا جنازہ<sup>۱۵</sup> اِس طرح نکالا گیا کہ آگے آگے یونان کے بڑے بڑے حکیم اور عالم تھے۔ اُن کے پیچھے وہ خزانہ تھا جو سکندر نے بہت سے ملک جیت کر جمع کیا تھا۔ خزانے کے پیچھے ساری فوج تھی اور بالکل آخر میں سکندر کی لاش تھی جس کے خالی ہاتھ باہر نکلے ہوئے تھے۔ اِس حکم سے سکندر کا مطلب یہ تھا کہ اتنے بڑے بڑے حکیم، اتنا بڑا خزانہ اور اتنی بڑی فوج ہوتے ہوئے بھی وہ موت کے پنجے سے نہ بچ سکا اور اِس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔<sup>۱۶</sup>

### Unit XIII: Notes

1. /kam-umrīi-meeN/: “at a young age.” /kam-umrīi/, “the state of being at a young age,” an abstract noun, feminine, made by adding the suffix /-ii/ to the adjective /kam-umr/, “of little age,” which in turn consists of an adjective /kam/, “less,” and a noun /umr/, “age.” Some other commonly used compound adjectives made with /kam/ are: /kamzoor/, “weak;” /kambaxt/, “wretched; ill-fated;” and /kam-xuuraak/, “one who eats very little.”

2. /us-kīi umr soolaa baras kīi thīi/: “His age was sixteen.”

There can be several responses in Urdu to the question, /us-kīi kyaa umr hai?/, “What is his age?”

1. /soolaa baras/, “Sixteen years.”

2. /us-kīi umr soolaa baras-kīi hai/, “His age is sixteen.”

3. /us-kīi umr soolaa baras hai/, “His age is sixteen.”

4. /woo soolaa baras-kaa hai/, “He is sixteen years old.”

In 2 and 4 the predicative compliment is an adjectival phrase made by adding /kaa/ to a nominal phrase. Note that /woo soolaa hai/, the literal equivalent of the English “He is sixteen,” will not be acceptable in Urdu.

3. /yee ab-see Dhaaii hazaar baras pahlee-kīi baat hai/: “It happened 2,500 years ago.”

Note the adjectival phrase made by adding /-kīi/—it agrees with /baat/, a feminine noun—to the long adverbial phrase. Most adverbial words and phrases may be turned into adjectives by adding the possessive postposition /-kaa/. Examples: /yahaan-kee loog/, “the local people;” /doo ghanTee-kaa safar/, “a two-hour long journey.”

4. /saaraa/: “entire.” Whereas /saaraa/ implies the entirety of the number, span or size of something, /puuraa/ carries the nuance of completeness or fullness. The latter, therefore, may not be used with plural nouns where their number is of more significance.

ham-nee saarii raat kaam kiyaa      We worked the entire night.

In the above, we may replace /saarii/ with /puurii/ without making any difference.

yee saarii kitaabeeN naii haiN      All these books are new.

Here, we may replace /saarii/ with /sab/, “all,” or /kul/, “the total number,” but not with /puurii/.

us-nee saaree doo soo rupiyee khoo      He lost all the two hundred rupees he had.  
diyee

us-nee puuree doo soo rupiyee      He lost full two hundred rupees!  
khoo diyee

In the last sentence it is not the actual number but the immensity of the loss which is of importance; hence the use of /puuraa/. /puuraa/ is also used in the complement function, whereas the other adjectives mentioned above are not. The two verbs commonly made with /puuraa/ are: /puuraa-karnaa/ and /puuraa-hoonaa/. (See 14:18.)

us-nee kaam puuraa nahiiN kiyaa      She didn't complete the work.

kaam puuraa nahiiN huaa      The work wasn't completed

5. /sikandar-nee . . . saltanat-kaa kaam saNbhaalaa/: “Alexander took up the work of kingship.”

/saNbhaalnaa/ means “to support or prop up something; to take hold of something and look after it.” Its intransitive form is /saNbhaalnaa/, “to recover.”

- |   |  |
|---|--|
| apnii kitaabeeN saNbhaaliyee                              | Here, take care of your books.             |
| maiN gir-jaataa leekin ahmad-nee<br>mujhee saNbhaal liyaa | I'd have fallen, but Ahmad got hold of me. |
| maiN gir-jaataa leekin saNbhal-<br>gayaa                  | I'd have fallen, but managed to recover.   |

6. /usee xiraaj kahtee haiN/: “It is called /xiraaj/.” Lit. “[They/People] call it /xiraaj/.”

/X-koo X1 kahnaa/: “to call X X1.” Both adjectives and nouns may occur as X1. The most common way to ask the question, “What is X called,” is: /X-koo kyaa kahtee haiN/, with /loog/ as an implied subject. It may be made more personal too: /aap X-koo kyaa kahtii haiN?/, “What do you call X?”

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| is-koo urduu-meeN kyaa kahtee<br>haiN?  | What is it called in Urdu?        |
| aisee loogooN-koo jaahil kahtee<br>haiN | Such persons are called ignorant. |
| aap-nee us-koo acchaa kyooN<br>kahaa?/  | Why did you call it good?         |

7. /daara-nee saxtii suruu-kii/: “Darius began to get tough with him.”

/saxtii/, “hardness,” is an abstract noun made from /saxt/, “hard.” /saxtii karnaa/: NF: “to put pressure on X /-par/.” /saxtii-see/, an adverbial phrase, means: “with firmness; strictly.”

8. /is-par/: “at that...; on account of it...” /is/ refers back to the preceding sentence, hence the proximate form, and not /us/.

9. /raastee-meeN bahot see mulk paRtee thee/: “There were many countries on the way.”

/paRnaa/ has no one basic meaning. (See 226.) Here it is used in the sense of “to occur.” Note the imperfect participle construction. It implies that the statement made is concerned with something generally true and not just one instance of it. For the latter, it would have been sufficient to say: /raastee-meeN bahot see mulk thee/. The choice made by the writer was a stylistic one, and not exclusively grammatical.

10. /saadii/: F : “marriage.” It is used in two verbs: /saadii karnaa/ and /saadii hoonaa/. The subject of /karnaa/ would be the person who marries, while the subject of /hoonaa/ would be /saadii/ itself. In Urdu culture, a girl normally does not arrange her own marriage, her parents or relatives do it for her. A man, on the other hand, is perceived as being able to arrange his own marriage. Consequently, /saadii karnaa/ will normally not be used with a woman as its subject except to indicate that she married on her own, perhaps against her elders' wish. Consider the following examples:

- |   |  |
|---|--|
| saliim-kii saadii najmaa-see huii                     | Saleem married Najma.  |
| saliim-nee najmaa-see saadii kii                      | -ditto-  |
| najmaa-kii saadii saliim-see huii                     | Najma married Saleem.  |
| najmaa-nee saliim-see saadii kii                      | Najma married Saleem, [and it was she who arranged it, not her parents]. |
| najmaa-kee waalid-nee us-kii saadii<br>saliim-see kii | Najma's father married her to Saleem.                                    |



The two verbs, therefore, may be described as: (1) /ṣaadii hoonaa/ : Ki.F : “to marry X /-see/; and (2) /ṣaadii karnaa/ : NF : “to marry X /-see/; to marry X /-kii/ to X1 /-see/.”

11. /jab un haathiyooN-par tiir barsee/: “When arrows rained down on those elephants...”

/barasnaa/, “to fall like rain.” When used with /paanii/, “water,” as its subject, it means “to rain (Intr).” It is not used with /baariṣ/, “rain,” which is used with the verb /hoonaa/.

abhii paanii baras-rahaa hai	It is still raining.
abhii baariṣ hoo-rahii hai	-ditto-

Another verb in this context would be /paanii paRnaa/, “to rain,” with /paanii/, “water,” acting as the subject of the verb /paRnaa/. Example: /abhii paanii paR-rahaa hai/, “It is still raining.”

12. /yee bhaag-khaRee huee/: “They began to flee.” /khaRaa-hoonaa/ has the same function in such compounds as the verb /uThnaa/; it adds the nuance of something happening suddenly or haphazardly. (See 167.)

13. /fauj-meeN gaRbaR paR-gaii/: “A confusion arose in the army.”

/gaRbaR/ is an onomatopoeic word. The use of /paRnaa/ helps to express the calamitous nature of what happened. /paRnaa/, for the same reason, is also used with such words as /soor/, “noise;” /aafat/, “calamity;” and /hangaamaa/, “uproar.”

14. /sahr baabul-meeN/: “...in the city of Babylon...”

Inanimate class markers mostly occur after the noun, while animate class markers can occur either before or after, though mostly before.

Jamnaa nadii	the River Jamuna
aabuu pahaaR	Mt. Abu
raajaa pooras	Raja Porus
sikandar baadsaah	Emperor Alexander

/sahr/, “city,” and /mulk/, “country,” for some reason, behave like animate markers.

15. /janaazaa/ means “a funeral procession” as well as “a properly shrouded corpse.”

16. /is duniyaa-see xaalii haath jaa-rahaa hai/: “He is going empty-handed from this world.”

/xaalii haath/, an adjectival phrase, is mostly used adverbially, as is the case here.

## Exercises

### A. Situational variants

جو لوگ چھوٹی عمر میں بادشاہ بنے ہیں وہ اکثر مشہور ہوئے ہیں۔ جس وقت سکندر تخت پر بیٹھا وہ صرف سولہ برس کا تھا۔ بادشاہ بننے کے بعد سکندر سارا یونان فتح کر کے بہت اچھی طرح سلطنت کا کام چلانے لگا۔ جب ایک بادشاہ دوسرے کو اپنے سے بڑا بادشاہ مانتا ہے تو اسے خراج میں روپے، زمین، غلام اور اس طرح کی دوسری چیزیں دیتا ہے۔ سکندر نے دارا کو خراج دینا چھوڑ دیا۔ اُس لڑائی میں سکندر کو فتح ہوئی اور اُس نے دارا کو قتل کرا کے اُس کی لڑکی سے شادی کر لی۔ پورس کی فوج میں سینکڑوں ہاتھی تھے، جب اُن پر تیر گرنے لگے تو وہ ڈر کر بھاگے اور پورس کی فوج کے سپاہی بھی بھاگنے لگے۔ جب سکندر مرا ہے تو وہ تیس برس کا تھا۔ اُن لوگوں کے بعد وہ خزانہ تھا جو سکندر نے کئی ملکوں کو فتح کر کے جمع کیا تھا۔ خزانے کے بعد فوج تھی اور سب سے آخر میں سکندر کی لاش جس کے باہر نکلے ہوئے خالی ہاتھ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ انسان دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے اور دنیا سے اسی طرح خالی ہاتھ جاتا ہے۔

1. سپاہی M sipaahii soldier

### B. Translate into English.

جو لوگ نیک اور اچھے کام کرتے ہیں وہ اکثر اپنی زندگی میں ہی شہرت پاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ تو وہاں جاتا نہیں، اُسے کوئی بھیجا کرتا ہے۔ جس زمانے میں میں اس اسکول میں پڑھا کرتا تھا اس کا نام دُور دُور مشہور تھا۔ بمبئی ہندوستان کا سب سے مشہور شہر ہے۔ جب وہ اسکول جانے لگا تو اُس کی عمر چھ برس کی تھی۔ یہ اب سے اٹھارہ برس پہلے کی بات ہے جب کہ ہندوستان ایک آزاد ملک بنا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں گھومنے کے ارادے سے اپنے مکان سے باہر نکلا۔ تمہارے رہتے ہوئے بھی اگر مجھے کام نہ مل سکا تو مجھے رنج ہوگا۔ میرا بھائی بہت اچھی طرح تیرتا ہوا جلدی

سے دوسرے کنارے تک پہنچ گیا۔ جو بچے اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے وہ آگے چل کر خراب ہو جاتے ہیں۔ اس عمارت کو تاج محل کہتے ہیں۔ ٹٹو والا ٹٹو کو کھانے کے لئے اچھی طرح نہ دیا کرتا تھا۔ میں نے اُسے اپنا کرتا دینے سے انکار کر دیا۔ کالج کے راستے میں بہت سی دوکانیں پڑتی تھیں۔ دس سال پہلے میرے دوست کی شادی ہوئی اور اب اُس کے چار بچے بھی ہیں۔ میرے کئی مرتبہ کہنے کے باوجود شکیل نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس میدان میں بہت سے لوگ تھے، لیکن جب پانی برسنے لگا تو سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ مکان سے نکلنے کے بعد میں نے پل کے راستے سے دریا پار کیا اور سیر کے لئے چلا گیا۔ میں پہلے اسکول جاؤں گا پھر بازار ہوتا ہوا گھر آؤں گا۔ احمد نے میرے کہنے کے مطابق کام کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے کہنے کے مطابق احمد نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ کل اپنے دوست کے ساتھ ہم لوگ پہاڑ پر گئے تھے اور شام کو واپس آئے۔ چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پاس جانے کے لئے بے چین ہو رہا تھا۔ اگر وہ مجھ سے اس طرح کی بات کہتے تو میں انکار کر دیتا۔ اُن کے حکم کے مطابق ہم روز ندی پر جایا کرتے تھے۔ اُس لڑکے نے بڑی محنت سے کام کر کے کچھ روپیہ جمع کیا تھا۔ آخر آج صبح اُس آدمی کی لاش دریا سے نکالی گئی جو کل رات اُس میں گر کر مر گیا تھا۔ وہ گھومتا پھرتا ہوا بڑی دیر کے بعد واپس آیا۔ وہ خاموش ہو کر کھانا کھاتا رہا اور کچھ نہ بولا۔ بہادر لڑکا ریل کے سارے مسافروں کو بچاتے ہوئے خود کو موت کے پنجے سے نہ بچا سکا۔ ہم لوگ وہاں اکثر جایا کرتے تھے اور ہمیشہ انھی کے ساتھ رہتے تھے۔ اپنے والد کی موت کے بعد احمد نے گھر کا سارا کام سنبھالا۔ جب وہ اپنے آپ گھر سے نہیں نکلا تو سب لوگوں نے مل کر اُسے گھر سے نکال دیا۔ تم روز اُن کے پاس جایا کرو، تمہارے کام سے اُنہیں بہت دلچسپی ہے۔ راستے میں جو پہلا گھر پڑتا ہے میرے دوست کا ہے۔

### C. Fill in the blanks.

جو لوگ کم..... میں بادشاہ..... انہوں نے اکثر شہرت..... ہے۔ جب وہ تخت پر..... تو اُس کی..... سولہ..... کی تھی۔ یہ..... سے..... ہزار برس..... کی بات ہے۔ اُسے خراج..... ہیں۔

سکندر نے..... خراج دینے سے..... کر دیا۔ راستے..... بہت..... ملک..... تھے۔ پورس کی..... میں..... سے ہاتھی تھے، جب ان ہاتھیوں پر تیر..... تو یہ بھاگ کھڑے..... اور..... کی فوج میں گڑبڑ..... راستے میں شہر بابل..... اُسے بخار.....، اور وہ..... سکندر..... حکم کے..... اُس کا جنازہ اس طرح..... خزانے کے..... ساری فوج..... اور آخر..... سکندر کی..... تھی۔ اتنی بڑی فوج ہوتے..... وہ موت کے پنجے..... نہ بچ سکا۔

#### D. Translate into Urdu.

I. Ashoka is perhaps the most famous king of India. II. Why did you refuse to help him? III. Despite staying there for several days I wasn't able to meet him. IV. That boy has begun to walk badly after falling from the tree. V. What do they call this building? VI. My brother used to go to him every week. VII. He began to study Urdu when he was fifteen years old. VIII. My brother married six years ago. IX. When we saw the owner of the garden we began to run. X. Following my instructions they will go there tomorrow. XI. These days they come here quite often. XII. When he got married he gave up living with his parents. XIII. I refused to carry all those books with me to Karachi. XIV. At the very end of the road was his store and a lot of people had gathered in front of it. XV. Can you tell us something about the many great philosophers of Greece? XVI. No king can just by himself conquer an entire country. XVII. He came here with me, talking all the way. XVIII. The boys from that school used to go to the river every day. XIX. When are you going to Lahore to take up your new job? XX. My sister was married to Ahmad's older brother.

#### E. Answer the following in Urdu.

۱- کیا تم کچھ دوسرے لوگوں کے نام جانتے ہو جنہوں نے کم عمری میں شہرت پائی؟  
 ۲- بادشاہ بننے کے وقت سکندر کی کیا عمر تھی اور اُس نے کس سے پڑھا تھا؟ ۳- یونان پر قبضہ کرنے کے بعد سکندر نے کس ملک پر حملہ کیا، اور وہاں کا کون سا شہر اُس کے نام سے مشہور ہے؟

۴- خراج کیا ہے؟ ۵- سکندر نے ایران کیسے فتح کیا؟ ۶- کیا تمہاری شادی ہوئی ہے؟  
۷- ہندوستان میں سکندر نے کون سا شہر فتح کیا اور کس راجا سے لڑائی لڑی؟ ۸- سکندر  
سارے ہندوستان پر قبضہ کیوں نہ کر سکا؟ ۹- سکندر کا جنازہ کس طرح نکالا گیا؟ ۱۰- جنازے  
کے بارے میں اس حکم سے سکندر کا کیا مطلب تھا؟

## مسلمانوں کے تیوہار

یوں تو ہر ملک بلکہ<sup>۲</sup> ہر علاقے کے الگ الگ تیوہار ہوتے ہیں جن کو وہاں کے مقامی لوگ، مسلم اور غیر مسلم<sup>۳</sup> سب مل کر مناتے<sup>۴</sup> ہیں لیکن مسلمانوں میں دو تیوہار ایسے بھی ہیں جن کو دنیا کے کونے کونے کے مسلمان ایک ہی وقت مناتے ہیں۔ یہ دو عیدیں ہیں۔ پہلی کا نام ہے عید الفطر اور دوسری کا عید الاضحیٰ؛ ویسے<sup>۵</sup> عام بول چال میں لوگ دوسری کو بقر عید کہتے ہیں اور پہلی کو محض<sup>۶</sup> عید۔

یہ تیوہار مسلمانوں کے کیلنڈر کے مطابق منائے جاتے ہیں جو چاند کی گردش پر مبنی ہے۔ رمضان کے مہینے میں تمام مسلمان روزہ رکھتے ہیں<sup>۸</sup> اور خاص طور پر خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ رمضان کے آخری دن لوگ شام کو میدانوں میں نکل جاتے ہیں یا اپنے اپنے گھروں کی چھت پر چڑھ کر چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس دن چاند دیکھا جاتا ہے اُس کے دوسرے دن عید منائی جاتی ہے۔ عید کے دن لوگ سویرے اُٹھ کر نہاتے اور نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ اُس دن گھر میں میٹھی سوتیاں ضرور پکتی ہیں، جن کو سب لوگ کھاتے ہیں۔ پھر گھر کے سب لوگ عید گاہ یا شہر کی بڑی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ عورتیں الگ نماز پڑھتی ہیں اور مرد الگ۔ نماز ختم ہونے پر سب لوگ عید کی خوشی میں گلے ملتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں۔ بعد میں اپنے اپنے دوستوں کے گھر عید ملنے<sup>۹</sup> جاتے ہیں۔ اُس دن ہر گھر میں اچھے اچھے کھانے پکتے ہیں، نوکروں کو انعام ملتا ہے،

بچوں کو عیدی کے روپے ملتے ہیں۔ عید گاہ کے پاس میلہ لگتا ہے جس میں کھانے پینے کی چیزوں کی دکانیں اور بچوں کے کھیل تماشے کی چیزیں ہوتی ہیں۔

دوسری عید یعنی بقر عید یا عید الاضحیٰ حج کے مہینے میں منائی جاتی ہے۔ اس موقع پر بھی لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور لوگوں سے گلے ملتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اُس دن وہ لوگ جو ایسا کر سکتے ہیں بکرے یا بھیڑ کی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کا گوشت دوستوں میں بانٹتے ہیں اور فقیروں کو بھی دیتے ہیں۔ عید الفطر پر لوگ زیادہ تر<sup>۱۰</sup> میٹھی چیزیں کھاتے ہیں اور عید الاضحیٰ کے دن زیادہ تر گھروں میں نمکین<sup>۱۱</sup> کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی رسم<sup>۱۲</sup> بہت پرانی ہے۔ اس کا تعلق حضرت ابراہیم<sup>۱۳</sup> اور اُن کے بیٹے حضرت اسمعیلؑ کی کہانی سے بتایا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر مسلمانوں کے لئے خاص خوشی کے تیوہار ہیں۔

## Unit XIV: Notes

1. /yuuN too/, lit. "in this manner," is best left untranslated in English; its range covers such English openers as "For that matter...;" "Ordinarily...;" "Of course, ...." The function of this phrase is to introduce a statement whose validity is granted by the speaker, but with regard to which he implies or intends to add another statement for juxtaposition, even contradiction. The second clause would usually begin with /leekin/.

2. /balki/: "but rather; on the contrary." It should be learned together with /leekin/, "but."

yee kaam muṣkil hai leekin maiN kar-duuNgaa      This work is difficult but I'd do it for you.

yee kaam muṣkil nahiiN balki kaafii aasaan hai      This work is not difficult, rather it is quite easy.

woo na sirf yahaaN aaeNgii balki aap-kee saath ThahreeNgii bhii      Not only will she come here, she'll also stay with you.

woo yahaaN aaeNgii leekin aap-kee saath ThahreeNgii nahiiN      She'll come here, but she won't stay with you.

(Also see note 5 below.)

3. /Gair-muslim/: "non-Muslim."

/Gair/ is an adjective and means: "outsider; stranger." It is often used to refer to persons who are culturally perceived as not "one's own." Thus: /apnee loog/, "our own people; kinsmen;" /Gair loog/, "outsiders." /Gair/ is also used as a prefix, mostly added to adjectives, but also to some nouns, to make adjectives containing the sense of negation. Thus: /Gair-mumkin/, "impossible;" /Gair-mazhabii/, "non-religious;" /Gair-taaliim-yaaftaa/, "uneducated;" /Gair-mulkii/, "foreign."

4. /manaanaa/: "to formally observe some occasion or festival." Note the meaning carefully, for though in most cases /manaanaa/ may simply be translated as "to celebrate," it does not inherently contain any sense of joy. Thus: /xusii manaanaa/, "to celebrate;" /Gam manaanaa/, "to mourn;" /chuTTii manaanaa/, "to observe a holiday;" /muharram manaanaa/, "to observe Muharram, the festival of ritual mourning."

5. /waisee/, at the beginning of a clause or sentence, is a more equivocal way of saying "but" than /leekin/. Thus: "aap-koo jaanaa too na caahiye, waisee aap jaaeeN too kooii harj nahiiN/, "You really shouldn't go, but there isn't any harm if you do."

6. /mahez/: "mere; merely; only." It should be learned together with /sirf/. Though the two are mostly used as if they are interchangeable, there is a subtle difference which is often observed by careful writers. /sirf/ draws attention to the quantity, size or number of what it refers to, while /mahez/ implies a more subjective and qualitative view of that matter or thing. Thus: /sirf caar laRkee/, "only four boys [and no more];" /mahez caar laRkee/, "merely four boys."

7. Muslim calendar is lunar, and it depends on the sighting of the moon whether the ongoing month would be of twenty-nine days or thirty. The twelve months of the Muslim calendar are as follows: /muharram; safar; rabii'-ul-awwal; rabii'-us-sanii; jamaadii-ul-awwal; jamaadii-us-sanii; rajab; ṣa'baan; ramzaan; ṣawwaal; zi-l-qaad; zi-l-hij/. (The teacher should write out these words in the class.) Ramadan, /ramzaan/, is the most sacred month for all Muslims.



8. /roozaa/ means “a voluntary and religious fast,” whereas /faaqaa/ means “abstention from food and drink, willingly or unwillingly.” Both are masculine nouns. The related verbs are: /roozaa rakhnaa/ and /faaqaa karnaa/.

'Lent'-meeN loog roozaa rakhtee      People fast during the Lent.  
haiN

meerii tabii'at kuch Thiik nahiiN is      I'm not feeling well, so I'll fast today.  
liee aaj maiN faaqaa karuuNgaa

9. /...apnee doostooN-kee ghar iid milnee jaatee haiN/: “The go to their friends' homes to exchange Eid greetings.”

/iid milnaa/ refers to the act of embracing each other cordially which Muslims engage in after the prayers end. This may happen later too.

10. /zyaadaa-tar/: “mostly.”

Persian has comparative and superlative suffixes—/—tar/ and /—tariin/, respectively—which are added to adjectives. Many of these Persian words have become common in Urdu, but the suffixes themselves have not become a 'productive' element within Urdu grammar—they cannot be added to just any word, and certainly not to Indic words. (Students will have to learn the words individually, but they should learn the suffixes too for recognition.) Some common words are: /behtar/, “better;” /behtariin/, “best;” /xuubtar/, “superior;” /badtariin/, “worst.” (See 241.)

11. /namkiin/: “flavoured with salt; salty.” From /namak/ : M : “salt.” It does not mean “over-salted,” but rather it should be understood as the opposite of /miiThaa/, “sweet.” Other flavours are:

/khaTTaa/	“sour”	/phiikaa/	“insipid”
/kaRwaa/	“bitter”	/tiikhaa/	“hot with chillies”
/xuṣbuudaar/	“fragrant”	/badbuudaar/	“stinking”
/taazaa/	“fresh”	/baasii/	“stale”
/kaccaa/	“unripe; raw”	/pakkaa/	“ripe; cooked”

Another related word, /caTpaTaa/, “flavourfully spicy,” implies a noticeable, but enjoyable, presence of chillies. It can also be used idiomatically: /caTpaTii xabar/, “spicy news.” (Also see 18:15.)

12. /rasm/: F : “ritual; formal practice.” It should be learned together with /rawaaj/, “custom,” a masculine noun.

13. The symbol over the names of the two prophets is the abbreviation of an Arabic phrase whose first word begins with the letter /ain/. The phrase /'alaihīs-salaam/ means, “Peace be upon him.” With the name of the Prophet Muhammad, it is customary to use another symbol, an abbreviated /swaad/, representing an Arabic phrase, /sall-allaahu 'alaihī wa sallam/, “May God's Peace and Mercy be upon him.” (The teacher should write the phrases on the board.) Also see 253, 255.

## Exercises

### A. Situational variants.

ویسے تو ہر ملک اور ہر علاقے کے مختلف تیوہار ہوتے ہیں جنہیں اسی جگہ کے لوگ مل کر مناتے ہیں مگر مسلمانوں میں دو تیوہار ایسے بھی ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک ہی دن مناتے ہیں۔ یوں تو ان تیوہاروں کے خاص نام بھی ہیں مگر عام زبان میں لوگ ایک کو بقر عید اور دوسرے کو صرف عید کہتے ہیں۔ رمضان کے آخری دن لوگ شام کو میدانوں میں جا کر یا اپنے اپنے گھروں کی چھت پر چڑھ کر چاند دیکھتے ہیں۔ پھر دوسرے دن شہر کے تمام مسلمان مرد، عورت اور بچے عید گاہ یا شہر کی بڑی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جمع ہوتے ہیں۔ عورتیں مردوں کے ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھتی ہیں بلکہ ان کے لئے الگ جگہ ہوتی ہے۔ نماز کے بعد سب لوگ اپنے اپنے دوستوں سے عید ملنے ان کے مکان جاتے ہیں۔ عید گاہ کے قریب اکثر ایک خاص بازار لگتا ہے جہاں دکانوں میں کھانے پینے کی چیزیں اور بچوں کے کھیل تماشے کی چیزیں ملتی ہیں۔ دونوں عیدوں میں فرق بس یہ ہے کہ بقر عید کے دن وہ لوگ جن سے ہو سکتا ہے بکرے کی قربانی کرتے ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر گھروں میں زیادہ تر میٹھی چیزیں پکتی ہیں اور عید الاضحیٰ کے روز زیادہ تر نمکین کھانے کھائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بقر عید کے موقع پر جو قربانی کی رسم منائی جاتی ہے اُس کا تعلق حضرت ابراہیم کی قربانی کی کہانی سے ہے۔

### B. Translate into English.

ہر زمانے میں مشہور آدمی گزرے ہیں مگر کم عمری میں شہرت پانے والے بہت ہی کم ہیں۔ انہوں نے لڑکوں سے کہا کہ ہر جواب کو الگ الگ لکھیں۔ میں نے اپنے بھائی اور اُس کے دوست کو مل کر پڑھتے ہوئے دیکھا حالانکہ دونوں الگ الگ اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنا خدا کی عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ اُن سے بالکل نہ ملیں۔ اس عمارت کی

چھت پر سے آپ سارا شہر دیکھ سکتے ہیں۔ اس موقع پر ایک جلسہ بھی ہوا جس میں بڑے بڑے عالم آئے۔ جس دن ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا وہ روزہ رکھ لیتے تھے۔ روزہ رکھنا اور فاقہ کرنا مختلف باتیں ہیں۔ اگر آپ سے یہ کام ہو سکے تو کر دیجیے۔ اس کا نام نجمہ ہے لیکن عام طور پر اس کو نجو کہتے ہیں۔ عام طور سے لوگ ندی پر یا تو شام کو جاتے ہیں یا جب گرمی بڑھ جائے۔ اُردو میں اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ میں عام طور پر اسی وقت ان سے ملنے جاتا ہوں۔ ان کے یہاں سے جانے پر ہم نے خوشی منائی۔ سفر کے آخری دن ہمارے پاس کے سارے پیسے ختم ہو گئے۔ آج شام کو کھانے پر میرے کچھ دوست آنے والے ہیں جو اس ملک میں پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ ہوشیار لڑکے یہ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ اسکول میں اول آئیں۔ اس دن زیادہ تر میٹھی چیزیں کھائی جاتی ہیں۔ ہندوستان میں ہر مہینے کوئی نہ کوئی تیوہار منایا جاتا ہے۔ بعض مسلمان دن میں پانچ وقت مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ جب میں کھیل کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ لڑکے ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور لڑکیاں الگ دوسری طرف۔ جلسہ ختم ہونے پر سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ بعد میں غلام کو پانی میں سے نکالا گیا اور تب وہ خاموش ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اسکول کے کھیلوں میں اول آنے والے لڑکے اور لڑکیوں کو انعام ملتا ہے۔ ہر سال اس پہاڑ پر ایک میلہ لگتا ہے اور بہت سے لوگ اپنے بچوں کے ساتھ میلہ دیکھنے آتے ہیں۔ شہر کے ایک حصے میں آگ لگ گئی اور اس موقع پر بھی کچھ لوگ محض تماشہ دیکھنے کے لئے وہاں پہنچ گئے۔ ان دونوں مکانوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ ایک میں کھانے کا کمرہ ہے اور دوسرے میں نہیں۔ کھانا کھانے کی جگہ بچے زیادہ تر کھیل کود میں لگے ہوئے تھے۔ اشوک کا بدھ مذہب سے تعلق کلرگا کی لڑائی کے بعد شروع ہوا۔

### C. Fill in the blanks.

..... تو ہر ملک بلکہ ہر ..... کے الگ ..... تیوہار ہوتے ..... جن کو وہاں کے مقامی لوگ ..... مناتے ہیں۔ مسلمانوں میں دو ..... ایسے بھی ہیں جن کو دنیا کے کونے ..... کے مسلمان

ایک ہی وقت..... ہیں۔ ویسے..... بول چال میں لوگ دوسری کو..... کہتے ہیں اور پہلی کو محض.....۔ یہ تیوہار..... کے کیلنڈر کے..... منائے جاتے ہیں جو..... کی گردش پر..... ہے۔ رمضان کے..... دن لوگ شام کو میدانوں میں نکل جاتے ہیں یا اپنے اپنے..... کی چھت پر چڑھ کر چاند دیکھنے کی..... کرتے ہیں۔ نماز..... ہونے پر سب لوگ..... کی خوشی میں گلے..... ہیں اور خیرات کرتے ہیں۔ عید گاہ کے پاس میلہ..... ہے جس میں کھانے..... کی چیزوں کی دکانیں اور بچوں کے کھیل تماشے کی..... ہوتی ہیں۔ فرق صرف..... ہے کہ اس دن وہ لوگ جو..... کر سکتے ہیں بکرے یا بھیڑ کی..... کرتے ہیں۔ عید الفطر پر لوگ..... میٹھی چیزیں کھاتے ہیں اور..... کے دن..... گھروں میں نمکین کھانے..... کیے جاتے ہیں۔ اس کا..... حضرت ابراہیم اور اُن کے بیٹے حضرت..... کی کہانی سے..... جاتا ہے۔

#### D. Translate into Urdu.

I. Every region of this country has a separate language. II. When we arrived she was about to go to meet her father. III. The boy was simultaneously eating and reading a book. IV. She came here talking with her brother about the college. V. Very few festivals are celebrated in that manner. VI. His mother told him to read that book, especially the last part. VII. I usually have very little money on the last day of the month. VIII. Most children like sweets more. IX. I don't know any of the people sitting outside.. X. Many Muslims do not go to the mosque every day to pray. XI. After the game was over we talked to the boys who had won. XII. On this occasion too the women do not pray with the men. XIII. There are more boys in this college than girls. XIV. What kind of food is cooked in your house on that day? XV. Why do you refuse to celebrate with us? XVI. A market is held twice a week near the mosque. XVII. Whatever work Shakeel does he does it nicely. XVIII. This matter has nothing to do with our religion. XIX. My house used to be on the way to the river. XX. We don't mean that you should never pray.

**E. Answer the following in Urdu.**

- ۱- مسلمانوں کے کون تیوہار ایسے ہیں جن کو دنیا کے سارے مسلمان ایک ہی وقت مناتے ہیں؟
- ۲- عام بول چال میں مسلمانوں کی عیدوں کے نام کیا ہیں؟ ۳- تمہارے خاص تیوہار کیا ہیں اور کس کیلنڈر کے مطابق منائے جاتے ہیں؟ ۴- رمضان کے مہینے میں مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اور رمضان کے آخری دن کیا کرتے ہیں؟ ۵- عید کے دن لوگ سویرے کیا کرتے ہیں اور پھر کہاں جاتے ہیں؟ ۶- نماز کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں؟ ۷- عید کے دن نوکروں اور بچوں کو کیا ملتا ہے؟ ۸- کیا تم نے کبھی میلہ دیکھا ہے؟ کہاں؟ ۹- عید الاضحیٰ کے دن مسلمان نماز پڑھنے کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ ۱۰- یہ قربانی کس بات کی یادگار ہے؟

## Review Exercises

- ۱- کم عمر بادشاہوں میں سکندر نے سب سے زیادہ شہرت پائی ہے۔ ۲- ارسطو کو سب سے بڑا فلسفی کہا جاتا ہے۔ ۳- کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سکندر بارہ برس کی عمر میں بادشاہ ہوا تھا۔
- ۴- ایران پر مسلمانوں کی حکومت اب سے بہت پہلے شروع ہوئی تھی۔ ۵- ہندوستان پر سکندر کے حملہ کرنے کی بات آج سے بہت پہلے کی ہے۔ ۶- جب میرے والد مر گئے تو میں نے اُن کا کام سنبھالا۔ ۷- سکندر نے کوشش تو بہت کی مگر سارے ہندوستان پر قبضہ نہ کر سکا۔
- ۸- سکندر کے بعد اور اُس سے پہلے بھی کئی کم عمر بادشاہوں نے حکومت کا کام سنبھالا ہے۔
- ۹- سکندر کی شہرت پورس کے ہارنے کے بعد اور بھی بڑھ گئی۔ ۱۰- تمام فلسفی ارسطو کو بہت بڑا عالم مانتے ہیں۔ ۱۱- بزرگوں کا کہنا ماننا بہت اچھی بات ہے۔ ۱۲- سکندر کو مصر کی رعایا نے اپنا بادشاہ مان لیا۔ ۱۳- میرے والد اس کالج میں پڑھا کرتے تھے۔ ۱۴- ملازم کو جو بھی کام دیا جاتا ہے وہ کر دیا کرتا ہے۔ ۱۵- سکندر ایران پر قبضہ کرتا ہوا افغانستان پہنچ گیا۔ ۱۶- میں اپنے بھائی سے باتیں کرتا ہوا آیا ہوں۔ ۱۷- میرے باغ کے راستے میں بہت بڑی ندی پڑتی ہے۔ ۱۸- شہر کے راستے میں جو پل پڑتا ہے وہ سب سے چھوٹا ہے۔ ۱۹- میرا گھر تمہارے کالج کے راستے میں پڑا کرتا تھا۔ ۲۰- بندر بہت زیادہ ہوشیار اور چالاک جانور مانا جاتا ہے۔ ۲۱- شادی کی خوشی منانے پر اتنا روپیہ صرف کرنا اچھا نہیں۔ ۲۲- میرا بھائی اپنی چالاک سے کھیل میں جیت گیا اور اُس کا دوست ہار گیا۔ ۲۳- اس لڑکی کی شادی احمد کے ساتھ ہوگی۔ ۲۴- میں نے اُس کے بھائی کی لڑکی سے شادی کی ہے۔ ۲۵- تمہارے دوست کی شادی کب ہوئی؟ ۲۶- اس لڑکے کی شادی میرے بھائی کی لڑکی سے ہوگی۔ ۲۷- جب دارا ہار گیا تو اُس کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔
- ۲۸- جب جلسے میں گڑ بڑ شروع ہوئی تو لوگ اُٹھ کھڑے ہوئے۔ ۲۹- اس بچے کی عمر چار سال کی ہے۔ ۳۰- سکندر کے کہنے کے مطابق دارا کو قتل کرا دیا گیا۔ ۳۱- جب کسی بادشاہ کا جنازہ نکالا جاتا ہے تو آگے آگے فوج کے بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں۔ ۳۲- اپنی خوشی کے مطابق

اس نے پودوں کو جمع کیا اور دوستوں میں تقسیم کر دیا۔ ۳۳- اس کہانی کے آخر میں اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں۔ ۳۴- وہ آخر تھک کر واپس چلا گیا۔ ۳۵- ہمارا مطلب یہ ہے کہ سب سے آخر میں ہم کھیلیں گے۔ ۳۶- سکندر اتنا بڑا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی موت سے نہ بچ سکا۔ ۳۷- پورس اتنے بہت سے ہاتھی ہوتے ہوئے بھی ہار گیا۔ ۳۸- ہر ملک کے لوگ اپنا اپنا تیوہار الگ الگ طریقے سے مناتے ہیں۔ ۳۹- ساری دنیا کے مسلمان سال میں دو عیدیں ضرور مناتے ہیں۔ ۴۰- یوں تو دوسرے تیوہار بھی ہیں مگر عید کا تیوہار خاص طور پر منایا جاتا ہے۔ ۴۱- عید کا دن ختم ہونے پر بھی دوسرے دن لوگ گلے ملتے ہیں۔ ۴۲- جب میلہ لگتا ہے تو بچے کھیل تماشا دیکھنے ضرور جاتے ہیں۔ ۴۳- تیوہار کی خوشی میں ملازموں کو انعام دیا جاتا ہے۔ ۴۴- دونوں عیدوں میں ایک فرق یہ ہے کہ بقر عید سے پہلے روزے نہیں رکھے جاتے ہیں۔ ۴۵- یوں تو ہر تیوہار پر نوکروں کو انعام ملتا ہے مگر عید کے دن خاص طور پر انعام دیا جاتا ہے۔ ۴۶- دوستوں میں تقسیم کرنے کے لئے میٹھی میٹھی چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ ۴۷- رمضان کے روزوں کا تعلق مسلمانوں کی مذہبی زندگی سے ہے۔ ۴۸- مسلمان بچوں کو کم عمری ہی سے عبادت کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ ۴۹- جو شخص بادشاہ کا حکم نہیں مانتا تھا اس کو پانی میں پھینک دیا کرتے تھے۔ ۵۰- غریب آدمی خزانہ نہیں جمع کرتا، وہ تو بس دو وقت کا کھانا چاہتا ہے۔

## منڈی میں گرمیوں کی ترکاریاں

موسم گرما کی آمد کے ساتھ ساتھ لکھنؤ کی منڈیوں میں مختلف قسم کی ترکاریاں کثرت سے آنے لگی ہیں۔ چوک اور قیصر باغ کی منڈیوں میں<sup>۱</sup> روز صبح بیچنے اور خریدنے والوں کے ٹھٹھ<sup>۳</sup> لگے رہتے ہیں۔ تھوک کی دونوں منڈیوں اور فتح گنج اور رکاب گنج کی سبزی کی دکانوں کے درمیان چونکہ سبزی سے لدے ہوئے ٹرک آتے جاتے رہتے ہیں اس لئے بہت سے مزدور ترکاری لاد اور اتار کر روزی کما لیتے ہیں۔

روز صبح تازی<sup>۲</sup> ترکاریوں کے ڈھیر سجا دیئے جاتے ہیں اور خریدار اپنی پسند کی چیز خرید لیتے ہیں۔ گرمیوں کی ترکاریوں میں آجکل بھنڈی، تری، پرول، کدو، ٹنڈا، پالک اور دوسرے ساگ بکثرت آرہے ہیں۔ یہ ترکاریاں ان کے علاوہ<sup>۵</sup> ہیں جو سال بھر ملتی ہیں۔<sup>۶</sup>

چند ترکاریوں کو چھوڑ کر باقی چیزیں اوسط بھاؤ سے مل رہی ہیں اور سبزی فروش روز کی بکری سے کچھ خوش نظر نہیں آتے<sup>۸</sup> کیونکہ انہیں اچھا منافع نہیں مل رہا ہے۔ اس سال ترکاریاں گذشتہ سال کی نسبت<sup>۹</sup> سستی ہیں۔ گرمیوں میں تری، کدو، لوکی اور ٹنڈا شوق سے<sup>۱۰</sup> کھائے جاتے ہیں، اور ان کا بھاؤ بالترتیب ۴ آنہ، ۲ آنہ، ۲ آنہ اور ۲ آنہ فی سیر ہے۔<sup>۱۱</sup> پرول کا بھاؤ کچھ دن پہلے تک ایک روپیہ فی سیر تھا اور متوسط آمدنی کے لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے<sup>۱۲</sup> لیکن اب



اس کا بھاؤ ۸ آنہ سیر ہو گیا ہے۔ کریلا، آلو اور پالک اتنے سستے ہیں کہ غریب لوگ بھی آسانی سے خرید سکتے ہیں۔

موسم گرما میں ترکاری کی مانگ<sup>۱۳</sup> بڑھنے کا ایک سبب یہ ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ لوگ بھی جو گوشت خور<sup>۱۴</sup> ہیں ترکاری اور سالن کھانا پسند کرتے ہیں۔ دسترخوان<sup>۱۵</sup> پر پودینہ اور کچے آم کی چٹنی بھی ضروری سمجھی جاتی ہے۔ گرمیوں میں کھانا کھٹاس اور خوشبو ہی کے سہارے حلق سے نیچے اترتا ہے۔

منڈی کے پھلوں والے حصے میں پلچی کا زور ہے<sup>۱۶</sup> اور آم بھی آنے لگا ہے۔ یوں تو آم کی کئی قسمیں دکھائی دیتی ہیں لیکن دراصل یہ لو<sup>۱۷</sup> اور آندھی کے گرائے ہوئے آم ہیں۔ ان میں کوئی لذت نہیں ہے۔<sup>۱۸</sup> پلچی اچھی مل رہی ہے لیکن سستی نہیں ہے۔ خربوزہ منڈی سے تیزی سے غائب ہوتا جا رہا ہے لیکن تربوز اُس کی جگہ لے رہا ہے۔ جیسے جیسے لو چلے گی تربوز بیٹھا ہوتا جائے گا۔<sup>۱۹</sup>

## Unit XV: Notes

1. /mausam-e-garmaa/ = /garmii-kaa mausam/: “the summer season.”

The above is an Izafat compound. (See 240.) Three seasons are commonly recognized in South Asia: summer, /garmii/ or /garmiyaaN/; winter, /jaaRaa/ or /sardiyaaN/; and the rains, /barsaat/, a unmarked feminine noun. (The others are all marked nouns.)

garmii-meeN	during the summer
garmiyooN-meeN	-ditto-
jaaRee-meeN	during winter
sardiyooN-meeN/	-ditto
barsaat-meeN	during the rainy season .

There are no commonly used words in Urdu for “spring” and “autumn;” the two, mostly literary, words used by some people are the feminine nouns, /bahaar/ and /xizaaN/, respectively.

2. /cauk/ and qaisar-baaG/ are two neighborhoods or /muhallaa/ in the city of Lucknow; they also contain two wholesale markets for vegetables. Likewise, /fateh-ganj/ and /rakaab-ganj/, mentioned later, are also two neighborhoods; they are also major retail markets for vegetables and fruit.

/manDii/ means “a wholesale market,” as opposed to /baazaar/, a retail place.

3. /ThaTh/: M : “crowd.” A more common word is: /bhiiR/, a feminine noun. /ThaTh/ is a count noun, while /bhiiR/ is a mass noun, a collectivity. Note the use of /lagnaa/; it will also be used with /bhiiR/. The two words may also be used with /hoonaa/.

aaj baazaar-meeN ThaTh lagee thee	There were crowds in the market today.
aaj baazaar-meeN bhiiR lagii thii	The market was crowded today.
is saRak-par hameesaa bhiiR hootii hai	This road is always crowded.
maidaan-meeN bhiiR lagii hai	There is a large crowd in the open area.
maidaan-meeN ThaTh lagee haiN	There are several small crowds in the open area.

4. /rooz subah/: “every morning.” Lit. “daily, in the morning.” Note how the larger or more general unit comes first, followed by the narrower or more specific unit. Usually the words for the various times of the day—/subah/, “morning,” /doo-pahar/, “noon; afternoon;” /saam/, “evening; dusk;” and /raat/, “night”—are used adverbially by putting the postposition /-koo/ after them, but the postposition may be dropped when the same words are preceded by another adverb of time such as /kal/, /aaj/ or /rooz/. That is particularly the case with /subah/ and /saam/. (See 199.)

5. /-kee alaawaa/: “besides; in addition to; except for.” Compare the following sentences:

un-kee alaawaa wahaaN kaun hai?	Who else is there in addition to him? Who else is there except for him?
un-kee alaawaa wahaaN aur kaun hai?	Who else is there in addition to him?

un-kee alaawaa wahaan kooii      None is there except for him.  
nahiiN

Students should learn it together with /-kee siwaa/, which unambiguously means, "except."

un-kee siwaa wahaan kooii nahiiN      None is there except for him.

Both /alaawaa/ and /siwaa/ can also be placed before the modified noun, with /-kee/ coming after the latter. This reversal is particularly common when /alaawaa/ is used as a synonym of /siwaa/. In other words: /alaawaa X-kee/ = /siwaa X-kee/, "except for X." (Also see 2:22.)

6. /joo saal bhar miltii haiN/: "...which are available the year round."

/bhar/ is used with the words for various kinds of measurements and also with other words (nouns) which in the particular context may imply some sort of a measure. It means, "to the full extent (of the preceding word)." Such phrases may be adverbial as well as adjectival.

paanii din bhar barastaa rahaa      It rained all day long.

seer bhar duudh caahiye      I need a 'seer' of milk.

A new adjectival phrase can also be made by further adding /-kaa/.

zaruurat bhar-kaa kapRaa      as much cloth as one needs

kaam bhar-kii mazduurii      wages for the full work

7. /bhaao/ : M : "rate; wholesale price; price." It should be learned together with /qiimat/, "price," a feminine noun, and /daam/, "price," a masculine noun, usually used in the plural. (See 7:2.)

aaj-kal seeb-kaa kyaa bhaao hai?      What's the price of apples these days?

maiN-nee seeboon-kii qiimat de-  
dii      I've paid for the apples.

maiN-nee seeb-kee daam dec-diyee      -ditto-

8. /...kuch xus nazar nahiiN aatee/: "...they don't appear very happy."

/nazar-aanaa/ means: "to appear; to seem; to be seen." The extended construction would be as follows: /X-koo X1 X2 nazar-aanaa/: "for X1 to appear as X2 in X's sight." Thus /yee kitaab mujhee acchii nazar-aatii hai/, "This book seems good to me."

woo aaj kuch biimaar nazar aatee      He seems a bit ill today.  
haiN

yee imaat duur-see nazar aatii hai      This building can be seen from some  
distance.

Cf. /us-koo kuch nazar nahiiN aataa/, "He can't see anything."

9. /guzastaa saal-kii nisbat/: "relative to last year; compared with last year."

/-kii nisbat/ basically means, "related to; in relation to," but it is more commonly used in the sense of a comparison. Another postposition for the latter purpose is: /-kee muqaabilee-meeN/. Thus: /guzastaa saal-kee muqaabilee-meeN/. A related adverb is /nisbatan/, "relatively."

10. /sauq-see/: "avidly; with much pleasure."

This phrase is the most common polite answer (in assent) to requests seeking permission to do something.

Q. /kyaa maiN yee kitaab deekh-saktaa huuN?/, “May I look at this book?”

A. /sauq-see/, “Gladly.”

11. /fii seer/: “per 'seer'.”

/fii/, “per; each.” Thus: /fii kitaab/, ‘per book;’ /fii sadii/, “percent;” /das fii sadii/, “ten percent.”

12. /...us-koo haath nahiiN lagaa-saktee thee/: “...couldn't even touch it.”

/haath lagaanaa/ : NM: “to lay a hand on; to touch.” It should be understood together with another verb, /chuunaa/ : N : “to touch; to touch with X /-see/.” Because of the word, /haath/, “hand,” the first verb, depending on the context, may imply the subject's laying a claim to something. The second verb, however, means only the physical touching of something.

13. /maang/ : F : “demand.” From /maangnaa/: N : “to ask for; to ask X /-see/ for X1.”

ahmad-see kitaab maangiye                      Please ask Ahmad for the book.

us-nee ham-see ijaazat maangii              He asked for our permission.

Incidentally, the most common Urdu word for “supply” is: /saplaaii/.

14. /goost-xoor/, “meat-eater; non-vegetarian.”

The Persian suffix /-xoor/ occurs in a few other common words: /sabzi-xoor/, “vegetarian;” /aadam-xoor/, “cannibal; man-eater;” /riswat-xoor/, “bribe-taker.”

15. Earlier, in Muslim homes, meals were taken sitting on the floor or on a /taxt/. In both cases, food was laid out on a piece of cloth (or a piece of oilcloth covered with a sheet), and people sat around it to eat. That special cloth was called: /dastar-xwaan/, a masculine noun. It is not the same as a tablecloth, which is /meezpoos/ in Urdu, also a masculine noun.

16. /liicii-kaa zoor hai/: “... lichis are in abundance.”

/zoor/, a masculine noun, means: “strength; force.” Here it is being used idiomatically. Thus: /aaj-kal barsaat-kaa zoor hai/, “It is really pouring these days.” Or, “The rains are in full force these days.” /ab 'rap music'-kaa utnaa zoor nahiiN/, “Rap music is not that big a thing now.”

Also, /zoor-see/, an adverb, and /zoor deekar/, a conjunctive participle and also an adverb.

zaraa zoor-see booliye                      Please speak a bit loudly.

us-nee zoor deekar kahaa                      He said with emphasis.

darwaazaa zoor-see mat band-  
karoo    Don't slam the door.

us-nee zoor deekar darwaazaa band      He applied some force and closed the door.  
kar-diyaa

17. /luu/, or /luuN/, is the strong and hot wind which blows across the northern plains of India during the months of April, May and June. /calnaa/ is used with /luu/ and other kindred words, such as /aaNdhii/, “dust storm,” and /hawaa/, “wind.”

18. /un-meeN kooii lazzat nahiiN/: “They don't have any flavor.”

/lazzat/ means “delicious-ness.” The related word is: /laziiz/, “delicious.” The neutral word for “flavor” or “taste” is /mazaa/, a masculine noun, though it too in many contexts have the same meaning as /lazzat/, for it also means, “pleasure.” The related

adjectives from /mazaa/ are: /mazeedaar/, “tasty;” /bad-mazaa/, “bad tasting; /xus-mazaa/, “nice tasting.” (See 11:14 for a list of different flavors.)

mujhee is phal-kaa mazaa maalum I don't know how this fruit tastes.  
nahiiN/

is khaanee-meeN kooii mazaa This food is tasteless.  
nahiiN

aaj-kal woo mazee-meeN rahtaa hai He lives comfortably these days.

kabaab bahot mazeedaar haiN The kabobs are very tasty.

eek mazeedaar baat suniyee/ Listen to something funny.

19. /jaisee jaisee luu caleegii tarbuuz miiThaa hootaa jaaeegaa/: “As the 'loo' would gradually increase so would the watermelon get sweeter.”

The normative rule is that relative marker comes in the first clause and the second clause is introduced with a demonstrative. Thus: /joo . . . woo . . ./; /jaisaa . . . waisaa . . ./; /jitnii . . . utnii . . ./; /jaisee . . . waisee . . ./ . But the demonstrative marker is often dropped, as is the case in the above sentence.

/jaisee/ is a relative adverb, “the manner in which.” (See 202.) Its repetition, following the general rule, ‘intensifies’ its meaning, in this case translated as “gradually increase.” The literal meaning of the sentence would be, “The manner in which the 'loo' would blow, in exactly the same manner the watermelon would continue to get sweeter.” Study the use of corresponding relative and demonstrative markers in the following sentences.

woo joo kitaab caahtaa hai [woo] Please give him the book he wants.  
us-koo diijiyee/

woo jaisii kitaab caahtaa hai Please give him the kind of book he wants.  
[waisii] us-koo diijiyee

woo jitnii kitaabeeN caahtaa hai Please give him as many books as he  
[utnii] us-koo diijiyee wants.

Essentially, each sentence is made from two short sentences, /woo kitaab ~ kitaabeeN caahtaa hai/ and /us-koo kitaab ~ kitaabeeN diijiyee/, which have been joined into one by (1) adding relevant relative and demonstrative markers (of identity, quality, or quantity) and (2) eliding any word that was felt to be unnecessary in the context. (See 69, 71.)

## Exercises

### A. Situational variants.

گرمیاں آنے کے ساتھ ہی لکھنؤ کی منڈیوں میں طرح طرح کی ترکاریاں کثرت سے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تھوک کی دونوں منڈیوں میں چونکہ سبزی سے بھرے ہوئے ٹرک آتے رہتے ہیں اس لئے سینکڑوں مزدور ان پر کام کر کے اپنی روزی کما لیتے ہیں۔ ہر صبح تازہ سبزیوں کے ڈھیر لگا دیے جاتے ہیں اور خریدنے والے اپنی پسند کی ترکاریاں خرید لیا کرتے ہیں۔ اس سال ترکاریاں گذشتہ سال کی طرح مہنگی نہیں ہیں۔ گرمیوں میں لوگ تری، کدو، لوکی اور ٹنڈا شوق سے کھاتے ہیں۔ پرول کی قیمت چند دن پہلے تک ایک روپیہ فی سیر تھی اور اوسط آمدنی کے لوگ اس کو خرید نہیں سکتے تھے۔ گرمیوں میں سبزیوں کی اتنی مانگ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سخت گرمی کی وجہ سے وہ لوگ بھی جو ہمیشہ گوشت کھاتے تھے اب ترکاری اور سالن کھانا پسند کرنے لگے ہیں۔ دسترخوان پر آجکل پودینہ اور کچے آم کی چٹنی ہونا بھی ضروری ہے۔ پھلوں میں آجکل پلچی کا زور ہے۔ اب تو طرح طرح کے آم بھی آنے لگے ہیں، لیکن ابھی ان آموں میں کچھ مزہ نہیں۔ خربوزہ تو اب منڈی میں دکھائی نہیں دیتا۔

- |          |          |                |
|----------|----------|----------------|
| 1. مہنگا | mahaNgaa | expensive      |
| 2. مزہ   | M mazaa  | flavour, taste |

### B. Translate into English.

گرمیوں کی آمد کے ساتھ ساتھ لو اور آندھیوں کا موسم بھی شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر سے ریل کی سیٹی اور پہیوں کی آواز آنے لگی ہے۔ عید کے میلے میں بیچنے اور خریدنے والوں کے ٹھٹھ لگے رہتے ہیں جس کی وجہ سے چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ لڑکا ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا ہے۔ تیوہاروں

کے وقت چونکہ دکانیں خوب سجائی جاتی ہیں اس لئے بکری بھی خوب ہوتی ہے۔ ہم کو آج دیر ہوگئی کیونکہ راستے میں بھیڑ تھی۔ آپ کے بڑے بھائی کچھ کمزور دکھائی دیتے ہیں۔ کریلامزے میں کڑوا ہوتا ہے پھر بھی کچھ لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔ تشکیل کے علاوہ وہاں اور لوگ بھی موجود تھے لیکن اُس کے سوا کسی نے احمد کی مدد نہیں کی۔ کراچی پہنچنے کے کئی دن بعد تک وہ اپنے گھر سے نہیں نکلے۔ اُستاد نے لڑکوں سے کہا۔ ”یہ کتابیں اُن کے علاوہ ہیں جو میں نے چند دن پہلے تم کو دی تھیں۔“ شہر بھر میں اُس سے اچھی مٹھائی کی کوئی دکان نہیں ہے اس لئے ہم وہیں جائیں گے۔ چند لڑکوں کو چھوڑ کر باقی لڑکے کھیل کے میدان سے چلے گئے تھے۔ جو کتاب پہلے نہیں مل رہی تھی اب دکانوں میں ملنے لگی ہے۔ بچے نے ماں کا کہنا نہ مان کر پانی میں کھیل کر کپڑے خراب کر لیے ہیں اس لئے ماں کچھ خوش نظر نہیں آتی۔ یہ بچہ کچھ دن پہلے تک چلتے چلتے گر جاتا تھا مگر اب اچھی طرح چلنے لگا ہے۔ گرمیوں میں کئی قسم کے آم بازار میں آتے ہیں اور یہ بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ کپڑے کی قیمت بڑھنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو کپڑا دوسرے ملکوں سے آتا تھا اب اُس کا آنا بند ہو گیا ہے۔ عام طور سے بکرے کا گوشت کھانے والے گائے کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے۔ عید کے روز میٹھی سویاں کھانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ لڑکے آج کے لیے ہوئے پیڑ پر سے نیچے اترا لیکن مالک کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اُس لڑکے کے ساتھ اُس کا بھائی بھی اب اسکول آنے لگا ہے۔ آج معلوم ہوتا ہے گرمی زیادہ ہوگی۔ ہندوستان میں تین موسم ہوتے ہیں، جاڑا، گرمی اور برسات۔ کل سے سردی زیادہ ہو رہی ہے۔ اس دکان میں کرتے اچھے مل رہے ہیں اور سستے بھی ہیں۔ رات بھر کام کرنے کے بعد وہ ابھی ابھی اپنے گھر آرام کرنے گیا ہے۔ آپ کے آنے سے ایک دن پہلے تک وہ یہیں تھا۔ شہر کے بازار والے حصے میں بہت سے بینک ہیں اور وہیں ایک بینک میں میں کام کرتا ہوں۔ اب تو آم اور پلجی کے علاوہ تربوز بھی بازار میں آنے لگا ہے۔ جب وہ اسکول سے واپس آنے لگی تو راستے میں ایک جگہ لوگوں کا مجمع دیکھا۔ یہ مزدور دن بھر منڈی میں کام کرتے ہیں اور اکثر وہیں رات میں سو جاتے ہیں۔ میرے والدین سبزی خور ہیں لیکن مجھے گوشت کھانے سے نہیں روکتے۔ ہندوستانی کھانا اپنے مسالوں کے لئے مشہور ہے۔ سب مسالوں کا الگ الگ مزا ہوتا ہے، کچھ تیکھے ہوتے ہیں کچھ خوشبودار۔ اب

سیب اتنے مہنگے نہیں جتنے گذشتہ ہفتے تھے۔ پہلے تو صرف اونچی آمدنی والے لوگ یہ پھل خرید سکتے تھے۔ اس دکان پر قیمتیں کم ہیں اس لئے بکری زیادہ ہوتی ہے۔

### C. Fill in the blanks.

موسم گرما کی آمد کے ..... ساتھ لکھنؤ کی منڈیوں میں ..... قسم کی ترکاریاں کثرت ..... آنے ..... ہیں۔ تھوک کی دونوں ..... اور فتح گنج اور رکاب گنج کی سبزی کی ..... کے درمیان چونکہ سبزی سے ..... ہوئے ٹرک آتے ..... رہتے ہیں اس لئے بہت سے ..... ترکاری لاد اور اتار کر ..... کما لیتے ہیں۔ روز صبح تازگی ..... کے ڈھیر سجادیے ..... ہیں اور ..... اپنی پسند کی چیز ..... لیتے ہیں۔ چند ترکاریوں ..... باقی چیزیں اوسط ..... سے مل رہی ہیں اور سبزی فروش روز کی بکری ..... کچھ خوش ..... نہیں ..... اس سال ترکاریاں ..... سال کی ..... سستی ہیں۔ پرول کا بھاؤ کچھ دن پہلے ..... ایک ..... فی سیر تھا اور متوسط آمدنی کے لوگ اس کو ..... نہیں ..... تھے۔ دسترخوان پر پودینہ اور ..... آم کی چٹنی بھی ضروری ..... ہے۔ گرمیوں میں کھانا کھٹاس اور ..... ہی کے ..... حلق سے نیچے اترتا ہے۔ منڈی کے پھلوں والے ..... میں لپچی ..... ہے اور آم بھی ..... ہے۔

### D. Translate into Urdu.

- I. The father said to his son, "It is necessary to study along with play."
- II. All day long there are crowds of buyers at the fair.
- III. I like spices, that is why I like Pakistani food.
- IV. Who else but Najma can cook such delicious food.
- V. He eats only once in the whole day.
- VI. Leaving a few, the rest of the books in this shop are very good.
- VII. Compared with this city that city is very big.
- VIII. No fruit is more flavourful than a nicely ripe mango.
- IX. One of the reasons for my coming here was to see your new house.
- X. Many people like to eat good food but often they can't.
- XI. She doesn't seem happy with her new job.
- XII. In the meat section of this store, fresh and good meat is always available.
- XIII. I like these apples more because they taste slightly sour.
- XIV. We see that kings are disappearing from many countries of the world.
- XV. You'll get the kind of



clothes you like only in that store. XVI. In America, all stores are decorated at Christmas. XVII. It seems this winter may not be very cold. XVIII. Summers are nice in this city, but winters are hard. XIX. Do you have any other fresh vegetables besides these? XX. I don't know why the market is so crowded today.

**E. Answer the following in Urdu.**

- ۱- گرمیاں آنے کے ساتھ ساتھ کون کون سی ترکاریاں منڈی میں آنے لگی ہیں؟
- ۲- مزدور کس طرح روزی کماتے ہیں؟ ۳- تمہارے شہر میں دکانیں کب سجائی جاتی ہیں؟
- ۴- ترکاری کس بھاؤ سے مل رہی ہے اور کیا اُس سے بیچنے والے خوش ہیں؟ ۵- اس سال تمہارے شہر میں گذشتہ سال کی نسبت ترکاری کی قیمت کیا ہے؟ چند ترکاریوں کی قیمت بتاؤ۔
- ۶- وہ ترکاریاں جو اتنی سستی ہیں کہ غریب بھی خرید سکتے ہیں اُن کے نام بتائیے۔ ۷- گرمیوں میں ترکاری کی مانگ بڑھنے کا سبب کیا ہے؟ ۸- دسترخوان پر کیا کیا چیزیں ضروری سمجھی جاتی ہیں؟
- ۹- کیا آپ کے شہر میں آم ملتے ہیں؟ کئی قسم کے ملتے ہیں یا صرف ایک قسم کے؟ ۱۰- کیا تمہارے شہر میں خربوزہ اور تربوز ہوتا ہے یا کہیں باہر سے آتا ہے؟

## Unit XVI

# بی اماں

بی اماں علی بھائیوں کی ماں تھیں۔ انھوں نے اپنے ملک اور مذہب کی خدمت سب عورتوں سے بڑھ کر کی۔ اُن کے مرنے پر گاندھی جی<sup>۲</sup> نے اپنے اخبار میں لکھا تھا:

”میں کس دل سے کہوں کہ بی اماں دنیا سے اٹھ گئیں۔<sup>۳</sup> وہ بوڑھی تھیں مگر کام کرنے میں جوانوں سے کم نہ تھیں۔ وہ پچی مسلمان تھیں۔<sup>۴</sup> سمجھتی تھیں اسلام کا بھلا اسی میں ہے کہ ہندو مسلمان آزاد ہو جائیں۔ یہ بھی جانتی تھیں کہ ہندوستان تب ہی آزاد ہو سکتا ہے جب ہندو مسلمانوں میں ایک ہو جائے اور کھدر گھر پھیل جائے۔ اسی لئے وہ ہندو مسلمانوں کو ایک کی نصیحت کیا کرتی تھیں اور ہمیشہ کھدر پہنتی تھیں۔ مولانا محمد علی کہتے ہیں اُن کا حکم تھا کہ مرنے پر انھیں کھدر کا کفن<sup>۵</sup> دیا جائے۔ اُن کی بیماری کے دنوں میں جب کبھی میں اُن کے گھر جاتا تو ہر بار پوچھتیں کہ سوراج کا اور ہندو مسلمانوں کے ایکے کا کیا حال ہے۔ وہ خدا سے دعا کرتی تھیں کہ لے خدا ہندو مسلمانوں کو ایسی سمجھ دے کہ وہ ایکے کی ضرورت کو سمجھ لیں، اور مجھے اتنے دن جینے دے کہ سوراج دیکھ لوں۔ اُن کی سب سے اچھی یادگار یہی ہو گی کہ ملک کا جو کام وہ کرتی تھیں وہ ہم بھی کریں۔ جب تک سوراج نہ ملے اور ہم میں ایک نہ ہو ہندو دھرم اور اسلام دونوں کے لئے بُرائی ہے۔ کیا اچھا ہو کہ بی اماں کی طرح سب ہندو مسلمان اس سیدھی سی بات کو سمجھ لیں۔

”جس رات بی اماں دُنیا سے سدھاریں اُس کا تھوڑا سا حال لکھتا ہوں۔ میں نے سرجنی دیوی<sup>۶</sup> سے سنا کہ بی اماں کی حالت خراب ہے۔ ہم دونوں فوراً اُن کے گھر پہنچے۔ وہاں اُن کے سب عزیز موجود تھے اور ڈاکٹر انصاری<sup>۷</sup> بھی آگئے تھے۔ کسی کے رونے کی آواز نہیں آرہی تھی۔ مگر مولانا محمد علی کے گالوں پر آنسو بہ رہے تھے۔ مولانا شوکت علی بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھے۔<sup>۸</sup> مگر اُن کا چہرہ اترا ہوا تھا۔<sup>۹</sup> سب کی زبان پر اللہ کا نام تھا۔ ایک صاحب دعا پڑھ رہے تھے۔<sup>۱۰</sup> پاس ہی ”کامریڈ“ اخبار کا چھاپہ خانہ تھا۔ وہاں کا کام دم بھر نہیں رُکا اور مولانا محمد علی جو کچھ اخبار کے لئے کرتے تھے وہ انہوں نے اُس دن بھی نہیں چھوڑا۔ ملک کا کوئی ضروری کام ٹلنے نہیں پایا۔<sup>۱۱</sup> مجھے راجس کالج جانا تھا۔ مولانا شوکت علی نے کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نہ جائیں۔ خود<sup>۱۲</sup> انہوں نے اُس دن مظفر نگر کے لوگوں سے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ اچھے سپاہی کی طرح انہوں نے یہ وعدہ پورا کیا۔ بی اماں کے مرنے کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ مظفر نگر چلے گئے۔“

## Unit XVI: Notes

1. The Ali Brothers, /alii biraadaraan/, were two of the most prominent leaders of the Muslims of India in this century. Shaukat Ali (1873-1938) was the elder of the two, Mohammed Ali (1878-1931) the younger. Working within the Indian National Congress, they rose to prominence and popularity because of their unqualified patriotism. They were the chief movers behind the Khilafat Movement which swept the country during 1920-22. At the time "Comrade," a weekly edited and published by Muhammad Ali played a big role in bringing the issues to public attention. Their mother, whom they and the country called /bii ammaan/, also took part in the Nationalist struggle despite her advanced age. She passed away in November 1924.

/bii/ is a feminine term of address; /ammaaN/, "mother," is mostly used as a term of address, while /maan/, "mother," is mostly used as a term of reference. The polite term of reference for "mother" is: /waalidaa/.

2. Gandhiji knew Hindi fairly well and had also learned to write in Urdu script. He, however, used to describe his language as Hindustani, a mixture of Hindi and Urdu. It is not clear whether the passage quoted here is a translation from his English or an original piece in Hindustani.

3. /maiN kis dil-see kahuN ki bii ammaan duniyaa-see uTh-gaiiN/: "I don't have the heart to say that Bi Amman has left this world."

/kis dil-see.../, lit. "with which heart..." It adds a further nuance of heartfelt sorrow to the simple exclamation, /maiN kaisee kahuN/, "How can I say..."

The simplest verb for "to die" is /marnaa/. It, however, is considered too clinical to use with reference to a person one knows or respects, instead several idiomatic constructions are commonly used in such contexts. Likewise, the clinical word for "death" is /maut/, a feminine noun—the infinitive /marnaa/ is also used that way—but with reference to human beings one more commonly uses two other words: /wafaat/, a feminine noun, and /intiqaal/, a masculine noun.

kal ahmad saahab-kaa intiqaal hoo- Mr. Ahmad died yesterday.  
gayaa

un-kii wafaat-kee baad After her death. . . .

Cf. /meerii maut-kee baad.../, "After my death...;" /ciRyaa mar-gaii/, "The bird died." In the latter two cases, no need is felt to the indirect, idiomatic expressions. (See 259.)

4. /woo pakkii musalmaan thiiN/: "She was a devout Muslim."

/pakkaa/, "ripe; cooked," is also used idiomatically to mean: "firm; solid."

5. /kafan/: M : "shroud." The English "coffin" is /taabuut/ in Urdu—a masculine noun. Other related words are: /dafnaana/ or /dafn-karnaa/ : N : "to bury;" /janaazaa/: M : "funeral procession; bier."

6. Sarojini Naidu (1878-1949) was prominent in the Nationalist movement. A fine poet in English, she was often referred to as the "Nightingale of India."

7. Dr. Mukhtar Ahmad Ansari (1880-1936) was a noted physician of Delhi. Deeply involved in the Nationalist movement, he rose to prominence at the time of the Khilafat Movement. He also led a medical mission to Turkey during the Balkan War.

8. /....apnee aap-koo saNbhalee huee thee/: "...was holding himself together."

/aap/ is a pronominal form. Besides “you” it has another meaning which is difficult to isolate, the closest would be: “-self.” In that function it may be interchangeable with /xud/.

tum aap-koo kyaa samajhtee hoo      Who do you think you are?

maiN aap un-see milnee gayaa thaa      I had myself gone to see him.

In the sentence in the text, /apnee aap/ may be replaced with /apnee/, /aap/, or /xud/ without any loss of meaning. (See 8:12.)

There is also an adverbial phrase: /apnee aap/, “by oneself.” (See 7:12.)

9. /un-kaa cahraa utraa-huaa thaa/: “He looked disconsolate.”

10. With reference to prayers and worship, the student would do well to learn the following four words together.

1. /du'aa/ : F : A common word for “prayer.” It does not refer to the formal Muslim prayers. It is also used as a greeting. (See 1:17.) It is used with: /karnaa/; /paRhnaa/ and /deenaa/.

meerec-lee du'aa kiijiyee      Please pray for me.

woo d'uaa paRh-rahii hai      She is reciting a prayer.

maaN-nee bacoon-koo du'aa dii      The mother blessed the children.

2. /namaaz/ : F : “the formal prayers performed by Muslims.” It is used with /paRhnaa/.

kyaa tum-nee namaaz paRh-lee?      Have you said your prayers?

woo namaaz paRhnee masjid gayaa      He went to the mosque for the prayers.

3. /ibaadat/ : F : “worship.” It may be used with reference to any religion.

ham sab eek xudaa-kii ibaadat      All of us worship one God.  
kartee haiN

yee xudaa-kii ibaadat kii jagah hai      It's a place to worship God.

4. /puujaa/ : F : “worship; veneration.” It is used in the context of idol worship, particularly with reference to the Hindu and Buddhist practices.

mandir-meeN puujaa hoo-rahii hai      Puja is going on in the temple.

woo bhagwaan buddh-kii puujaa      He worships Lord Buddha.  
kartee haiN

11. /kooii zaruurii kaam Talnee nahiiN paayaa/: “No important work was allowed to be postponed.” (See 173.)

12. /xud unhooN-nee.../: “He himself...” (See 8:12.)

## Exercises

### A. Situational variants.

بی اماں نے اپنے ملک اور مذہب کی خدمت تمام عورتوں سے زیادہ کی۔ اُن کے انتقال پر گاندھی جی نے لکھا تھا کہ وہ بوڑھی ہونے پر بھی کام کرنے میں جوانوں کے برابر تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ہندوستان کو آزادی اُس وقت ہی مل سکتی ہے جب ہندو مسلمان ایک ہو جائیں اور کھدّر ہر گھر میں عام ہو جائے۔ اُن کی بیماری کے زمانے میں جب گاندھی جی اُن کے یہاں جاتے تو وہ اُن سے پوچھتی تھیں کہ سوراج اور ہندو مسلمانوں کے ایکے کی کیا خبر ہے۔ وہ خدا سے دعا کیا کرتی تھیں کہ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو اتنی سمجھ دے دے کہ وہ ایکے کو ضروری مان لیں، اور خود انھیں تب تک زندہ رہنے دے جب تک سوراج نہ دیکھ لیں۔ گاندھی جی نے سروجنی دیوی سے سنا تھا کہ بی اماں کی حالت ٹھیک نہیں۔ اُن کی بیماری میں بھی کوئی کام رکنے نہیں پایا اور مولانا محمد علی جو بھی اخبار کے لئے کیا کرتے تھے وہ انھوں نے اُس روز بھی کیا۔ ملک کا کوئی کام دم بھر کے لئے بھی نہیں ٹلا۔ بی اماں کے حکم کے مطابق اُن کو کھدّر کا ہی کفن دیا گیا۔

- |           |   |          |                          |
|-----------|---|----------|--------------------------|
| 1. انتقال | M | intiqaal | death                    |
| 2. برابر  |   | baraabar | equal, equal to X /-kee/ |
| 3. خبر    | F | xabar    | news                     |

### B. Translate into English.

اُس نوکر نے اپنے مالک کی خدمت سب ملازموں سے بڑھ کر کی۔ وہ شخص کسی کی نصیحت نہیں مانتا۔ میں کس دل سے کہوں کہ میں وہاں نہیں چل سکتا۔ وہ بوڑھا تھا مگر کام کرنے میں جوانوں سے بڑھ کر تھا۔ جب اُس کے والد کا انتقال ہوا تو وہ گھر پر موجود نہیں تھا۔ جب تک میں

نہ آؤں آپ یہیں بیٹھیے۔ ہم سب خدا کو ایک مانتے ہیں لیکن ہمارے عبادت کے طریقے مختلف ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ عورتوں کا بھلا اسی میں ہے کہ گھر میں بیٹھی رہیں۔ میں بھی جانتا تھا کہ وہ تب ہی آسکے گا جب اُس کے پاس پیسے ہوں گے۔ اشوک سوچتا تھا کہ لوگ تب ہی نیک ہو سکتے ہیں جب بُدھ مذہب ملک بھر میں پھیل جائے۔ لڑکا ہمیشہ کھیلتا ہی رہتا تھا اسی لئے لوگ اسے پڑھنے کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ اس بات میں ہم سب کے لئے برائی ہے۔ بچہ بیمار تھا اسی لئے وہ کھانا نہیں کھاتا تھا اور ہمیشہ روتا ہی رہتا تھا۔ ڈاکٹر نے اُن کو دو دن تک گھر سے نکلنے نہیں دیا۔ جب کبھی شام کو وہ میرے کمرے میں آتا تو میرا وقت خراب کرتا۔ وہ جب کبھی رستے میں ملتی تو پوچھتی کہ آپ کے والد کا کیا حال ہے۔ وہ خدا سے دعا کرتا رہتا تھا کہ اسے اچھی نوکری مل جائے۔ میرے والد کہا کرتے تھے، ”خدا تم کو اتنی سمجھ دے کہ تم میری بات سمجھ لو۔“ تم نے کس سے سنا کہ اُن کی حالت خراب ہے۔ اگر وہ تم کو آنے دیں تو کل ضرور آؤ۔ اس کمرے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آرہی تھی۔ میں آپ کی ضرورت سمجھتا ہوں لیکن کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ خود ہی بولتا رہا اور کسی اور کو بولنے نہیں دیا۔ مسجد میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ دعا پڑھ رہے تھے۔ جب تک میں نماز پڑھتا ہوں تم لوگ یہیں بیٹھو۔ منڈی کے بیچ سے موٹروں کو نہیں گزرنے دیا جاتا۔ جب تک آپ ڈاکٹر سے نہیں ملیں گے آپ کو آرام نہیں ملے گا۔ جب تک تڑکاریاں کثرت سے آتی ہیں سبزی فروش اُن کے بھاؤ نہیں بڑھا سکتے۔ ہم اُن لوگوں سے ملنا نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے دوست نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے گھر نہ آئیں۔ جب تک کوئی اوسط کرایہ کا مکان نہیں ملتا تب تک آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ چونکہ اُن کو اس کام میں زیادہ منافع نظر نہیں آتا اس لئے یہ کام ہر مہینے ٹل جاتا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ کے چلے جانے کے بعد ہمارا کیا حال ہوا۔ گذشتہ سال کی نسبت اس سال ہمارے مکان کی حالت کچھ خراب ہی ہے۔ وہ اپنے وعدے کا پکا ہے۔ انھوں نے مدد کرنے کا وعدہ تو کیا ہے لیکن پتہ نہیں پورا بھی کریں گے یا نہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دن اور نہ جائیں۔ وعدہ کرنا جتنا آسان ہے پورا کرنا اتنا ہی مشکل ہے۔

**C. Fill in the blanks.**

..... علی بھائیوں کی ..... تھیں۔ اُن کے ..... پر گاندھی جی نے اپنے ..... میں ..... تھا۔  
میں کس دل سے ..... کہ بی اماں دنیا سے ..... گئیں۔ وہ ..... مسلمان تھیں۔ یہ بھی ..... تھیں کہ  
ہندوستان تب ..... آزاد ..... ہے جب ہندو ..... میں ایک ہو جائے اور کھڈر گھر گھر ..... جائے۔  
مولانا محمد علی ..... ہیں اُن کا ..... تھا کہ مرنے ..... اُنھیں کھڈر کا ..... دیا جائے۔ جس رات بی اماں  
دنیا سے ..... اُس کا ..... ساحال لکھتا ..... وہاں اُن کے سب ..... موجود ..... اور ..... انصاری .....  
آگئے تھے۔ مولانا شوکت علی ..... مشکل ..... اپنے ..... کو سنبھالے ہوئے تھے۔

**D. Translate into Urdu.**

I. Who else was there besides Shakil? II. She had run faster than the other girls. III. I know my welfare lies in going to another country. IV. He wanted that education should spread to every corner of the country. V. Don't promise what you can't do. VI. Today his condition seems worse. VII. The doctor said that only bread and tea be given to the sick child. VIII. We read in the newspaper that Gandhiji had passed away. IX. Please read the newspaper while I am praying. X. She told me a little about the work she does. XI. I did not hear him cry but I saw tears on his cheeks. XII. Since Independence he only wears khaddar. XIII. My brother looked after the store after our father's death. XIV. I don't need any permission except yours. XV. He had promised to finish the work by this evening. XVI. Please don't go until I come back. XVII. I don't understand your need to go tomorrow. XVIII. From a distance she appears just like your sister. XIX. Where were your parents living when you were born? XX. We reached home with great difficulty because the road was very crowded.

**E. Answer the following in Urdu.**

۱- بی اماں کون تھیں؟ ۲- بی اماں کی بیماری کی خبر سُن کر گاندھی جی نے کیا کہا؟ ۳- بی اماں  
کیا نصیحت کیا کرتی تھیں؟ ۴- بی اماں کس طرح کے کپڑے پہنتی تھیں، اور کفن کے بارے میں



اُن کا کیا حکم تھا؟ ۵- گاندھی جی سے بی اماں کیا پوچھتیں؟ ۶- وہ خدا سے کیا دعا کرتی تھیں؟  
کیا اُن کی دعا پوری ہوئی؟ ۷- گاندھی جی بی اماں کے گھر پہنچے تو وہاں کیا حال دیکھا؟ ۸- کیا مولانا  
محمد علی نے بی اماں کی بیماری کی وجہ سے ”کامریڈ“ اخبار کا کام روک دیا؟ ۹- مولانا شوکت علی  
نے کیا وعدہ کیا تھا؟ ۱۰- آپ کے ملک میں کون عورت بی اماں کی طرح ملک کی خدمت کے  
لئے مشہور ہے؟

## Review Sentences

۱- گرمی کے موسم میں لوگ کثرت سے پہاڑوں پر جاتے ہیں۔ ۲- ہندوستان کے کچھ علاقوں میں تڑکاریاں کثرت سے پیدا کی جاتی ہیں۔ ۳- ٹرک چلانے والے منڈی میں پھل لاتے رہتے ہیں۔ ۴- آج کل بکثرت لوگ دریا کی سیر کرنے جایا کرتے ہیں۔ ۵- میرے گھر اور بڑی منڈی کے درمیان کوئی تڑکاری کی دکان نہیں پڑتی۔ ۶- سکندر اور دارا کے درمیان کئی بار لڑائی ہوئی۔ ۷- میرا بھائی کھانا کھانے کے درمیان کئی بار پانی پیتا ہے۔ ۸- یہ مزدور دن بھر کام کرتے رہتے ہیں پھر بھی انھیں پوری روزی نہیں ملتی۔ ۹- چونکہ تڑکاریاں تازی ہوتی تھیں اس لئے لوگ جلدی سے خرید لیتے تھے۔ ۱۰- اس سائیکل کو چھوڑ کر باقی ساری سائیکلیں سستی ہیں۔ ۱۱- چند پھلوں کے سوا باقی سارے پھلوں کا بھاؤ اُونچا ہے۔ ۱۲- پھلوں کے علاوہ میں نے باقی سب چیزیں کھانی چھوڑ دی ہیں۔ ۱۳- میں نے اس منڈی کو چھوڑ کر باقی ہر منڈی میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ ۱۴- اس دکان پر آج کوئی تڑکاری تازی نظر نہیں آتی۔ ۱۵- ہم چاروں کے علاوہ اور کوئی دوست یہاں نظر نہیں آتا۔ ۱۶- کل کی نسبت آج گوشت سستا نظر آتا ہے۔ ۱۷- علاج کرانے کے بعد آپ کی بہن کمزور نہیں نظر آتی ہیں۔ ۱۸- بچے میٹھی چیزیں ہمیشہ شوق سے کھاتے ہیں۔ ۱۹- وہ بڑے شوق سے یہاں آئے تھے لیکن جب واپس گئے تو کچھ خوش نہ تھے۔ ۲۰- آپ کے علاوہ اور کون ایسا کام کر سکتا ہے۔ ۲۱- جب سے آم ملنے لگے ہیں دوسرے پھل بھی سستے ہونے لگے ہیں۔ ۲۲- آج مجھے اپنی پسند کے کپڑے مل گئے۔ ۲۳- جب سے گوشت کی مانگ بڑھی ہے تب سے اُس کا بھاؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ ۲۴- بی اماں ملک کے بھلے کے لئے کام کیا کرتی تھیں۔ ۲۵- گاندھی جی ہندو مسلم ایکے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ۲۶- لوگ بی اماں کا کہنا خوشی سے مانا کرتے تھے۔ ۲۷- کیا اچھا ہو اگر بی اماں کی نصیحت کے مطابق کام کیا جائے۔ ۲۸- گاندھی جی کہا کرتے تھے کہ ہندوستان کی بھلائی کے لئے خوب کوشش کی جائے۔ ۲۹- جب کبھی میں منڈی گیا تو اچھے اچھے آم خرید کر لایا۔ ۳۰- جب کبھی میں اپنے بھائی کے گھر

گیا اُن کو غائب دیکھا۔ ۳۱- ان تینوں کی حالت تو ہم دونوں سے زیادہ خراب ہے۔ ۳۲- کل چاروں بکروں کی قربانی کی جائے گی۔ ۳۳- ہم اگر یہ بات پہلے معلوم کر لیتے تو کام جلدی ہو جاتا۔ ۳۴- میرا بھائی جتنی جلد پڑھ لے اتنی جلد روزی کمانے لگے گا۔ ۳۵- میں جب تک کالج پہنچوں سب لڑکے واپس جا چکے تھے۔ ۳۶- میں جیسے ہی گھر کے پاس پہنچا اُس کے رونے کی آواز آئی۔ ۳۷- لڑکے کو بڑی مشکل سے پانی میں سے نکالا گیا۔ ۳۸- عام آدمی آسانی سے یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ۳۹- مکان کی چھت اپنے آپ گر گئی۔ ۴۰- ریل اپنے آپ چلتے چلتے رک گئی پھر بڑی مشکل سے چلی۔ ۴۱- جو کام دن بھر میں پورا کیا جاسکتا ہے اُس کے لئے رات بھی کیوں صرف کی جائے۔ ۴۲- ان آموں میں خوشبو بھی ہے اور لذت بھی کیونکہ یہ پیڑ پر پچے ہیں۔ ۴۳- تم نے جو کچھ ہم سے کہا تھا وہ ہم نے وعدہ کے مطابق پورا کر دیا ہے۔ ۴۴- سکندر نے خود ہی پہلے لڑائی شروع کی۔ ۴۵- خود میں نے اُن سے اخبار کا کام پورا کرنے کو کہا تھا۔ ۴۶- آج میرے بھائی خود اپنے دوست کا حال معلوم کرنے گئے ہیں۔ ۴۷- تم کو تیرا تب ہی آئے گا جب تم اُس میں محنت کرو گے۔ ۴۸- تم کو پالک پکانا تب تک نہ آئے گا جب تک تم اپنی والدہ سے نہ پوچھو گے۔ ۴۹- اگر کھانا خراب تیار کیا گیا ہو تو حلق سے نیچے آسانی سے نہیں اترتا ہے۔ ۵۰- اخبار میں کام کرنے والوں نے یہ مانگ کی ہے کہ اُن کے آنے جانے کے لئے ایک موٹر خریدی جائے۔

## Unit XVII

# ایک خط

۵ اگست ۱۹۶۵ء

عزیزی جاوید، دعائیں!

تمہارا خط ملا۔ یہ معلوم کر کے کہ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو بہت خوشی ہوئی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ تم نے چونکہ اس بار امتحان کے لئے اچھی تیاری کی تھی اس لئے تم کو کامیابی بھی حاصل ہوئی۔<sup>۳</sup> تم طالب علم ہو اس لئے تم کو تو معلوم ہے ہی کہ علم کا حاصل کرنا<sup>۴</sup> صرف محنت کرنے پر منحصر ہے۔

تم نے شکاگو یونیورسٹی اور یہاں کے طریقہ تعلیم کے بارے میں پوچھا ہے تو اس کا پورا حال لکھتا ہوں۔ شکاگو یونیورسٹی امریکہ کی چند مشہور یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے۔ یہ یونیورسٹی ۱۸۹۲ء میں قائم کی گئی۔ اس یونیورسٹی کا کیمپس بہت پھیلا ہوا ہے اور کافی بڑا ہے۔ یونیورسٹی کے بالکل بیچ میں ایک خوبصورت گول سالان ہے جس میں موسم کے لحاظ سے<sup>۵</sup> پھول لگے ہوتے ہیں۔ اس لان کے چاروں طرف موٹروں کے آنے جانے کے لئے بڑی صاف اور اچھی سڑک بنی ہوئی ہے۔ اس کے چاروں طرف یونیورسٹی کے مختلف شعبوں<sup>۶</sup> کی اونچی اونچی عمارتیں ہیں۔ ہر شعبہ کی الگ لائبریری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی لائبریری ہے جس کا نام ہارپر لائبریری ہے۔ کل کتابوں کی تعداد تقریباً تیس لاکھ ہے۔ یونیورسٹی کا اپنا بک اسٹور بھی ہے جہاں سے طالب علم کتابوں

کے علاوہ اپنی ضرورتوں کی چیزیں بھی خرید سکتے ہیں۔ اسی طرح کھیلنے کے لئے بڑے بڑے میدان ہیں جہاں ہر قسم کے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ طالب علموں کی ایک اپنی یونین بھی ہے جو طلباء کے کھیل اور تفریح کا انتظام کرتی ہے۔

امریکہ کی یونیورسٹیوں کا طریقہ تعلیم ہمارے یہاں سے بالکل مختلف ہے۔ شکاگو یونیورسٹی میں سال میں چار کوارٹر ہوتے ہیں۔ ہر کوارٹر تقریباً گیارہ ہفتے کا ہوتا ہے۔ ہر کوارٹر میں ایک طالب علم کو تین مضامین لینے ہوتے ہیں اور کوارٹر کے آخری ہفتے میں ان تینوں مضامین میں امتحان لیا جاتا ہے۔ یہاں پر پاس اور فیل کرنے کے نمبروں کی جگہ اے۔ بی۔ سی اور ایف لکھا جاتا ہے۔ اے۔ بی۔ سی۔ کا مطلب بالترتیب اول۔ دوم۔ سوم۔ ہے اور ایف کا مطلب فیل ہے۔ ہر طالب علم کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ اپنے مضامین میں اے یا بی حاصل کرے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص پی۔ ایچ۔ ڈی۔ کرنا چاہتا ہے تو اُس کے لئے انگریزی کے علاوہ دو غیر ملکی زبانوں کا جاننا ضروری ہے۔ مختصر یہ کہ<sup>۸</sup> یہاں تعلیم میں طالب علم کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور ہر وقت کسی نہ کسی مضمون کی تیاری میں لگا رہنا پڑتا ہے۔<sup>۹</sup> کوئی بھی گھنٹہ کسی وقت خالی نہیں رہتا۔<sup>۱۰</sup>

ہمارے چچا جان<sup>۱۱</sup> کیسے ہیں؟ امید ہے کہ اُن کی طبیعت اب بالکل ٹھیک ہوگی۔ چچی سے آداب کہنا اور میری طرف سے اُن کا مزاج پوچھنا۔<sup>۱۲</sup> ماموں جان آجکل کہاں ہیں؟ اس بار تم جب خط لکھنا تو سب کا حال ضرور لکھنا۔ سنا ہے<sup>۱۳</sup> کہ احمد صاحب کا بھتیجا یہاں آنے والا ہے۔ اگر اس بارے میں تم کو کچھ معلوم ہو تو ضرور لکھنا۔<sup>۱۴</sup>

تمہارا بھائی

سلمان

مکرر<sup>۱۵</sup> : یہ خط لکھے ہوئے تیس برس سے زیادہ ہو گئے۔<sup>۱۶</sup> اس درمیان میں دنیا بدل گئی۔<sup>۱۷</sup> شکاگو یونیورسٹی میں بھی بہت تبدیلیاں ہوئیں۔ مثلاً اب ہر شعبہ کی الگ لائبریری نہیں۔ اب ایک بہت بڑی مرکزی لائبریری ہے جس کا نام ریگنڈائن لائبریری ہے۔ طلباء اس کو ”ریگ“ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ خاص سائنس کے مضامین کے تعلق سے ایک لائبریری ہے۔ اب یہاں ایک الگ شعبہ میں جنوبی ایشیا کی زبانیں اور ان کے ادب پڑھائے جاتے ہیں۔<sup>۱۸</sup> ان میں سنسکرت، ہندی، تامل، بنگالی اور اُردو شامل ہیں۔<sup>۱۹</sup> تاریخ، فلم اور دوسرے موضوعات کے متعلق<sup>۲۰</sup> بھی کورس پڑھائے جاتے ہیں۔

## Unit XVII: Notes

1. Salutations in letters usually consist of two parts. The first part mentions the name of the addressee, with some modifier preceding or following it. If the addressee is a relative, the name is replaced by some word indicating the relationship. Different modifiers are used with different persons depending, among other things, on the degree of intimacy, the social difference, and the subjective relationship between the addresser and the addressee. (These modifiers may also be used by themselves in a nominal (vocative) function.)

*/aziizii/*, “my dear,” is used with reference to those who are younger in age or relationship.

*/muhibbii/*, “my friend,” or */biradaram/*, “my brother,” are more common among equals. Also, many people like to put */saahab/* (M) or */saahibaa/* (F) after the names of equals, unless the relationship is quite intimate or informal.

*/muhataram/* or */muhataramii/*, “[my] respected...,” is one common modifier used with reference to those senior in age or status.

The second part of the salutation contains the greetings: */du'aa/* or */du'aaeeN/*, “blessings,” for the younger, and */aadaab/*, “respects,” and */tasliim/*, “devotions,” for the equals and elders. One common greeting used by Muslims is */as-salaam-o-alaikum/*, “peace be on you;” it may be used with everyone. (The teacher should write out these words on the board.)

2. Note the use of */yee/* as a proximate marker for the subsequent coordinate clause beginning with */ki/*.

3. */haasil-hoonaa/* : K : “to get or receive.” */haasil-karnaa/* : N : “to obtain.”

The latter, a direct construction, implies a volition and effort on the part of its subject; the former, an indirect construction, implies an absence of both on the part of the ‘real’ subject of the verb.

*yee kitaab kahaan-see haasil-huii?* Where did you find this book?

*yee kitaab kahaan-see haasil-kii?* Where did you get this book from?

4. */ilm-kaa haasil-karnaa/*: “the obtainment of knowledge.”

By using */kaa/* after */ilm/* the infinitive, */haasil-karnaa/*, has been made into more of a definite object—all infinitives are masculine nouns anyway.

5. */mausam-kee lihaaz-see/*: “in accord with the season.”

*/lihaaz/*, a masculine noun, means: “respect; regard.” The adverbial phrase has a range of meanings.

*maiN najmaa-kee lihaaz-see cup-  
rahaa* I remained silent out of respect for Najma.

*qaanuun-kee lihaaz-see yee Thiik  
nahiiN* It's not right from the legal aspect.

*yee kaam har lihaaz-see Thiik hai* This work is good in every aspect.

*buzurgooN-kaa lihaaz karoo* Show respect to your elders [and desist].

Note the last example; it shows how */lihaaz/* differs from */izzat/*, “honour; respect.”

*buzurgooN-kii izzat karoo* Honour your elders.

6. /su'baa/ means “department,” as in a university or a factory. But for the departments of an administrative or governing nature Urdu uses another word: /mohkamaa/, also a masculine noun. It is related to /hukm/, “order, command.”

7. In Urdu, “to give an examination” is /imtihaan leenaa/, while /imtihaan deenaa/ and /imtihaan-meeN baiThnaa/ express: “to take an examination.”

woo aaj kaun-saa imtihaan dee-      What exam is he taking today?  
rahaa hai

tum imtihaan-meeN kyooN nahiiN      Why didn't you take the exam?  
baiThee?

maiN-nee ahmad-kaa imtihaan      I gave Ahmad an exam.  
liyaa

Cf. /maiN-nee ahmad-kii doostii-kaa imtihaan liyaa/, “I tested Ahmad's friendship.” In that sense—i.e. “to test something”—some people also use /[X]-kaa imtihaan kamaa/.

8. /muxtasar yee ki.../: “In short,…”

/muxtasar/ means, “brief; short.”

9. /tayyaarii-meeN lagaa-rahnaa paRtaa hai/: “[The student] has to remain busily engaged in preparations.”

/lagnaa/ : “to get busy with X /-meeN/.” Mostly it is used with /lagnaa/ in its completive form, /lag-jaanaa/, though sometimes also with a slight difference in meaning. (See 225.)

woo kaam karnee-meeN lagii thii      She was busy working.

woo kaam karnee-meeN lag-gaii      She had started busily working.  
thii

woo ghar aa-kar paRhnee-meeN      When he comes home he gets busy with  
lag-jaataa hai      his studies.

/tayyaar-kamaa/, “to make X ready.” /tayyaarii kamaa/, “to do the preparations for X /-kii/.”

ahmad-nee khaanaa tayyaar-kiyaa      Ahmad prepared the food.

ahmad-nee khaanee-kii tayyaarii kii      Ahmad prepared for the meal. Or, Ahmad  
did the preparations for the meal.

10. /xaalii/, “empty,” is also used idiomatically to mean: “free, not busy.”

kooii ghanTaa xalii nahiiN      No hour is free [to do something else.]

maiN abhii xalii huuN      I'm not busy right now.

aap-kee yahaaN kooii xalii      Do you have a room free?  
kamraa hai?

11. /caciaa-jaan/: “uncle.” /jaan/, lit. “life,” is added to relational words to add a nuance of endearment and respect.

The following are some of the most common words for relatives.

Paternal grandparents are /daadaa/ (M) and /daadii/ (F); maternal grandparents are /naanaa/ (M) and /naanii/ (F).

/caciaa/ is used to refer to father's brothers and male cousins; their wives are called /cacii/. Often another word is used to refer to father's older brother, /baabaa/ or /baRee abbaa/; his wife would be called, /baRii ammaaN/.



/maamuuN/ is used to refer to mother's brothers and male cousins; their wives are called /mumaanii/.

/phuphii/ refers to father's sisters and female cousins; their husbands are called /phuphaa/.

/xaalaa/ refers to mother's sisters and female cousins; their husbands are called /xaaluu/.

All the above terms are used for reference and address alike, though in the latter use they will most likely have /-jaan/ added to them.

Brother's children are /bhatijaa/ (M) and /bhatijii/ (F); Sister's children are /bhaaNjaa/ (M) and /bhaaNjii/ (F). These are terms for reference only.

There is no Urdu word for “cousin” as such. Cousins are viewed as brothers and sisters, and referred to in the same manner as actual siblings. To make the exact relationship clear, one may use a descriptive compound made with the suffix, /-zaad/, lit. “born of,” but in descriptions only. Examples: /cacia-zaad bahen/, “father's brother's daughter.” /phuphii-zaad bhaai/, “father's sister's son.”

12. /meerii taraf-see un-kaa mizaaj puuchnaa/: “...and ask about her health on my behalf.”

/mizaaj/: M : “disposition, nature.” Though it often seems to mean “health,” /mizaaj/ is used more innocuously than /tabii'at/, “health; nature,” a feminine noun. For example, it is used in common greetings, such as /kahiye, mizaaj kaisaa hai?/, which is the Urdu equivalent to the English, “How're you?” (Two things should be noted here: (i) the Urdu greetings will usually be used after a salutation—/aadaab-arz/, etc.; and (ii) some people would use /mizaaj/ in the plural in that context—/kahiye, mizaaj kaisee haiN/.

/tabii'at/ is an incorrect but now generally accepted pronunciation of /tab'iiyat/. People write it both ways, but pronounce it one way.

13. /sunaa hai/, “[I've] heard.” By dropping /maiN-nee/, the phrase has become more general in meaning, comparable to the English, “It's been heard...”

14. /faat/, “enough; only,” is used in Urdu at the end of the main text of a letter, usually written on the same line. The closing modifier which refers to the writer of the letter, and the latter's name or signature comes afterward. It is not obligatory to use /faat/; the letter may be closed without it. As for the closing 'epithet', /tumhaaraa/ or /aap-kaa/ are common among friends and relatives. With unrelated people it would be sufficient to write /muxlis/, “sincere,” before the signature.

15. /mukarrar/, “repeated,” is used to indicate a postscript. Another equally common word for that purpose is /pas-nawist/, which literally means “post-script.”

16. /yee xat likhee huee tiis baras-see zyaadaa hoo-gaee/: “It has been more than thirty years since this letter was written.”

The sentence is structured around the core, /baras hoo-gaee/, “years have occurred,” in other words, a time-word and the verbal paradigm, as opposed to the auxiliary forms, of /hoonaa/. This core may be further expanded in two ways. (1) The human subject involved would be introduced with the postposition /-koo/ after it; and (2) an adverbial phrase may be added, consisting of either the imperfect or the perfect participle of the verb describing the action filling the time and the perfect participle of /hoonaa/, both in the adverbial oblique form.

mujh-koo paRhtee huee eek  
ghanTaa hoo-gayaa

It has been an hour since I have been  
reading.

tum-koo wahaaN gae huee eek      It will be one year since you had gone  
saal hoo-jaaeegaa                      there.

17. /is darmiyaan-meeN duniyaa badal-gaii/: "Meanwhile the world has changed."

/badalnaa/: n : "to change (Tr. and Intr.); to exchange." Usually it is used in its 'completive' forms: /badal-jaanaa/, "to change (Intr.); to be exchanged" /badal-leenaa/ and /badal-deenaa/, "to change (Tr.); to exchange."

ab too sab loog biikul badal-gae      Now everyone has completely changed.  
meeree kapRee un-see badal-gae      My clothes got exchanged with his.  
zaraa yee juutee badal-diijiyee      Please exchange this shoes [for another pair].

Note that the end consequence of /badalnaa/ is perceived in Urdu as resulting in separating something from the subject—i.e. a 'movement' away from the subject—hence, the completive form with /deenaa/ will be used in most instances.

us-nee apnaa naam badal diyaa      She changed her name.  
tum-nee too ghar-kaa naqsaa badal-      Why, you've completely changed the  
diyaa                                      house.  
kapRee badal-luuN tab caluuNga      I'll come with you after I've changed  
    clothes.

Compare the above with the following in which /leenaa/ is used for 'completive' purposes..

tum apnaa makaan badal-doo      You should change your house.  
tum un-see makaan badal-loo      You should exchange your house with his.

18. /junuubii eesiyaa-kii zubaaneeN aur un-kee adab paRhaae-jaatee haiN/, "The languages and literatures of South Asia are taught."

/paRhaae-jaatee haiN/, "...are taught," is a passive construction. (See 184.) Note how the verb agrees with its immediately preceding subject, /adab/. (See 195.)

The names of the four directions are: /maṣriq/, "east," /maGrib/, "west," /ṣumaal/, "north," and /junuub/, "south." Another set, also commonly used, is: /puurab/, "east," /pacchim/, "west," /uttar/, "north," and /dakkhin/, "south." They are all masculine nouns, and relevant adjectives are made from them by adding the suffix /-ii/. The word for "direction" is /samt/ or /simt/, a feminine noun.

baazaar-kee junuub-meeN              to the south of the market  
ab maṣriq jaag-uThaa hai              Now the East is awake.  
ghar-kii ṣumaalii diiwaar              the northern wall of the house  
ghar-kii uttarii diiwaar                 -ditto-

19. /saamil/ and /sariik/ should be learned together. The former implies inclusion resulting in a new identity which is meaningful in the immediate context, while the latter implies that no such new identity was created. Both are used with /hoonaa/ and /karnaa/, and in many contexts one would be more correct than the other. Thus: /saamil-hoonaa/, "to join X /-meeN/," /saamil-karnaa/, "to add to X /-meeN/," /sariik-hoonaa/, "to participate in X /-meeN/," /sariik-karnaa/, "to make X /-koo/ a participant in X1 /-meeN/."

maiN muslim liig-meeN saamil-      I joined the Muslim League.  
hoo-gayaa

ham us paarTii-meeN sariik  
hooNgee

We'll go to that party.

paarTii-meeN jaanee-waalooN-  
meeN ham bhii saamil-haiN

We too are among those who're going to  
the party.

is kaam-meeN sab-koo sariik  
nahiiN kiyaa jaa-saktaa

Not all can be made a participant in this  
work.

apnii xuuraak-meeN phal zyaadaa  
saamil-karoo

Add more fruit to your diet.

20. /mutaalliq/, "related; related to X /-kee/." It should be learned together with /baaree-meeN/, "about X /-kee/." In many contexts the two would be quite interchangeable. But a distinction would be made in others. /mutaalliq/ would imply a more intimate sense of relationship or relevancy, whereas /baaree-meeN/ would be less so.

## Exercises

### A. Situational variants.

یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ تم امتحان میں کامیاب رہے۔ تمہاری کامیابی پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ چونکہ تم طالب علم ہو اس لئے تمہیں یہ خبر ہے ہی کہ علم صرف محنت سے ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ تم نے شکاگو یونیورسٹی کے طریقہ تعلیم کے متعلق پوچھا تھا، تو میں اُس کے بارے میں پوری طرح لکھ رہا ہوں۔ یہ یونیورسٹی ۱۸۹۲ء میں قائم ہوئی تھی۔ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم کا طریقہ ہماری یونیورسٹیوں سے بالکل ہی مختلف ہے۔ ہر کوارٹر قریب قریب گیارہ ہفتوں کا ہوتا ہے۔ ہر کوارٹر میں ایک طالب علم کو کم سے کم تین مضامین لینا ضروری ہے۔ طلباء کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ امتحان میں اچھی طرح کامیاب ہوں۔ امتحان میں کبھی سوال پوچھے جاتے ہیں اور کبھی کسی موضوع پر مضمون لکھ کر لانا ہوتا ہے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی۔ کرنے والوں کو اپنے موضوع کے لحاظ سے کئی زبانیں سیکھنی پڑتی ہیں۔ مختصر یہ کہ یہاں پڑھائی میں طالب علم کو محنت سے کام کرنا پڑتا ہے اور ہر وقت کوئی نہ کوئی مضمون تیار کرنا ہوتا ہے۔ دم بھر بھی آدمی خالی نہیں بیٹھ سکتا۔ پچھلے دنوں چچی جان کی طبیعت کچھ خراب تھی، امید ہے کہ اب اُن کا مزاج بالکل ٹھیک ہوگا۔ معلوم ہوا ہے کہ احمد صاحب کا بھتیجا یہاں آ رہا ہے، اگر اُس کے متعلق تمہیں کچھ معلوم ہو تو اگلے خط میں ضرور لکھنا۔

- |             |             |                           |
|-------------|-------------|---------------------------|
| 1. کم سے کم | kam-see-kam | at least                  |
| 2. پچھلا    | pichlaa     | the previous              |
| 3. ٹھیک     | Thiik       | all right; correct, exact |
| 4. اگلا     | aglaa       | the next                  |

## B. Translate into English.

میں نے خود دیکھا کہ میز پر تمہارا خط رکھا ہوا تھا۔ مجھے یہ معلوم کر کے بہت رنج ہوا کہ چند روز پہلے آپ کے والد کی طبیعت پھر خراب ہو گئی۔ یہ جان کر والدہ کو خوشی ہوئی کہ تم جلد آنے والی ہو۔ جیسا کہ آپ کہتے ہیں اس لحاظ سے تو یہ کالج خراب نہیں۔ احمد سے ملے ہوئے ایک سال سے زیادہ ہو گیا۔ جو بھی آپ کی مدد کرے اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ وہ سائنس پڑھاتے ہیں لیکن ان کو تاریخ سے بھی دلچسپی ہے۔ امتحان میں پاس ہونا محنت پر منحصر ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھے اچھا مکان مل گیا۔ وہ پہلے سے ہی سفر کے لئے تیاری کر چکی تھی اس لئے چلنے کے لئے فوراً تیار ہو گئی۔ میں نے سڑک پر آنے والے شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ تمہارا مکان یہاں سے کافی دور ہے۔ جب والد نے میرے بارے میں پوچھا تو بیچا صاحب نے سارا حال بتا دیا۔ مجھے ان کے کام کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں۔ لکھنؤ ہندوستان کے چند مشہور شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ کالج قائم ہوئے تقریباً سو سال ہوئے ہیں۔ یہ اس شہر کا مرکزی حصہ ہے اور خاص طور سے صاف ہے۔ یہ کافی بڑا اسکول ہے کیونکہ اس میں ہزار سے زیادہ لڑکے اور لڑکیاں پڑھتے ہیں۔ موسم کے لحاظ سے یہ شہر بُرا نہیں ہے، نہ گرمی زیادہ ہے نہ سردی۔ موسم کے لحاظ سے منڈیوں میں پھل اور ترکاریاں آتی رہتی ہیں۔ ان لڑکوں کو اسلام کے تعلق سے کسی موضوع پر مضمون لکھنا ہے۔ لڑکوں کو اس میدان میں موٹر یا سائیکل چلانے کی اجازت نہیں ہے، صرف سڑک پر ہی چلا سکتے ہیں۔ وہ ابھی صرف ضرورت کی چیزیں ساتھ لے گئے ہیں، باقی سامان ابھی یہیں ہے۔ پچھلے امتحان میں تم کو کیا ملا؟ آپ کے والد صاحب کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اس وقت مجھے کام ہے، جب خالی ہوں گا تو آؤں گا۔ پچھلے خط میں آپ نے جو کام لکھا تھا وہ میں نہیں کر پایا کیونکہ فرصت نہیں ملی۔ یہ کام آپ کو کسی نہ کسی طرح کرنا ہی پڑے گا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم سب نے پیسے الگ الگ ادا کیے۔ ان چھوٹی چھوٹی بینکوں کے علاوہ شہر میں ایک بڑی بینک بھی ہے جہاں میں پیسے جمع کراتا ہوں۔ امریکہ میں موٹروں کی تقریباً کیا تعداد ہوگی؟ اگلی شام جب ہم ان سے ملنے گئے تو وہ اسپتال جا چکی تھیں۔ یہ بچہ بالکل اپنی ماں کی طرح ہی باتیں کرتا ہے۔ امید

ہے کہ اب آپ کی طبیعت بہتر ہوگی اور آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا ہوگا۔ ہر طالب علم کو کسی نہ کسی کھیل میں حصہ لینا چاہیے۔ اس بار بالکل مختلف طور سے امتحان لیا جانے والا ہے جس کی وجہ سے طالب علموں کو محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ سنا ہے کہ علی صاحب کے یہاں کھانے کا بہت اچھا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ تو امتحان کی تیاری کرنے میں لگے ہیں۔ آپ کے کھانے پینے کا وہاں کیسا انتظام تھا؟

### C. Fill in the blanks.

تم نے چونکہ اس بار امتحان ..... اچھی ..... کی تھی اس لئے تم کو کامیابی بھی ..... ہوئی۔ تم طالب علم ..... اس لئے تم کو تو ..... ہے ہی کہ علم کا حاصل ..... صرف ..... کرنے پر ..... ہے۔ تم نے شکاگو یونیورسٹی اور یہاں ..... طریقہ تعلیم کے ..... میں پوچھا ہے ..... میں اس کا پورا حال ..... ہوں۔ ..... یونیورسٹی ۱۸۹۲ء میں قائم ..... گئی۔ یونیورسٹی کے ..... بیچ میں ایک خوبصورت گول ..... لان ہے جس میں موسم کے ..... سے پھول لگے ہوتے ہیں۔ اس ..... چاروں ..... یونیورسٹی کے شعبوں کی اونچی ..... عمارتیں ہیں۔ یونیورسٹی کا ..... بک اسٹور ..... ہے ..... سے طالب علم کتابوں کے ..... اپنی ضرورت کی ..... بھی خرید سکتے ہیں۔ امریکہ کی یونیورسٹیوں کا طریقہ تعلیم ہمارے ..... سے بالکل ..... ہے۔ امید ہے ..... ان کی ..... اب بالکل ٹھیک ہوگی۔ ماموں جان ..... ہیں؟ اس ..... تم جب خط ..... تو سب کا ..... ضرور لکھنا۔

### D. Translate into Urdu.

I. I was very glad to learn that you are now all right. II. When you write please thank him on my behalf too. III. When my friends came I had to arrange for their stay. IV. On this topic, his essay is the best. V. What countries are included in East Asia? VI. There are twelve months in a year, and about four weeks in a month. VII. Is it necessary to come first in everything? VIII. Besides working during the day he also studies in the evening. IX. It is necessary to find out the exact address there.

X. Whenever I went to her, she was engaged in some work or another.  
 XI. She and her sister teach in different departments. XII. My success in this work depends on your help. XIII. We are forced to go to the doctor every day. XIV. Last month he got married, and now his sister will marry next month. XV. If you are free in the evening come with me to the market. XVI. This city has completely changed in the last two or three years. XVII. She came second in every subject except History. XVIII. Come next week, and I will give you what you need. XIX. She was busy preparing for the trip that's why she couldn't come. XX. Please do try to come next week.

**E. Answer the following in Urdu.**

- ۱- جاوید سلمان کا کیسا بھائی ہے؟ ۲- ماں کے بھائی کو اُردو میں کیا کہتے ہیں؟ ۳- شکاگو
- یونیورسٹی کیسی یونیورسٹی ہے اور کب قائم ہوئی؟ ۴- آپ کو کس مضمون سے زیادہ دلچسپی ہے؟
- ۵- تم کس شعبے میں پڑھتے ہو اور کس لائبریری سے کتابیں لیتے ہو؟ ۶- امریکہ کی یونیورسٹیوں
- میں طریقہ تعلیم کس بات میں مختلف ہے؟ ۷- شکاگو میں سال میں کتنے کوراٹر ہوتے ہیں؟
- ۸- طالب علموں کو کون کون سی زبانیں جاننا ضروری ہے؟ ۹- کیا تمہارے کوئی بیچا ہیں؟ وہ کہاں
- رہتے ہیں؟ ۱۰- کیا تمہارے کوئی بھتیجا یا بھتیجی ہیں؟ اگر ہیں تو کتنے ہیں؟

## سر سید احمد خاں

۱۸۱۷ء میں دہلی کے ایک شریف<sup>۱</sup> خاندان میں سید احمد خاں کی پیدائش ہوئی۔ اُن کے والد میر تقی فقیرانہ<sup>۲</sup> مزاج کے آدمی تھے۔ سید احمد خاں کا بچپن<sup>۳</sup> اُن کی والدہ کی نگرانی میں اُن کے نانا کے گھر میں گذرا۔ ابتدائی تعلیم اپنی والدہ اور نانا سے حاصل کی، پھر خود ہی مطالعہ کرتے رہے۔ لیکن ابھی تعلیم پوری نہ ہو پائی تھی کہ والد کا انتقال ہو گیا اور اُن کو ملازمت تلاش کرنی پڑی۔ ۱۸۳۷ء میں کمپنی کی ملازمت میں داخل ہوئے اور رفتہ رفتہ<sup>۴</sup> ترقی کر کے منصفی<sup>۵</sup> کے عہدے تک پہنچے۔ اس ملازمت کے زمانے میں وہ کافی دن دہلی میں رہے اور دہلی کی پُرانی عمارتوں اور یادگار جگہوں کے متعلق ایک کتاب لکھی جو ۱۸۴۷ء میں شائع ہوئی۔ اس کا نام ”آثار الصنادید“ ہے اور اُس کا ترجمہ<sup>۶</sup> انگریزی میں ہو چکا ہے۔

۱۸۵۷ء میں غدر کے زمانے میں سر سید بجنور نام کے چھوٹے سے ضلع میں تھے۔ اُنھوں نے اس بغاوت میں کسی طرح کا حصہ نہ لیا بلکہ بہت سے انگریزوں کی جان بچائی۔ غدر کے بعد اُنھوں نے اپنی مشہور کتاب ”اسبابِ بغاوتِ ہند“ لکھی، جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بغاوت کے اصل<sup>۷</sup> اسباب انگریزوں کے مظالم تھے۔ اس کتاب کا بھی انگریزی میں ترجمہ ہوا۔



غدر کے بعد شمالی ہند کے مسلمانوں کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ سرکار کی نظر<sup>۹</sup> میں مجرم تھے اور اعتبار کے قابل نہ سمجھے جاتے تھے۔ اُن میں تعلیم کی بھی کمی تھی، خاص طور پر جدید تعلیم کی، جس سے اُن کے لئے ملازمت پانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ سید احمد خاں نے اپنی قوم کی حالت سدھارنے کے لئے ہر طرح کوشش کی۔ کتابیں لکھیں، رسالے نکالے، مدرسے قائم کیے، انگریزی کی کتابوں کا ترجمہ خود کیا اور دوسروں سے کروایا۔ ۱۸۶۹ء میں اُنھوں نے ولایت<sup>۱۱</sup> کا سفر کیا اور وہاں ایک سال تک رہے۔ واپسی پر اُنھوں نے اپنا مشہور رسالہ ”تہذیب الاخلاق“ جاری کیا<sup>۱۲</sup>، جس میں مسلمانوں کی اخلاقی، سماجی، تعلیمی، معاشی اور نظریاتی کمزوریوں پر مضامین لکھے اور لکھوائے اور اُن برائیوں کو دور کرنے کی تجویزیں پیش کیں۔

ولایت کے کالجوں کو دیکھ کر سید احمد خاں کے دل میں ایک ویسا ہی کالج ہندوستان میں قائم کرنے کا خیال<sup>۱۳</sup> پیدا ہوا تھا۔ اس خیال کو پورا کرنے کی بھی وہ کوشش کرتے رہے۔ آخر ۱۸۷۷ء میں علی گڑھ میں اُن کا یہ خواب پورا ہوا<sup>۱۴</sup> اور ”مڈن اینگلو اورینٹل کالج“ کی بنیاد پڑی۔ اس کالج میں سرسید نے ہر مضمون کے عالموں کو جمع کیا اور انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ مشرقی تہذیب اور اسلام کی تعلیم کا بھی خاص انتظام کیا۔ رفتہ رفتہ یہ کالج ہندوستان کے مسلمانوں کا خاص تعلیمی اور تہذیبی مرکز بن گیا۔ ۱۹۲۱ء میں اس کو یونیورسٹی بنا دیا گیا اور یہ آج بھی ”علی گڑھ مسلم یونیورسٹی“ کے نام سے مشہور ہے۔

سید احمد خاں نے ۱۸۹۸ء میں وفات پائی اور علی گڑھ میں دفن ہوئے۔

## Unit XVIII: Notes

1. /sar sayyad ahmad khaaN/. His name was Sayyid Ahmad; 'Khan' was a title he received from the Mughal king. Later he was also knighted by the British, hence he is commonly referred to as Sir Sayyid.
2. /sariif/, “noble; civil; genteel,” is a socially very powerful word in Urdu culture. It describes a person, particularly a Muslim, as belonging to the 'upper crust' in terms of both caste and class. By the same token, it is also used in a more general sense: “a gentle and kind person; a civilized person.” Traditionally, the Muslim society in South Asia viewed itself within a dichotomy defined in terms of racial origins: /asraaf/, the people of 'higher' or 'nobler' racial origins, and /ajlaaf/, the people of lowlier origins. In effect, to the first belonged the holders of political and cultural authority and to the latter the rest—i.e. the vast majority of artisans, people engaged in traditional professions, farmers and laborers, and other such people. The elites had an hierarchy of their own: at the top were the Sayyids, /sayyad/, who claimed descent from the Prophet himself, next the Shaikh, /saix/ or /seex/, who traced their ancestry to Arabia, then the Mughals, /muGal/, or those whose ancestors came from Central Asia or Iran, and lastly the Pathans, /paThaan/, who belonged to the tribes of the North-West Province and Afghanistan. The so-called /ajlaaf/ too viewed themselves as divided into numerous castes, /zaat/, defined in terms of hereditary professions and crafts, with their own hierarchies. Much has changed in this regard in recent years, but much still retains its hold on the minds of the Muslims of India, Pakistan and Bangladesh.
3. /faqiiraanaa mizaaj-kee aadmii/: “a man of ascetic nature.”  
/faqiir/ means “a religious mendicant or a person who has taken the vows of poverty,” and also “a common beggar.” /faqiiraanaa/ would mean: “faqir-like.” The suffix /-aanaa/ is added to the nouns which are adjective-like in that they get their gender from the specific referent in the context—e.g. /doost/ is a masculine noun but can also be used in the feminine when referring to a woman—and to those adjectives which are more commonly used as nouns—they would be ascribable to human qualities and attributes, e.g. /amiir/, “wealthy.” The resultant new adjectives are used as qualifiers with abstract and inanimate nouns. They are also very frequently used in adverbial phrases. Thus /doostanna/, “friendly,” and /amiiraanaa/, “rich-like; in the manner of a rich person.”  
ammiraanaa andaaz-kii imaat      a building built like a rich man's  
doostaanaa baat-ciit              friendly talks
4. /bacpan/, “childhood,” i.e. roughly up to the age of seven. Next comes /laRakpan/, “boyhood” or “girlhood,” i.e. roughly up to the age of fourteen. Then comes

/jawaanii/, which may well be a subjective matter. The “middle years” are referred to as /adheeR umr/, and the final years or old age are called /buRhaapaa/.

5. /raftaa raftaa/, “gradually.” It is not a case of a repeated adverb; /raftaa/ is not used singly in Urdu.

6. /munsifii/ is an abstract noun, “the act of doing justice,” made from /munsif/, a lower grade judicial rank which no longer exists. Note that one could have used /munsif/ here without any loss of meaning; it would not have been incorrect, only not idiomatic.

7. /tarjumaa/: M : “translation.” The related verbs are: /tarjumaa karnaa/, NM, “to translate X /-kaa/; /tarjumaa-karnaa/, N, “to translate;” /tarjumaa hoonaa/, Ka., “to be translated;” and /tarjumaa-hoonaa/, “to be translated.”

maiN-nee us kitaab-kaa tarjumaa I translated that book.  
kiyaa

maiN-nee woo kitaab tarjumaa-kii -ditto-  
us kitaab-kaa tarjumaa huaa/ That book was translated.  
woo kitaab tarjumaa-huii/ -ditto-

8. /asl/, “actual; real; original.” /asl/ is also a noun (feminine and masculine), “the origin; the source.” Its antonym is /naql/, “copy or imitation,” a feminine noun. The adjective /asl/ should be learned together with /aslii/, which also means “real” but as the opposite of /naqlii/, “fake” or “imitative.” Thus /asl kitaab/, “the original book;” but /aslii kitaab/, “the real book”—/naqlii kitaab/, “the fake book.” Also note /asl baat/, “the real matter or issue,” or “the original issue [from which some other thing got started];” but /aslii baat/, “the real matter or issue.”

Also note two adverbial phrases: /dar-asl/ and /asl-meeN/, “actually.”  
leekin asl-meeN un-kii doostii aslii But in fact his friendship is not for real.  
nahiiN  
dar-asl woo kisii-see milnaa nahiiN Actually, he doesn't want to meet anyone.  
caahtee

9. /nazar/, a feminine noun, means “glance” or “sight.” /X-kii nazar-meeN/, “in X's sight; in X's view.”

It is also used in a verb: /nazar-aanaa/, “to be seen; to appear or seem.” (See 8:15.)

woo imaatat duur-see nazar-aatii That building can be seen from a  
hai distance.  
tum bahot xus nazar-aatee hoo You look very happy.  
tum mujhee bahot xus nazar-aatee You look very happy to me.  
hoo  
aaj woo mujhee nazar nahiiN aace I didn't see him today.

The last two sentences are also instances of an indirect construction, reflecting the fact that no volition on the part of the of the 'real' subject, "I," is involved in the act.

10. /jadiid/ is the most common word for "modern." /nayaa/ simply means "new," as opposed to /puraanaa/, "old." The opposite of /jadiid/ would be /qadiim/, "ancient," or /riwaayatii/, "traditional."

11. Earlier /wilaayat/ was used to refer to Iran and Central Asia, but now in Urdu it refers only to England or Europe.

12. /jaarii/ means "flowing; continuous." Thus: /jaarii-karnaa/, "to start [a magazine]; to issue [and circulate an order]; to establish [a scholarship or award]" —all implying that it was not a 'one-time' act. Note, for example, the following:

unhooN-nee eek risaalaa jaarii-kiyaa      He started publishing a magazine.

unhooN-nee eek kitaab gaaya'-kii      He published a book.

Other examples:

lakhnau-see kaa risaalee jaarii huee leekin sirf cand jaarii rahee      Many magazines were started in Lucknow, but only a few lasted.

tum bhii yee risaalaa apnee naam jaarii-karaao      You too should subscribe to this magazine.

us jagah-see paanii jaarii hoo-gayaa      Water began to flow from that spot.

un-kii baat-ciit deer-tak jaarii-rahi      Their conversation went on till late.

13. /xayaal: M : "thought; idea." It should be learned together with /raaee/, "opinion," a feminine noun. Note the two adverbial phrases in the examples below.

meeree xayaal-meeN aap aaj na jaaiyee      In my view you shouldn't go today. Or, I think you shouldn't go today.

meerii raee-meeN aap aaj na jaaiyee      In my opinion you shouldn't go today.

It should be noted that the verb /soocnaa/ is not exactly like the English verb "to think." It, in fact, is closer to the English "to cogitate; to ponder over." Hence, in many contexts, the correct equivalent of "to think" would be the above adverbial phrase with /xayaal/.

aap-kee xayaal-meeN gaaRii kab aaegii?      When do you think the train would come?

aap kyaa sooc-rahee haiN?      What are you thinking about?

Another adverbial phrase is: /X-kee xayaal-see/, "out of regard for X; with X in mind."

maiN ahmad-kee xayaal-see wahaaN gayaa      I went there out of my regard for Ahmad.

ham un-see milnee-kee xayaal-see gayee thee      We had gone there with the idea of meeting him.

Two related verbs should also be noted: /xayaal karnaa/ : NM : “to take X /-kaa/ into consideration; to take notice of Y /-kaa/.” And, /xayaal rakhnaa/ : NM : “to bear X /-kaa/ in mind; to look after X /-kaa/.”

kuch apnee bhaaii-kaa xayaal karoo	Take [at least] your own brother into consideration.
us-nee meerii baat kaa kuch xayaal na kiya	She paid no attention to what I said. She took no notice of what I said.
woo apnee doostoon-kaa bahot xayaal rakhtii thii	She used to take good care of her friends.

14. /puuraa hoonaa/, “to be fulfilled; to be completed; to suffice.” The correct English equivalent would be determined by the context. /puuraa/, the adjective, means: “entire; full; complete.” Another verb is: /puuraa-karnaa/, “to fulfill; to complete.” The related adverbial phrase is: /puurii tarah/, “fully; to the full extent.” (Also see 4:13.)

yee kaam kabhii puuraa nahiiN hoo-gaa	This work would never be finished.
saayad ahmad yee kaam puuraa-kar-sakee	Ahmad might perhaps complete this work.
woo abhii puurii tarah Thiik nahiiN	She's not fully well yet.

## Exercises

### A. Situational variants.

۱۸۱۷ء میں سید احمد خاں دہلی میں ایک شریف خاندان میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں وہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے نانا کے گھر میں رہتے تھے۔ ابھی پڑھائی ختم نہ ہوئی تھی کہ اُن کے والد اس دنیا سے اٹھ گئے اور انھیں نوکری کی تلاش میں نکلنا پڑا۔ ۱۸۵۷ء میں غدر کے دنوں میں سید احمد خاں ایک چھوٹے سے ضلع میں کام کر رہے تھے جس کا نام بجنور تھا۔ غدر کے بعد انھوں نے ایک کتاب لکھ کر یہ بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح انگریزوں کے مظالم کی وجہ سے ہی یہ بغاوت ہوئی۔ غدر کے بعد شمالی ہند میں مسلمانوں کا بُرا حال تھا، سرکار انھیں مجرم خیال کرتی تھی اور اُن پر کسی طرح کا اعتبار نہ کرتی تھی۔ سید احمد خاں نے مسلمانوں کی حالت بہتر بنانے کے لئے ہر طرح کی کوشش کی۔ ولایت میں انھوں نے وہاں کے طریقہ تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کی۔ سید احمد خاں کے دل میں ایک اسی طرح کا کالج اپنے ملک میں قائم کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ یہ کالج انھوں نے ۱۸۷۷ء میں قائم کیا اور اُس میں سب مضامین کے عالموں کو دُور دُور سے بلا کر ملازمت دی۔ انگریزی تعلیم کے علاوہ اس کالج میں مشرقی اور اسلامی تہذیب کی تعلیم کا بھی خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ سید احمد خاں کی وفات ۱۸۹۸ء میں ہوئی اور وہ علی گڑھ یونیورسٹی کی مسجد کے آنگن میں دفن ہیں۔

- |                |    |                 |   |
|----------------|----|-----------------|---|
| 1. اعتبار کرنا | NM | eetibaar karnaa | to trust X /-par/                                     |
| 2. بلانا       | N  | bulaanaa        | to call, summon                                       |
| 3. خیال رکھنا  | NM | xayaal rakhnaa  | to keep X /-kaa/ in mind;<br>to take care of X /-kaa/ |

### B. Translate into English.

گجرات کے ایک شہر میں گاندھی جی کی پیدائش ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کے خیال میں احمد ابھی گھر جانے کے قابل نہیں۔ ماں کے مرجانے کے سبب سے اس لڑکی کا بچپن نانی کی نگرانی میں

گذرا۔ آج اُن کی حالت اچھی نہیں بلکہ اور بھی خراب ہے۔ علی نے ابتدائی تعلیم دہلی میں حاصل کی۔ وہ لڑکی اسکول کی تعلیم پوری کرنے کے بعد خود بھی مطالعہ کرتی رہی۔ ہم ابھی گھر سے نکل نہیں پائے تھے کہ پانی برسنے لگا۔ شہر میں ملازمت کر لینے کے بعد اُن کو بڑا مکان تلاش کرنا پڑا۔ پچھلے سال گرمیوں میں ہم ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے رہتے تھے۔ اس ملازم نے اس کام میں کسی طرح کا حصہ نہ لیا بلکہ رفتہ رفتہ دوسروں کو بھی کام سے روک دیا۔ جب ہم کھیل کے میدان میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ہمارا اسکول ہار چکا ہے۔ لڑکے نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اُس نے آم بازار سے خریدے ہیں اور باغ سے نہیں لیے۔ میں تم کو اس کام کے قابل سمجھتا ہوں۔ یہ کتاب ترجمہ کیے جانے کے قابل نہیں۔ یہ اصل کتاب نہیں بلکہ ترجمہ ہے۔ آپ اُس کو مجرم نہیں ثابت کر سکتے۔ بعد میں یہ ثابت ہوا کہ اُن کی کتاب اصل میں کسی بنگالی کتاب کا ترجمہ تھی۔ باغ والے کی نظر میں وہ لڑکا اب بھی مجرم تھا۔ گاندھی جی ساری زندگی ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ رعایا کی نظر میں بادشاہ اعتبار کے قابل نہ سمجھا جاتا تھا۔ اُس شہر میں پانی کی کمی تھی خاص طور پر پینے کے پانی کی جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت تکلیف تھی۔ وہ بہت تہذیب سے سب سے ملتے ہیں۔ بینک کی عمارت مکان سے دور ہونے کی وجہ سے آنے جانے میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ میں اُن سے پوری طرح پوچھ بھی نہ پایا تھا کہ وہ اُٹھ کر چلے گئے۔ انھوں نے بچے کی حالت سدھارنے کے لئے ہر طرح کی کوشش کی۔ اس لڑکی نے گذشتہ سال یونان کا سفر کیا اور وہاں دو مہینے تک گھومتی رہی۔ گاندھی جی نے جلسہ میں قوم کی سماجی حالت کو سدھارنے کی ایک تجویز پیش کی۔ ہم کھانا ختم نہیں کر پائے تھے کہ وہ آگئے۔ اس بغاوت میں عام اور خاص سب نے حصہ لیا۔ انگریزوں کی نظر میں جو بغاوت تھی وہ ہندوستانیوں کی نظر میں آزادی کی لڑائی تھی۔ دوسرے ملکوں کی ترقی دیکھ کر اس شخص کے دل میں اپنے ملک کو بھی ویسی ہی ترقی دینے کا خیال پیدا ہوا۔ اُن کی کتاب اُن کی زندگی میں ہی شائع ہو گئی تھی۔ اس کام کو پورا کرنے کے لئے تمام لڑکے کوشش کرتے رہے اور آخر انھیں کامیابی نصیب ہوئی۔ آخر میں اُس کا مکان بنانے کا یہ خواب پورا ہوا اور اُس نے اپنے مکان کی بنیاد رکھی۔ بی اماں سمجھتی تھیں

کہ ہندوستان تب ہی آزاد ہو سکتا ہے جب ہندوؤں اور مسلمانوں میں ایک قائم ہو جائے اور کھدّر عام ہو جائے۔ ہمارے دوست نے ہمارے رہنے کے ساتھ کھانے کا بھی خاص انتظام کیا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ کشتی نظر سے دُور ہوتی گئی اور کچھ دیر بعد بالکل غائب ہو گئی۔ جب بی اماں نے وفات پائی تو اُن کو کھدّر کا کفن دیا گیا۔ ولایت کے سفر سے واپسی پر اُنھوں نے وہاں کے کالجوں کے متعلق ایک مضمون لکھا۔ کیا مشرقی تہذیب اور مغربی تہذیب ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ جدید تعلیم کا مطلب محض انگریزی تعلیم نہیں۔ آپ کی کتاب کس نے شائع کی۔

### C. Fill in the blanks.

اُن کے والد میر تقی..... مزاج کے..... تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنی..... اور نانا سے..... کی۔  
 ۱۸۳۷ء میں کمپنی کی ملازمت میں..... ہوئے اور رفتہ رفتہ..... ترقی کر کے منصف کے..... تک.....  
 اُنھوں نے اس..... میں کسی..... کا حصہ نہ..... بلکہ بہت سے..... کی جان..... اس کتاب کا بھی..... میں..... ہوا۔ اُن میں تعلیم..... بھی کمی تھی،..... طور..... جدید تعلیم کی، جس..... اُن کے لئے ملازمت پانا بھی..... ہو گیا تھا۔ کتابیں.....، رسالے.....، مدرسے..... کئے، انگریزی کی کتابوں کا ترجمہ..... کیا اور دوسروں سے..... واپسی..... انھوں..... اپنا مشہور..... ”تہذیب الاخلاق“ جاری کیا، جس میں مسلمانوں کی.....، سماجی،..... اور نظریاتی کمزوریوں پر..... لکھے اور..... اس خیال کو..... کرنے کی بھی..... کرتے رہے۔ رفتہ رفتہ..... یہ کالج ہندوستان کے..... کا خاص تعلیمی اور..... مرکز بن گیا۔

### D. Translate into Urdu.

I. The game had already ended before we arrived. II. His father died immediately after he was born. III. During the period of his father's employment he had lived in Delhi. IV. He wrote a book about the social and educational shortcomings in his society. V. His book was first published in English, later it was translated into Urdu. VI. That boy never took part in any game. VII. She was forced to give up her job after her



marriage. VIII. The two brothers continued to work together for a long time. IX. Have you made all the arrangements for the journey? X. After sometime he started his own paper "Comrade" which soon became very famous. XI. In my view he is not capable of doing this work. XII. She has proven that she is worthy of our trust. XIII. Ashok tried every means to better the conditions of his subjects. XIV. After seeing such beautiful houses a desire was born in my heart to build one like them. XV. Alexander's dream to conquer the whole world was not realized. XVI. He lacks higher education, that's why he is having trouble finding a job. XVII. Gradually arrangements were also made to teach Asian languages. XVIII. What kind of articles are published in the journal that he brings out? XIX. The real reason for his going to Washington was to look for a job. XX. Do you think the train will come on time?

**E. Answer the following in Urdu.**

- ۱- تمہاری پیدائش کہاں ہوئی؟ ۲- تمہارا بچپن کس کی نگرانی میں اور کس کے گھر میں گذرا؟ ۳- سر سید احمد خاں نے کہاں ملازمت پائی اور آخر کس عہدے پر پہنچے؟ ۴- کیا سید احمد خاں نے بغاوت میں حصہ لیا؟ اگر نہیں تو پھر کیا کیا؟ ۵- غدر کے بعد سر سید احمد خاں نے اپنی کتاب میں کیا ثابت کرنے کی کوشش کی؟ ۶- غدر کے بعد شمالی ہند کے مسلمانوں کا کیا حال تھا؟ ۷- سید احمد خاں نے قوم کی اصلاح کے لئے کیا کام کیے؟ ۸- ولایت سے واپسی کے بعد سید احمد خاں نے ایک رسالہ کیوں جاری کیا؟ ۹- سید احمد خاں کا کالج اب کس نام سے مشہور ہے؟ ۱۰- ”آثار الصنادید“ کا موضوع کیا ہے؟

## سر سید کا ایک لطیفہ

پروفیسر بارنی کوف نے جو لینن گراڈ کی یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر ہیں، اردو نثر کا ایک انتخاب چھاپا ہے جس میں اردو کے مشہور ادیبوں کے مضامین یا اقتباسات ہیں۔ اُن کو سر سید کے کلام<sup>۲</sup> میں اپنے مطلب کی<sup>۳</sup> کوئی چیز نہ ملی اور ملا تو یہ لطیفہ<sup>۴</sup> جو انھوں نے مولانا حالی<sup>۵</sup> کی زندہ جاوید کتاب ”حیاتِ جاوید“ سے نقل کیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ ”ایک دفعہ وہ ریل میں سوار تھے۔ کسی اسٹیشن پر دو انگریز اُن کی گاڑی میں آ بیٹھے۔<sup>۶</sup> ایک اُن میں سے پادری تھا۔ اُس کو کسی طرح معلوم ہو گیا کہ سر سید احمد خاں یہی شخص ہے۔ سر سید سے کہا ”مدت سے آپ کی ملاقات کا اشتیاق“ تھا۔ میں آپ سے خدا کی باتیں<sup>۷</sup> کرنا چاہتا تھا۔“ سر سید نے کہا ”میں نہیں سمجھا آپ کس کی باتیں کرنا چاہتے ہیں۔“ اُس نے کہا ”خدا کی۔“ سر سید نے کمال سنجیدگی<sup>۸</sup> سے کہا ”میری تو کبھی اُن سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس لئے میں اُن کو نہیں جانتا۔“ پادری نے مجھ<sup>۹</sup> ہو کر کہا ”ہیں، آپ خدا کو نہیں جانتے؟“ انھوں نے کہا ”مجھی پر کیا موقوف ہے<sup>۱۰</sup>، جس سے ملاقات نہ ہو اُس کو کوئی بھی نہیں جانتا۔“ پھر کسی شخص کا نام لے کر<sup>۱۱</sup> پوچھا ”آپ اُس کو جانتے ہیں؟“ پادری نے کہا ”نہیں، میں اُس سے کبھی نہیں ملا۔“ سر سید نے کہا ”پھر جس سے میں کبھی نہ ملا ہوں، نہ میں نے کبھی اُس کو اپنے ہاں کھانے پر بلایا ہو،<sup>۱۲</sup> نہ مجھ کو اُس کے ہاں کھانے پر جانے کا اتفاق ہو، اُس کو میں کیوں کر<sup>۱۳</sup> جان سکتا ہوں۔“ پادری یہ سُن کر خاموش ہو رہا اور دوسرے انگریز سے انگریزی میں کہا کہ ”یہ تو سخت کافر ہے۔“<sup>۱۴</sup>

## Unit XIX: Notes

1. /intixaab/, which means “selection” as well as “election,” is used here to mean “an anthology.” The related adjective is /muntaxab/, “selected; chosen,” but /intixaab/ is also often used in that sense, as in the verb: /intixaab-karnaa/, N, “to select.” Another related verb is: /intixaab karnaa/, NM, “to select or elect X /-kaa/.”

cand muntaxab loogooN-koo      A few chosen people were sent for.  
bulaayaa-gayaa

in-meeN-see doo intixaab-kar-      Please select two from among these.  
liijiye

in-meeN-see doo muntaxab-kar-      -ditto-  
liijiye

in-meeN-see doo-kaa intixaab kar-      -ditto-  
liijiye

2. /sar sayyad-kee kalaam-meeN/: “...in Sir Sayyid's writings.”

/kalaam/, lit. “speech,” is used in Urdu mostly in the sense of “verses;” here it is being used closer to its original meaning.

3. /X-kee matlab-kaa/, “of X's particular purpose; of X's particular use,” an adjectival phrase. Often it carries a pejorative nuance, hence it should be learned together with /X-kee kaam-kaa/, which has the same meaning but carries no negative nuance.

(Also see 14:29.)

yee aap-kee matlab-kii kitaab      This book won't serve your purpose.  
nahiiN

woo apnee matlab-kaa doost hai      He is a selfish friend.

Compare the above with the following.

yee aap-kee kaam-kii kitaab nahiiN      This book would be of no use to you.

woo baRee kaam-kee aadmii haiN      He's a very useful/helpful person.

4. /aur milaa too yee latiiifaa/: “...and when he did find something it was this joke...”

5. Khwaja Altaf Husain Hali (1837-1914) was a friend and younger colleague of such eminent persons as Ghalib, the poet, and Sir Sayyid Ahmad Khan, the reformer. He was also a fine poet, a pioneering literary critic, and an excellent biographer. Among his more important books are (1) a long poem on the civilizational decline of the Muslims, (2) a book on poetics, emphasizing the moral and social relevance of poetry, (3) a two-part study of Ghalib's life and verse, and (4) a still unsurpassed biography of Sir Sayyid, from which this incident has been quoted.

6. /hayaat-e-jaaweed/: “the eternal life.” Note the use of /hamzaa/ in the earlier compound, /zinda-e-jaaweed/. /zindaa/, “alive,” is grammatically a participle hence it could be used as the first member in an /izaafat/-compound.

7. /hayaat-e-jaaweed-see naql-kiyaa hai/: "...has quoted from 'Hayat-e-Javed'."  
/naql/: F : "imitation; copy." Related adjective: /naqlii/, "fake; imitation."

Related verbs: /naql-karnaa/, "to write down something; to copy a piece of writing; to quote something." And, /naql karnaa/, NF, "to mimic X /-kii/." (Also see 8:18.)

yee naqlii soonaa hai                      It is imitation gold.  
maiN-nee ahmad-kii baat naql-kii      I quoted what Ahmad had said.  
us-nee ahmad-kii naql kii                He mimicked Ahmad.

8. /un-kii gaaRii-meeN aa-baiThee/: "...came and sat down in his compartment."  
/gaaRii/—original meaning: "cart; carriage"—nowadays also means "train; car."

In the context of trains, /Dabbaa/, a masculine noun—lit. "box"—means "compartment" or "bogie." Example: /gaaRii-kaa Dabbaa/, "the train compartment."

9. /paadrii/, from "padre," is used in Urdu to refer to all Christian clergy.

10. /mulaaqaat/, a feminine noun, is used here in the sense of "the actual act of meeting." Elsewhere it may also mean: "acquaintance." Mostly it is used with /-see/.

Hence, the sentence in the text could have been: /...aap-see mulaaqaat-kaa istiyyaaq thaa/. The related verbs are made with /karnaa/ and /hoonaa/, but in the latter case a distinction is made between the use of the past and present auxiliary forms and the verbal forms.

ham un-see mulaaqaat kareeNgee      We shall meet him.  
hamaarii un-see mulaaqaat hai        We know him. We are acquainted with him.  
hamaarii un-see mulaaqaat hoogii    We'll be meeting him.

The difference between the first sentence and the third is that between a direct construction and an indirect construction: the first expresses an involvement of the subject's volition or will, while the latter indicates a lack or insignificance of the same. (See 126.)

11. /istiyyaaq/: M : "intense desire with much anticipation." Like /xwaahis/, "desire," and /sauq/, "a habitual or long-term desire or fondness for something," /istiyyaaq/ too is used in an indirect construction with /hoonaa/.

aap-see milnee-kii xwaahis thii      I had a desire to meet you.  
mujhee un-see milnee-kaa baRaa      I was very fond of meeting him. Or, I was  
sauq thaa                                    looking forward to meeting him.  
aap-see milnee-kaa istiyyaaq thaa    I was very eager to meet you.

12. /xudaa-kii baateen karnaa caahaa thaa/: "[I] wanted to talk to you about God."  
Or, "I wanted to talk to you concerning Godly matters."

13. /kamaal sanjiidagii-see/: "with perfect seriousness."

/kamaal, a masculine noun, means "perfection; high proficiency." Here it is used as an explicator and may be replaced by either /bahot/ or /baarii/.

/sanjiidagii/ is an abstract noun made from the adjective, /sanjiidaa/, “serious, sober.” (See 246.)

14. /mutaajjib-hoo-kar kahaa/: “[he] said in great amazement.”

/mutaajjib/, “amazed.” The related noun is /ta’ajjub/, M, “amazement,” from which one can make an adverbial phrase: /ta’ajjub-see/, “in amazement.” A related verb is /ta’ajjub karnaa/, NM, “to express amazement at X /-par/.”

unhooN-nee ta’ajjub-see deekhaa      He looked with amazement.

is baat-par mutaajjib na hoo              Don't be amazed by it.

is baat-par ta’ajjub mat karoo              Don't express surprise at it.

15. /heeN/ or /haiN/ is an exclamation of surprise, same as /aree/.

16. /mujhii-par kyaa mauquuf hai.../: “It's not just me...”

/mauquuf-hoonaa/, “to be exclusively dependent on X /-par/.”

yee too tumhaaree aanee-par              This entirely depends on your coming.  
mauquuf hai

17. /kisii saxs-kaa naam leekar puuchaa/: “He mentioned someone's name and asked....”

/X-kaa naam leenaa/: “to mention X's name.”

maiN-nee too un-kaa naam nahiiN      I didn't mention his name.  
liyaa

18. /. . . apnee haaN khaanee-par bulaayaa hoo/: “. . . I may have [not] invited for dinner at my place.”

X /-kee haaN/ or X /-kee yahaaN/, “at X's own ‘place’ (house; city; country).”

hamaaree yahaaN aisaa nahiiN              This doesn't happen where we come from.  
hootaa

aaikal aap-kee haaN kaun Thairaa      Who is staying with you these days?  
hai

/bulaanaa/, “to call or summon,” also means “to invite” when used with appropriate words, such as /caae/, “tea,” /saadii/, “marriage,” which in turn will be marked with /-par/.

unhooN-nee hameeN caae-par              They had invited us for tea.  
bulaayaa thaa

tum-nee apnii saadii-par us-koo              Why didn't you invite him to your  
kyooN nahiiN bulaayaa                      wedding?

British colonial officers in India made social sharing of food into a major event of patronage and recognition. They introduced a hierarchical system under which the status of a person was determined by the meal he shared—or didn't—with the superior British officer he visited. Sharing of an evening meal—a formal dinner—was the greatest of such honours.

19. /us-koo maiN kyooNkar jaan-saktaa huuN/ : “How can I know him?” Or, “Why do you think I would know him?”

/kyooNkar/ may often be interchangeable with /kaisee/, but it does contain more a sense of “why?” than of “how?”.

20. /yee too saxt kaafir hai/ : “He is a dyed-in-the-wool infidel.”

Since /kaafir/ is a pejorative word, /saxt/—”hard; tough”—is appropriately used as its explicator.

## Exercises

### A. Situational variants

پروفیسر بارنی کوف لینن گراڈیو نیورسٹی میں اردو پڑھاتے ہیں۔ انھوں نے اردو نثر اور نظم کا ایک مجموعہ تیار کیا ہے جو روس میں شائع ہوا ہے۔ اس مجموعہ میں مختلف ادیبوں کے مضامین سے اقتباسات انتخاب کیے گئے ہیں۔ مولانا حالی نے لکھا ہے کہ ایک برسید احمد خاں ریل میں جا رہے تھے۔ کسی اسٹیشن پر دو انگریز پادری ان کے پاس آکر بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک انگریز کسی طرح جان گیا کہ سرسید احمد خاں یہی ہیں۔ اس نے سرسید سے کہا، ”بہت دنوں سے آپ سے ملنے کی خواہش تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے خدا کے متعلق باتیں کروں۔“ سرسید نے جواب دیا، ”میں نہیں سمجھ پایا آپ کس کے متعلق باتیں کرنا چاہتے ہیں۔“ سرسید کافی سنجیدہ ہو کر کہنے لگے ”میں تو کبھی ان سے ملا نہیں ہوں۔“ پادری تعجب سے بولا، ”ارے، آپ خدا کو نہیں جانتے۔“ سرسید نے کہا، ”ان سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، نہ میں نے ان کو کسی وقت اپنے گھر کھانا کھانے کے لئے بلایا اور نہ میں کبھی ان کے گھر کھانے پر گیا، پھر میں انھیں کیسے جان سکتا ہوں۔“

1. نظم	F	nazm	poetry; poem
2. مجموعہ	M	majmuuaa	collection
3. روس	M	ruus	Russia
4. چھپنا		chapnaa	to be printed, be published
5. خواہش	F	xwaahis	desire
6. تعجب	M	taajjub	amazement

## B. Translate into English.

وہ صاحب جو آپ کے ساتھ رہتے تھے آج کل کہاں ہیں؟ کل تم جن کی بات کر رہے تھے میری آج اُن سے ملاقات ہو گئی۔ کام کے باوجود ماں بیمار بچے کے پاس آ بیٹھی۔ جس چیز کی مجھے تلاش تھی وہ اس دکان میں نہ مل پائی۔ احمد صاحب نے کہا کہ میں کل آپ کے گھر آؤں گا۔ احمد صاحب نے کہا کہ وہ کل میرے گھر آئیں گے۔ احمد صاحب نے کہا کہ آج وہ ضرور وہاں جائیں گے۔ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں اتفاق سے قریب میں کوئی دکان نہیں ہے۔ یہ لطیفہ جو اُنہوں نے لکھا ہے میں ایک رسالے میں پڑھ چکا ہوں۔ جب اُس کو یہ معلوم ہو گیا کہ لوگ ندی پر جمع ہو گئے ہیں تو وہ بھی وہاں چلی گئی۔ جو کتابیں آپ تلاش کر رہے تھے اُن میں سے صرف ایک ہی اُس دکان میں ملی۔ میں نے احمد کو بتایا کہ اُسے کالج ضرور جانا چاہیے ورنہ وہ کامیاب نہ ہو گا۔ اس مجموعہ میں اُن کی ساری نثر اور نظم شامل ہے۔ اُن کے مضامین اتنے اچھے ہیں کہ اُن میں سے انتخاب کرنا مشکل ہے۔ جب آپ کبھی وہاں گئے نہیں تو پھر اُس کے متعلق ایسا کیوں کہتے ہیں۔ احمد میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، ”مدت سے تم سے ملنے کا اشتیاق تھا۔“ میرا نام سن کر وہ تعجب سے مجھے دیکھنے لگے۔ آپ سے ملے ہوئے کئی دن ہو گئے اس لئے آپ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ استاد نے لڑکے سے کہا، ”یہ کتابیں اٹھا کر کمرے میں لے جاؤ۔“ جس شخص سے آپ ملنا چاہتی تھیں وہ خود اتفاق سے آپ کے گھر پر آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اسی وقت آسکیں تو ضرور آئیں۔ میں آج زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہتا ہوں مگر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بینک میں اپنے بھائی کی نگرانی میں کام کرتا تھا۔ استاد نے ایک کتاب کا نام لے کر طالب علموں سے پوچھا، ”کیا تم میں سے کسی نے یہ کتاب پڑھی ہے؟“ چونکہ مجھے احمد صاحب سے ملنے کا اشتیاق تھا اس لئے میں سب سے پہلے اُن کے گھر گیا۔ اُن کے رسالے میں پرانی کتابوں کے اقتباسات بھی شائع ہوتے تھے اور نئے مضامین بھی۔ اُن کی ابتدائی ملازمت لاہور میں تھی۔ میں نے اپنے چند دوستوں کو آج شام کو کھانے پر بلایا ہے۔ مجھے نیویارک جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، مگر سنا ہے کہ دلچسپ شہر ہے۔ شکیل سے کہیے کہ احمد نے تم کو بلایا ہے۔ تب میں



نے احمد کا نام لے کر اُس سے پوچھا، کیا تم اس کو جانتے ہو۔ پروفیسر طالب علم کا جواب سُن کر خاموش ہو رہا۔ اگر پھر کبھی وہاں جانے کا اتفاق ہو تو تشکیل صاحب سے ضرور ملیے گا۔ ان میں سے کچھ کتابیں اپنے مطالعہ کے لئے انتخاب کر لیجیے۔

### C. Fill in the blanks.

پروفیسر بارنی کوف ..... جو لینن گراڈ کی ..... میں اُردو کے پروفیسر ہیں، اُردو ..... کا ایک ..... چھاپا ہے جس میں اُردو کے مشہور ادیبوں کے ..... یا اقتباسات ہیں۔ کسی ..... پر دو ..... اُن کی گاڑی میں ..... سرسید سے کہا ”..... سے آپ کی ملاقات کا ..... تھا۔ میں آپ سے ..... کی باتیں کرنا ..... تھا۔“ سرسید نے کہا ”میں نہیں ..... آپ ..... کی باتیں کرنا چاہتے ہیں۔“ پادری نے ..... ہو کر ..... ”ہیں، آپ خدا کو نہیں .....؟“ پھر کسی شخص کا ..... لے کر ..... ”آپ اُس کو ..... ہیں؟“ پادری نے کہا ”نہیں، میں اُس ..... کبھی نہیں .....“ سرسید نے کہا ”پھر ..... سے میں کبھی نہ ..... ہوں، نہ میں نے کبھی اُس ..... اپنے ہاں کھانے پر بلایا .....، نہ مجھ ..... اُس کے ..... کھانے پر ..... کا اتفاق ہوا ہو، اُس کو میں کیوں کر جان ..... ہوں۔“ پادری یہ ..... خاموش ہو رہا اور دوسرے انگریز سے ..... میں کہا کہ ”یہ تو سخت ..... ہے۔“

### D. Translate into Urdu

I. I didn't find anything of my purpose in his book. II. By chance I saw my friend going into the store. III. The train stopped on the way three times. IV. I was eager to see Lahore for a long time. V. Is there a bookstore nearby? VI. One of the boys playing in the field is my son. VII. He somehow came to know that I was going to London. VIII. I'm busy now, but will come when I am free. IX. His mother told him that she wanted to talk to him about his education. X. My friend did not understand who I was talking about. XI. Then he mentioned some city and asked me if I had seen it. XII. She never had the occasion to travel in Europe. XIII. By chance I met my friend in front of the library.

XIV. When I told him my name he was quite amazed. XV. How can I tell you about a book which I have not read myself. XVI. It would be better if each of us goes separately. XVII. What exactly do you wish to prove? XVIII. He strove all his life to establish peace in the country. XIX. In your view, what should we have done on that occasion? XX. He wished to establish a college like the colleges of Europe.

**E. Answer the following in Urdu.**

- ۱- پروفیسر بارنی کوف کہاں پروفیسر ہیں اور انہوں نے کیا شائع کیا ہے؟ ۲- کیا تم کبھی لینن گراڈ گئے ہو؟ ایک شہر کا نام بتاؤ جہاں تم گئے تھے۔ ۳- ”حیاتِ جاوید“ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ۴- گاڑی میں سرسید کے پاس کون آکر بیٹھے؟ ۵- پادری کو سرسید سے ملنے کا کیوں اشتیاق تھا؟ ۶- آپ کے خیال میں سرسید نے پادری کو ایسا عجیب جواب کیوں دیا؟ ۷- آپ خدا کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ۸- کیا تم رابرٹ نام کے شخص کو جانتے ہو؟ ۹- کیا تمہیں کبھی کسی پادری سے ملاقات کا اتفاق ہوا ہے؟ ۱۰- پادری نے دوسرے انگریز سے انگریزی میں کیا کہا؟

## Review Sentences

- ۱- میرے بھائی کی پیدائش لکھنؤ میں ہوئی تھی مگر بچپن دہلی میں گذرا۔ ۲- میں کہانی کہتا رہا اور وہ شوق سے سنتے رہے۔ ۳- ابھی کام ختم نہ ہو پایا تھا کہ وہ کالج چلے گئے۔ ۴- ابھی میٹھی چیز نہ آپائی تھی کہ وہ دسترخوان سے اٹھ گئے۔ ۵- ابھی میں اسٹیشن نہ پہنچ پایا تھا کہ ریل آگئی۔
- ۶- احمد نے جو حکم دیا وہ ملازم کو ماننا پڑا۔ ۷- میں جب امتحان میں کامیاب نہ ہو سکا تو کالج میں پھر داخل ہونا پڑا۔ ۸- جاوید کو یونیورسٹی کی تعلیم چھوڑ دینی پڑی۔ ۹- اپنے والد کے حکم کے مطابق انھیں بینک میں ملازمت کرنی پڑی۔ ۱۰- میرے والد بوڑھے ہیں اس لئے آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ ۱۱- اچھے آدمی رفتہ رفتہ دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں۔ ۱۲- میرے دوست آپ کے متعلق بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ ۱۳- میرا بھائی ایک ہی دن کام کر پایا تھا کہ اُس کو بینک کی ملازمت چھوڑنی پڑی۔ ۱۴- یہ سب کو معلوم ہے کہ ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔
- ۱۵- سرسید کی تمام کتابیں بار بار شائع ہو چکی ہیں۔ ۱۶- ۱۸۵۷ء تک انگریز ہندوستان کے اکثر حصوں پر قبضہ کر چکے تھے۔ ۱۷- میں جب اُن کے پاس پہنچا تو وہ کھانا ختم کر چکے تھے۔
- ۱۸- میں نے بغاوت کے متعلق کسی طرح کا بھی مضمون نہیں لکھا ہے۔ ۱۹- انگریزوں نے بہت کوشش کی کہ بغاوت جلد ختم ہو جائے لیکن انھیں کامیابی نہ ہوئی۔ ۲۰- سرسید نے مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اُن کی ترقی کا راز دراصل علمی ترقی میں ہے۔ ۲۱- کوشش کرنا انسان کا کام ہے، کامیابی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ۲۲- مسلمانوں کی نظر میں محمد علی ہندوستان کے بڑے لوگوں میں سے تھے۔ ۲۳- دنیا کی نظر میں سکندر بہت بڑا بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ ۲۴- جو لوگ اعتبار کے قابل ہوتے ہیں اُن پر اعتبار کیا ہی جاتا ہے۔ ۲۵- ہندوستان اور پاکستان میں مولانا شبلی کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ ۲۶- یہ سائیکل اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اب چلانے کے قابل نہیں رہی۔ ۲۷- کم عمری میں ہی اُن کے پہلے بیٹے کی وفات ہو گئی۔ ۲۸- جیسے وہ ہیں ویسے اُن کے بیٹے، کوئی بھی اعتبار کے قابل نہیں۔ ۲۹- اب مسلمانوں میں جدید تعلیم کی اتنی کمی نہیں ہے

جتنی پہلے تھی۔ ۳۰۔ طالب علم اپنے علم کی کمی کو اچھی اچھی کتابوں کے مطالعہ سے پورا کرتے ہیں۔ ۳۱۔ میرے کہنے پر اُنھوں نے عورتوں کی تعلیم پر مضمون لکھا۔ ۳۲۔ سرسید کے علاوہ اور بھی لوگوں نے مسلمانوں میں تعلیم پھیلانے کے لئے اسکول اور کالج قائم کیے۔ ۳۳۔ اس جلسے میں مختلف مضامین کے بڑے بڑے عالم بلائے گئے تھے۔ ۳۴۔ جاوید کے کالج پہنچنے پر اصل جلسہ شروع ہوا۔ ۳۵۔ ہندوستان میں مہاتما گاندھی کی زندگی پر بہت سی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ۳۶۔ سرسید نے اپنی قوم کی خراب حالت دیکھ کر اُس کو سدھارنے کی کوشش کی۔ ۳۷۔ اکثر لوگ کھانا کھا کر ہی پانی پیتے ہیں، کھانے کے درمیان نہیں۔ ۳۸۔ بچے اپنے بڑوں کو دیکھ کر اُن کی نقل کرتے ہیں۔ ۳۹۔ کسی جاندار کو تکلیف پہنچا کر خوش ہونا بہت بُری بات ہے۔ ۴۰۔ کسی انسان پر زور ڈال کر اپنا مطلب پورا نہیں کرنا چاہیے۔ ۴۱۔ حکومت ہمیشہ اپنے مطلب کے لوگوں کو ترقی دیتی ہے۔ ۴۲۔ وہ تو اپنے مطلب کی دوست ثابت ہوئی۔ ۴۳۔ ان لطیفوں میں سے ایک لطیفہ حالی کی کتاب سے نقل کیا گیا ہے۔ ۴۴۔ مدت سے میں اُن مضامین میں سے ایک کو نقل کرنا چاہتا تھا۔ ۴۵۔ جب میری کوئی ملازمت نہیں تو اتنا کرایہ کیسے ادا کروں۔ ۴۶۔ مجھے مدت سے آپ کے یہاں آکر رہنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ ۴۷۔ کیا تم کو حالی کی کتاب دیکھنے کا اب تک اتفاق نہیں ہوا؟ ۴۸۔ اتفاق سے نہ میں کسی باغ میں گیا ہوں نہ میں نے آم کھایا ہے۔ ۴۹۔ پھر نہ اُن سے میری ملاقات ہوئی اور نہ اُنھوں نے پھر مجھے بلایا۔ ۵۰۔ پہلی ملاقات کے بعد پھر اُن کو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔

## Unit XX

# غالب

پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے ☆ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا<sup>۲</sup>

اُردو کے یہ سب سے مشہور اور مقبول شاعر ۱۷۹۷ء میں آگرہ کے ایک مغل<sup>۳</sup> خاندان میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا، جو راجہ الور کی فوج میں ملازم تھے۔ کچھ دن چچا کے ساتھ رہے پھر جب اُن کا بھی انتقال ہو گیا تو دلی آگئے اور یہیں کے ایک اعلیٰ خاندان میں اُن کی شادی ہوئی۔

غالب کی ساری زندگی پریشانی میں گزری۔ آمدنی کا کوئی خاص ذریعہ نہ تھا۔ چچا کی پنشن تھی وہ بند ہو گئی۔ پھر بادشاہ کے دربار سے اور اودھ کے نواب سے کچھ ملتا رہا۔ مگر غدر نے اُس کو بھی ختم کر دیا۔ البتہ ریاست رامپور سے اُن کو جو سالانہ<sup>۴</sup> روپیہ ملتا تھا وہ ملتا رہا۔ پنشن کے مقدّمے کے سلسلے میں غالب نے ایک بار کلکتہ کا سفر کیا تھا ورنہ وہ ساری زندگی دلی ہی میں رہے اور یہیں ۱۸۶۹ء میں وفات پائی۔

ابتدا میں غالب بہت مشکل انداز<sup>۵</sup> کی شاعری کرتے تھے<sup>۶</sup> جس کی وجہ سے لوگ مذاقاً کہتے تھے کہ غالب کی شاعری یا تو خود غالب سمجھتے ہیں یا پھر خدا سمجھتا ہے۔ اُن کے دوستوں نے بھی اُن کو سمجھایا کہ اس طرح کی شاعری سے آخر کیا فائدہ! ان باتوں پر غور کر کے<sup>۹</sup> جب غالب نے

اپنا دیوان شائع کیا تو اُس میں سے مشکل انداز کے تمام اشعار نکال دیے۔ اُن کی غزلوں کا دیوان زیادہ بڑا نہیں لیکن ہر غزل اپنی جگہ خاص ہے۔ اُن کے بہت سے اشعار تو ہر اُردو بولنے والے کو یاد ہیں<sup>۱۰</sup> اور یہی نہیں بلکہ جو لوگ اُردو نہیں بولتے وہ بھی غالب کی شاعری سے واقف<sup>۱۲</sup> ہیں۔ غالب نے اُردو کے علاوہ فارسی میں بھی شاعری کی۔ اس کے علاوہ چند کتابیں تاریخ اور لغت<sup>۱۳</sup> پر بھی لکھیں۔

اُردو میں غالب کے خطوط بھی بہت مشہور ہیں۔ اُنھوں نے عام رواج سے ہٹ کر خط لکھنے کا ایک نیا انداز نکالا<sup>۱۴</sup> جس میں بات چیت کی زبان اور محاورے استعمال کیے۔ بعض بعض خطوں میں تو ایسا لگتا ہے کہ سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ اُن کے یہ خطوط شائع ہو چکے ہیں۔ جو لکے شاگردوں<sup>۱۶</sup> اور دوستوں کے نام ہیں۔

خواجہ الطاف حسین حالی نے غالب پر بھی ایک مکمل کتاب لکھی ہے جس میں انکی زندگی کے حالات اور انکی شاعری کی خصوصیات ہمیں بتائی ہیں۔ اس کتاب کا نام ”یادگار غالب“ ہے۔

## غالب کے چند آسان اشعار

اُن کے دیکھے سے جو آجاتی ہے منہ پر رونق  
وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے<sup>۱۷</sup>

نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا  
ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا<sup>۱۸</sup>

نیند اُس کی ہے، دماغ اُس کا ہے، راتیں اُس کی ہیں  
تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشاں ہو گئیں<sup>۱۹</sup>

موت کا ایک دن معین ہے  
نیند کیوں رات بھر نہیں آتی<sup>۲۰</sup>

ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی  
کچھ ہماری خبر نہیں آتی<sup>۲۱</sup>

قیدِ حیات و بندِ غم اصل میں دونوں ایک ہیں  
موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں<sup>۲۲</sup>

## Unit XX: Notes

1. Ghalib was the */taxallus/* or *nom de plume* of Mirza Asadullah Khan. It was customary among Urdu poets to choose either a part of their name or some other word as their */taxallus/*, which they regularly used in the final verse of their compositions, particularly in a ghazal. The mark over the word indicates that it is a */taxallus/*. Ghalib, at first, had used 'Asad' as his */taxallus/*, but later changed it to 'Ghalib'.

2. "He [the beloved] asks, 'Who is Ghalib?' Someone should tell me what I should say." The second line may also be translated as: "Let someone else speak, for what can I say." (See note 6 below.)

3. Mughal refers to anyone whose ancestry may be traced back to Central Asia and to a racially Turkish origin. (See 2:18.)

4. */saalaanaa/* : "annual."

Also: */roozanaa/*, "daily," */maahaanaa/*, "monthly." "Weekly," however, is */haftaa-waar/*.

5. */andaaz/* : M : "style; manner." It may be used with reference to the activities and attributes of human beings, and with reference to the shape or form of non-human and inanimate things. Consider the following two sentences:

ahmad saahab puraanee andaaz-kee Mr Ahmad is an old-fashioned man.  
aadmii haiN

yee jadiid andaaz kii meez hai It's a modern style table.

Ghalib's earlier poetry was much influenced by his fascination with the Persian poetry of some of his predecessors. His 'difficult' style mainly consisted of complex images and elaborate */izaafat/* compounds.

6. */Gaalib . . . saerii kartee thee/* : "Ghalib used to write poetry...."

*/si'r/* or */seer/* : M : "verse" or a "couplet." */saaerii/* : F : "poetry." */Gazal/* : F : "Ghazal." */nazm/* : F : "poem; verse (as opposed to prose)." */diiwaan/* : M : "a collection of ghazals." */kulliyat/* : MF : "collected works." A collection of modern poems would be called, */nazmooN-kaa majmuu'a/*.

Originally, only the verb */kahnaa/* was used with */seer/*, and with the words for specific genres, to express the idea: "to compose a verse." Now */likhnaa/* is also commonly used for that purpose, though not with */seer/*, which still occurs only with */kahnaa/*. Only */karnaa/*, however, is used with */saaerii/*.

woo seer kahtii hai She writes poetry.

us-nee eek seer kahaa He composed a couplet.

maiN-nee eek Gazal likhii/ I wrote a ghazal.



woo laRkiyaaN gaaerii nahiiN  
kartiiN

Those girls don't write poetry.

Ghazal is a form of lyric, containing a number of couplets which share a metre and rhyme-scheme. The latter is always: aa ba ca da ea fa, and so on. The rhyme itself may consist of two parts: /radiif/, the final word or phrase repeated at the end of each verse, and /qaafiyaa/, the word before the /radiif/ whose final syllable will also be a part of the rhyme, i.e. all the words before the /radiif/ will end in that syllable. A ghazal usually consists of at least five couplets, and each couplet is usually a self-contained entity, both grammatically and semantically. In fact, each line of a couplet is often grammatically self-contained—there is rarely any run-on line. The first couplet of the ghazal has rhymes in both lines; it is called the /matla'/. The last couplet is called the /maqta'/' and it usually contains the poet's /taxallus/.

One notable feature of the Urdu ghazal is the use of a grammatically masculine gender with reference to the beloved, even in the context of some physical attribute that would be exclusively feminine. This allows the ghazal love to be interpreted as both worldly and spiritual. It should be borne in mind that Urdu uses the masculine gender when a general statement is made or when the verb has nothing to agree with in a clause, and that God is always referred to strictly in the masculine singular. (We follow the same practice in our translations and comments below.)

7. /yaa too xud Gaalib samajhtee haiN yaa phir xudaa samajhtaa hai/, “Either Ghalib understands his own poetry or else perhaps God.”

/yaa/, “or; either.” Like /bhii/, /yaa/ too is more commonly used in both clauses. (See 211, 214.)

8. /aaxir kyaa faaedaa/, “...after all, what is the gain....”

/aaxir/, lit. “final; the last.” Used as an adverb, it means: “finally.” But a more common function is to add a rhetorical flourish to ordinary sentences, particularly questions, in which case its equivalents would be: “after all; after all is said and done; as a last resort.” Often it seems to add a touch of desperation. For example, /tum kab jaaogee/ would be an innocuous question—“When would you go?”—but /tum aaxir kab jaaogee/ would sound either abrasive or desperate depending on the tone of the speaker and his facial expression. In other words, it could be spoken as the situational equivalent of either “When the heck would you go?” or “Come now, when would you go?”

9. /Gaur karnaa/ : NM : “to ponder over X /-par/.” /Gaur/, “concentration of mind.” Adverbial phrase: /Gaur-see/, “carefully; with full attention.”

10. /har urduu boolnee-waalee-koo yaad haiN/ : “Every Urdu speaker knows by heart.”

/yaad-hoonaa/, K, “to be known by heart; to remember;” /yaad-karnaa/, N, “to memorise; to recall deliberately.” (See 12:24 for more.)

mujhee un-kaa naam yaad nahiiN I don't remember her name.  
 tum-nee kooii nazm yaad-kii? Did you memorise any poem?  
 ab usee yaad-karnee-see kyaa What's the use of thinking of him now?  
 faaedaa?  
 aap-koo meeree bhaaii yaad haiN? Do you remember my brother?

11. /aur yahii nahiiN/, “and not just that...”

12. /waaqif/, “acquainted with X /-see/; having some slight knowledge of X /-see/.”

Also, /naa-waaqif/, “unacquainted.”

maiN un-kii saaerii-see naa-waaqif I have no knowledge of his poetry.  
 huuN

ham ahmad-see xuub waaqif haiN We know Ahmad well.

13. /luGat/, a feminine noun, means “dictionary” as well as “lexicography.”

Ghalib took great pride in his command of the Persian language, and at one time became embroiled in a heated debate about the accuracy of an earlier Indian lexicon. Sadly, he was not always right.

14. /eek nayaa andaaz nikaalaa/, “... brought out or invented a new style...”

15. /aisaa lagtaa hai ki.../, “It seems as if...”

/lagnaa/, when it occurs conjointly with some adjective, more often means: “to seem or appear” . (See 225.) The construction may be expanded into a full indirect construction by introducing a ‘real’ subject marked with /-koo/. In such an expanded usage, /acchaa-lagnaa/ and /xaraab-lagnaa/ would often mean, “to like” and “to dislike,” respectively. Consider the following examples:

yee keelee xaraab-lagtee haiN These bananas look bad.  
 mujhee yee keelee xaraab-lagtee These bananas appear bad to me.  
 haiN

But compare the last with the following:

mujhee keelee xaraab-lagtee haiN I don't like bananas.  
 aap-koo kyaa ciiz acchii lagtii hai What things do you like?

It is also possible to use a noun or a noun-phrase as a complement with /lagnaa/.

ahmad aaj aadmii-lagtaa hai Ahmad looks like a human being today.  
 mujhee woo bhali laRkii nahiiN She doesn't seem like a nice girl to me.  
 lagtii

16. /saagird/, “disciple.” (Its feminine form, /saagirdaa/, is not too commonly used, particularly in the context of poetry). /ustaad/, “teacher; mentor;” has a feminine form, /ustaanii/, which only means “a female school teacher.”

It was customary among ghazal poets—and it still is to some extent—that a starting poet would choose a senior person as his /ustaad/, who would instruct him in the art of poetry and correct his language and verses. It was considered a binding relationship at one time, and poets proclaimed their 'poetic lineage' with much pride. Most modern poets, however, do not follow this practice.

17. “My face glows when I see the beloved; but it only makes him think that I'm no longer ill.” An interesting double bind. The neglectful, even cruel beloved stays away from the poet-lover, causing the latter to fall grievously ill. The news reaches the beloved, who eventually comes to the bedside to see for himself. This causes a recovery in the lover, but ultimately results only in making the beloved more disdainful and neglecting—he no longer puts credence in any news he hears about the lover.

When the third person pronominal form /woo/ is used in a verse in Urdu, with no precedent or antecedent for it in the couplet itself, it refers to the 'beloved' of the poet. (See note 6 above.)

/un-kee deekhee-see/ = /un-koo deekhnee-see/

/raunaq/ may be used with reference to inanimate nouns too.

aaj bbaazaar-meeN raunaq hai      Today the market looks lively.

un-kee jaanee-see ghar-kii raunaq      When she left she took the life of the house  
bhii calii-gayii      with her.

18. “There was God when there was nothing, and there would still have been God had there been nothing. My own existence has ruined me. How could it have mattered at all if I had not been.” The second line may also be translated as: “My coming into being has ruined me. Just think what I might have become if I had not been.”

/Duboonaa/, lit. “to sink (Tr),” metaphorically means “to bring someone to ruin.”

19. “Sleep [of contentment], airs [of vanity], nights [of luxury]—they all belong rightly to him alone on whose arms you spread your tresses.” The person whom the beloved has favoured with intimacy is the only one who may claim the listed pleasures as his own.

/dimaaG/, in other contexts, would mean: “brain.” Example: /kuch apnee dimaaG-see bhii kaam-loo/, “Make some use of your own brains too.”

20. “The day of [my] death is fixed, it can't be changed. Why is it then that I toss and turn all night?” A playful opposition between 'day' and 'night', but also an identification between the pain of separation and the anguish of death.

/mu'ayyan/, “determined, fixed.” It is related to the word /'ain/, which means “eye.” Thus it is also related to 'sleep' and 'death', and makes for greater verbal integrity within the verse.

21. “We are now in that state [of oblivion] from where even we don't get any news of ourselves.” Even we don't know what is happening to us, how can then we expect anyone else to understand any of it.

22. “The prison of life and the bonds of grief, the two are one and the same in reality. Why should then Man find relief from grief before his death?” Grief is integral to human existence; the latter can't be without the former.

/asl-meeN/ may also be translated as, “in their origin.”

## Exercises

### A. Situational variants.

۱۸۷۹ء میں آگرہ میں رہنے والے ایک مغل خاندان میں اردو کے اس مقبول ترین شاعر کی پیدائش ہوئی۔ غالب زندگی بھر پریشان رہے۔ پنشن کے سلسلے میں ایک مرتبہ کلکتہ جانا پڑا تھا ورنہ غالب کی ساری زندگی دہلی ہی میں گزری اور وہیں ۱۸۶۹ء میں وفات ہوئی۔ شروع میں غالب کو ایک خاص مشکل انداز کی شاعری پسند تھی جس کے سبب سے لوگ مذاق کے طور پر کہتے تھے کہ اُن کی شاعری یا تو خود غالب کی سمجھ میں آتی ہے یا پھر خدا سمجھتا ہے۔ اُن کے دوست بھی اُن کی اس طرح کی مشکل شاعری کے خلاف تھے اور اُنہوں نے غالب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اِس قسم کی شاعری سے کچھ فائدہ نہیں۔ اُن کے کئی اشعار تو ہر اردو بولنے والے کی زبان پر ہیں اور اتنا ہی نہیں بلکہ جن لوگوں کی زبان اردو نہیں وہ بھی غالب کی شاعری کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہیں۔ غالب نے اردو کے ساتھ ساتھ فارسی میں بھی شاعری کی۔ اردو میں غالب کے خطوط ایک خاص انداز کے ہیں۔ اُن کے یہ خطوط چھپ چکے ہیں۔ غالب کے ایک دوست خواجہ الطاف حسین حالی تھے جنہوں نے غالب پر ایک کتاب لکھی۔ اِس میں غالب کی زندگی کے تمام حالات اور اُن کی شاعری کی خصوصیات لکھی گئی ہیں۔

1. مقبول ترین                      maqbuul-tariin                      the most popular ; Section
2. وہیں                                      wahiiN                                      right there; /wahaaN+hii/

### B. Translate into English.

اِس شہر کا مشہور ترین شخص اسی گھر میں رہتا ہے۔ میرے دوست نے دکان میں سب سے مہنگا کرتا خریدنا مگر دیکھنے میں کوئی خاص چیز نہیں۔ میرے کہنے پر وہ گھومنے نکلے ورنہ اُن کو کوئی

خواہش نہیں تھی۔ نجمہ معمولی کپڑے پہنتی ہے لیکن ایک خاص انداز سے۔ اس جلسے کے تعلق سے تم کو کچھ نہ کچھ تو معلوم ہوگا۔ یہی نہیں، انہوں نے میرے ساتھ تمہارے لئے کچھ پھل بھی بھیجے ہیں۔ اس کو سمجھائیے کہ آج نہ جائے۔ ایک دن اور رکیے ورنہ میں آپ سے بات کرنا چھوڑ دوں گا۔ اُن کا خط لکھنے کا انداز تم سے مختلف ہے۔ مجھے اس شہر میں آئے ہوئے صرف دو دن گذرے ہیں، اس لئے میں ابھی سب راستوں سے واقف نہیں۔ ڈاکٹر احمد کے علاج سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ استاد نے جو کام دیا تھا میں نے ختم کر دیا اور پھر کھیلنے چلا گیا۔ احمد کھانا ختم کر کے پڑھنے کے لئے بیٹھ گیا۔ ابتدا میں تو ہر نئی زبان کا سیکھنا مشکل لگتا ہے۔ ملازمت کے سلسلے میں مجھے کئی دفعہ آگرہ بھی جانا پڑا۔ انہوں نے ان کتابوں میں سے صرف ایک پسند کی۔ شروع میں غالب نے جو انداز اختیار کیا وہ مختلف اور مشکل تھا۔ اُن کے پاس بار بار جانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ آپ لوگ گذشتہ سال بھی آئے تھے۔ پہلے تو میں نے بازار جا کر گوشت اور ترکاری خریدی اور پھر واپسی پر ایک کتاب فروش سے کچھ کتابیں خریدیں تو پتہ چلا کہ میں نے سارے پیسے ختم کر دیئے تھے۔ استاد نے علی سے پوچھا ”پڑھائی ختم نہ کرو گے تو تم آخر کرو گے کیا؟“ اس لڑکی کو اپنے بچپن کے سارے حالات یاد ہیں۔ مجھے ابھی تک غالب کا کوئی شعر یاد نہ ہو پایا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میں یہ اشعار یاد نہ کر پاؤں گا۔ یہی نہیں بلکہ انگریزی کی کوئی نظم بھی مجھے یاد نہیں ہو پاتی۔ تم آخر وہاں کتنے دن رہ سکتے ہو۔ احمد یہ سائیکل کئی مہینوں سے استعمال کر رہا ہے مگر پھر بھی نئی لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اُن کو یہ بات بُری لگی کہ ہم اتنی جلدی واپس جا رہے ہیں۔ دیکھنے میں یہ موٹر پرانی لگتی ہے ورنہ قیمت بُری نہیں۔ اُن کی یہ کتاب میں واپس کر چکا ہوتا مگر اُن کے گھر کی طرف جانے کا موقع نہیں ملا۔ اُن کا گھر عام انداز سے کچھ ہٹ کر ہے۔ پھلوں

کی دکانیں سڑک سے ہٹ کر لگتی ہیں۔ جس جگہ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہاں جا چکا ہوں۔ جو میں چاہتا تھا وہ تو نہ ہوا البتہ ان سے ملاقات ہو گئی۔ ہندوستان میں عام رواج کے مطابق لڑکیاں شادی نہیں کرتیں بلکہ اُن کی شادی ہوتی ہے۔ البتہ اگر آپ آج اور رکتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ اُس نے شادی نہیں کی ہے البتہ شادی کرنے سے بالکل انکار بھی نہیں کیا ہے۔ ہمارا کوئی کام معین وقت پر نہیں شروع ہوتا۔ پریشانیوں کے سبب سے احمد کو اکثر رات کو نیند نہیں آتی۔ ہم تھکے ہوئے تھے اس لئے فوراً نیند آگئی۔ آپ سے مل کر تو مجھے آپ کے والد یاد آگئے۔ اُس کے جانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ اُس کو کتاب تودی نہیں۔ ایک غزل میں عام طور پر پانچ یا سات اشعار ہوتے ہیں۔ کسی کو نہیں معلوم کہ تشکیل کی آمدنی کا کیا ذریعہ ہے۔

### C. Fill in the blanks.

بچپن..... والد کا..... ہو گیا، جو راجہ الور کی فوج میں..... تھے۔ آمدنی کا کوئی..... ذریعہ نہ تھا۔ پھر رامپور کے..... سے اور اودھ کے نواب..... کچھ..... رہا۔ اُن باتوں..... غور کر کے جب غالب نے اپنا..... شائع..... تو اُس میں سے..... انداز کے تمام..... نکال دیئے۔ اُن کی..... کا دیوان..... بڑا نہیں لیکن ہر غزل اپنی جگہ..... ہے۔ غالب نے اُردو..... علاوہ..... میں بھی..... کی۔ اس کے علاوہ چند..... تاریخ اور لغت پر بھی..... انھوں نے..... رواج..... ہٹ کر خط لکھنے کا ایک نیا..... نکالا جس میں بات چیت کی..... اور محاورے استعمال..... بعض بعض خطوں میں تو..... ہے کہ سامنے بیٹھ کر..... کر رہے ہیں۔ اُن میں سب..... مشہور خواجہ الطاف حسین حالی تھے..... نے غالب پر ایک..... کتاب لکھی۔

## D. Translate into Urdu.

I. He has the most expensive car of all. II. Ahmad is the most famous and popular boy in the school. III. For a few days my uncle stayed in the best part of this town. IV. It seems his entire life has been spent in hospitals. V. None can understand what he says because his manner of speaking is different. VI. At first the servant always came on time, but later started coming late. VII. Do you remember his name? VIII. Two hours later I remembered that I had to go to the doctor. IX. I still remember most of the things that happened in my childhood. X. Not only that, he has written poetry in English too. XI. He has not written a new ghazal in a long time. XII. My brother has been using my father's new pen for many years. XIII. It seems as if she isn't well and needs to see a doctor. XIV. The professor had published last month his new book. XV. Do you find his new book interesting? XVI. I never had an occasion to hear his poems. XVII. Do you know any Persian verses? XVIII. You should not give him any money, otherwise he will bother you every day. XIX. I still remember what you said to me last year. XX. He kept reading the book all day long, and didn't stir out of the house.

## E. Answer the following in Urdu.

۱- غالب اپنے والد کے انتقال کے بعد کہاں رہے اور وہی کیوں آئے؟ ۲- غالب کی آمدنی کا کیا ذریعہ تھا؟ ۳- غالب کلکتہ کیوں گئے تھے؟ ۴- ابتدا میں غالب کی شاعری کیسی تھی؟ ۵- غالب کے دوستوں نے اُن کو کیا سمجھایا؟ ۶- غالب نے اپنے دوستوں کی بات مان کر کیا کیا؟ ۷- غالب نے اُردو کے علاوہ کس زبان میں شاعری کی؟ ۸- غالب کا خط لکھنے کا انداز کیسا تھا؟ ۹- غالب کی پیدائش اور وفات کا سال بتائیے۔ ۱۰- حالی کی کتنی کتابوں سے آپ واقف ہیں؟



## Unit XXI

### اُردو

جب گیارھویں اور بارھویں صدی میں مسلمان ہندوستان میں آئے تو زیادہ تر اُس علاقے میں رہے جو لاہور سے لے کر دہلی، آگرہ اور میرٹھ تک پھیلا ہوا ہے۔<sup>۱</sup> اُس وقت دہلی اور اُس کے آس پاس کے علاقے میں بانگڑو اور کھڑی بولی بولی جاتی تھی۔ اور آگرہ کے پاس برج بھاشا بولی جاتی تھی۔ باہر سے آنے والے یہ مسلمان ترکی یا فارسی بولتے تھے۔ مسلمان بادشاہوں کی سرکاری زبان فارسی تھی مگر زندگی اور حکومت کی ضرورتیں اُنہیں عام لوگوں کی زبان سیکھنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ اسی طرح مقامی لوگوں کے لئے بھی ضروری تھا کہ وہ نئے آنے والوں کی بات سمجھ سکیں اور اُنہیں اپنی بات سمجھا سکیں۔ بادشاہوں اور اُن کے دربار اور فوج سے دور مسلمان فقیروں کا ایک گروہ تھا جو اپنا پیام ملک کے عام لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا۔<sup>۲</sup> یہ لوگ ترکی، عربی اور فارسی کے عالم تو تھے ہی، ہندوستان آنے کے بعد اُنہوں نے سنسکرت اور دوسری ہندوستانی زبانیں سیکھنا شروع کیں۔

اسی طرح کے میل جول سے شمالی ہند میں ایک نئی زبان بننا شروع ہوئی۔ تیرھویں صدی میں ہم کو اس کھڑی بولی اور فارسی ملی ہوئی زبان میں کچھ جملے ملتے ہیں۔<sup>۳</sup> اُس زمانے میں اس زبان کو ”ہندوی“ کہتے تھے۔ اُس کی گرامر ہندوستانی تھی مگر فارسی کا گہرا اثر تھا۔ اس صدی میں مسلمان فوج کے ساتھ یہ زبان دکن پہنچی۔ کچھ سالوں کے بعد دکن کے مسلمان بادشاہوں نے اُس کو

اپنے دربار میں جگہ دی اور یہی ملی جلی زبان ”دکنی“ کے نام سے وہاں کی سرکاری زبان بن گئی۔  
دکن میں اس زبان نے بڑی تیزی سے ترقی کی۔

شاہجہاں کے زمانے میں دہلی دوبارہ<sup>۸</sup> راجدھانی بنی اور عام بول چال میں برج بھاشا کی جگہ  
کھڑی بولی کا رواج بڑھا۔ دہلی میں فارسی اور کھڑی بولی ملی ہوئی زبان کا نام پہلے ”ریختہ“ اور پھر  
”اُردو“ پڑا۔<sup>۹</sup> اُردو اور دکنی ایک ہی زبان کی دو شکلیں تھیں۔ چنانچہ جب دکن کی مسلمان سلطنتیں<sup>۱۰</sup>  
ختم ہو گئیں اور دہلی حکومت اور تہذیب کا مرکز بنی تو دکنی کی ادبی حیثیت ختم ہو گئی اور اُردو ہی شعر و  
ادب کی زبان مانی گئی۔<sup>۱۱</sup> کچھ ہی دنوں میں یہ زبان ہندوستان کے سارے علاقوں میں پھیل گئی۔  
انگریزوں کے زمانے میں اُردو سرکاری زبان بھی بن گئی۔ ۱۹۴۷ء کے بعد سے اُردو  
پاکستان کی ایک سرکاری زبان ہے اور بہت ترقی کر رہی ہے۔ ہندوستان میں بھی یہ اب بھی بولی اور  
سمجھی جاتی ہے، اور حیدرآباد، لکھنؤ، دہلی اور علی گڑھ اس کے بڑے مرکز ہیں۔

## Unit XXI: Notes

1. /joo laahaur-see lee-kar dillii, aagraa aur meeraTh-tak phailaa huaa hai/: “... which is spread from Lahore up to Delhi, Agra and Meerut.”

/-see lee-kar/ makes it clear that Lahore is included in the defined area. The terminal point is considered included in Urdu and needs no further enunciation.

/dillii/ and /dehlii/ are two interchangeable Indian names of the city called ‘Delhi’ in English.
2. /aam loogooN-kii zabaan/: “...the language of the common man....”

Related to /aam/, “common, ordinary,” is /awaam/, which means, “the masses.” Opposites are: /xaas/, “special;” and /xawaas/, “the elite.” Related adjective: /awaamii/, “of the masses.”
3. /pahoNcaanaa/ is the causative of /pahoNcaaa/, “to reach; to arrive.” It should be distinguished from the verb /lee-jaanaa/. /pahoNcaanaa/ means “to carry or take something or someone from one location to another,” with an implicit focus or emphasis on the transportation of the object, not the carrying done by the subject. The latter would be the focus with /lee-jaanaa/, “to carry along; to take along.” The lack of concern with the subject makes it possible to form a double causative, /pahoNcwaanaa/.

mujhee saRak-tak pahoNcaa- dijiyee	Please escort me to the road.
mujhee saRak-tak pahoNcwa- dijiyee	Please have me escorted to the road.
woo mujhee apnee-saath lee-gayee	He took me along with him.
aap-kaa qalam kaun lee-gayaa?	Who took away your pen?
4. /yee loog turkii . . . -kee aalim too thee hii....” : “...they, of course, were already scholars of Turkish....”

Note the use of /hii/ in the above sentence. Idiomatic, and fairly common.
5. /meel-jool/, “inter-mixture.” Related verb: /milnaa-julnaa/, “to meet with people socially.” Neither /jool/ nor /julnaa/, however, are used by themselves. (See 216.)

woo loogooN-see kam miltee- jultee haiN	He does not socialize much.
--	-----------------------------
6. /ham-koo . . . jumlee miltee haiN/, “We find some sentences....”

/jumlaa/, M, “sentence.” /harf/, M, “letter (of an alphabet).” /lafz/ (pronounced as /lavz/), M, “word.” /xat/, M, “script; style of script.” /rasm-al-xat/, M, “script.”
7. /loog/ is the implied subject of the verb, /kahtee thee/. It would have been used explicitly if the sentence had required the use of the perfect participle of /kahnaa/. For

example: /tab loogooN-nee is zabaan-koo hindawii kahaa/, “Then the people called this language Hindavi.” (See 6:13.)

8. /doobaaraa/ means “again; once again; for a second time.” Similar words are made from a few other numbers but not commonly used. /doobaaraa/ should not be confused with /doo bar/, “twice,” and /duusrii baar/, “for the second time,” though in some contexts it may be interchangeable with the latter. /baar/, “time; instance,” is a feminine noun. Another related word is /baarii/, “turn (as in games),” a feminine noun.

ham un-kee paas paaNc baar gayee We went to him five times.

ham un-kee paas paaNcwiiN baar We went to him for the fifth time.  
gayee

ab aap-kii baarii hai Now it is your turn.

9. X /-kaa naam/ X1 /paRnaa/ : “for X to come to be called X1.” Another idiomatic use of /paRnaa/, in this case as an equivalent of /hoonaa/. (See 226.)

is-liee us-kaa naam urduu paRaa That's why it came to be called Urdu.

Rekhta (“scattered”) was the more common name for this language during the 18th century and the first part of the 19th. Rekhta was also a term in the vocabulary of music as well as the preferred name for the poetry written in this mixed language. The name ‘Urdu’ is supposed to have arisen as an abbreviation of the phrase, /zabaan-e-urduu-e-mu'allaa/, “the language of the imperial camp.” “Urdu” was also the name of a major neighborhood and market in Delhi. ‘Urdu’ and ‘horde’ come from the same Turkish word, ‘urt’, “the traditional Mongol/Turk tent.”

10. /cunaance/ may often be translated as “consequently,” but it has much less of a causal implication than /is liee/; in many contexts it may simply be translated as: “And so. . . .”

11. /saltanat/, “Sultanate; kingdom.”

Other relevant words: /baadsaahat/, “kingdom.” /hukuumat/, “state; government.” /sarkaar/, “government.” /sarkarii/, “official.” All the four nouns are feminine.

12. /maanaa-jaanaa/ is the passive form of /maannaa/. (See 184.)

X /-koo/ X1 /maannaa/, “to acknowledge or consider X to be X1.”

X /maanaa-jaanaa/, “to be acknowledged as X.”

ham iqbaal-koo bahot baRaa saeer We regard Iqbal as a great poet.  
maantee haiN

iqbaal bahot baRee saeer maanee- Iqbal is considered a great poet.  
jaatee haiN

## Exercises

### A. Situational variants.

جب گیارہویں صدی کے آخر اور بارہویں صدی کی ابتدا میں مسلمان ہندوستان آئے تو ان میں سے زیادہ تر اُس علاقے میں رہنے لگے جو لاہور سے لے کر میرٹھ تک پھیلا ہوا ہے۔ باہر سے آئے ہوئے یہ مسلمان ترکی یا فارسی بولا کرتے تھے۔ بادشاہوں کے دربار اور فوج سے بالکل الگ مسلمان صوفیوں کا ایک گروہ تھا جو اپنا پیغام یہاں کے عوام میں پھیلا نا چاہتا تھا۔ باہر سے آنے والے لوگ ترکی، عربی اور فارسی تو جانتے ہی تھے، ہندوستان پہنچنے کے بعد وہ سنسکرت اور دوسری ہندوستانی زبانیں بھی سیکھنے لگے۔ اس طرح کے تعلقات سے شمالی ہند میں ایک نئی زبان کی بنیاد پڑی۔ اُس وقت اس زبان کا نام ”ہندوی“ تھا۔ دکن میں اس زبان کی بڑی ترغیب ہوئی۔ شاہجہاں کے وقت میں دہلی پھر سے راجدھانی بنائی گئی اور عام لوگوں میں کھڑی بولی کا استعمال بڑھا۔ چنانچہ جب دکن کی آزاد ریاستیں نہ رہیں اور دہلی حکومتی اور تہذیبی مرکز بنی تو دکن کی جگہ صرف اُردو ہی شعرو ادب کی زبان مانی جانے لگی۔ انگریزوں کے وقت میں اُردو کو سرکاری زبان کی حیثیت بھی حاصل ہو گئی۔

1. صوفی	M	suufii	Sufi
2. پیغام	M	paiGaam	message
3. عوام	Mp	awaam	masses
4. تعلقات	Mp	taalluqaat	relationships

### B. Translate into English.

میں زیادہ تر رات کو کام کرتا ہوں۔ مدر اس شہر بہت پھیلا ہوا ہے اس لئے اونچی عمارتیں جیسی بمبئی میں ہیں، بہت کم نظر آتی ہیں۔ احمد کی میز پر کتابیں پھیلی ہوئی ہیں اسی لئے کسی چیز کے ملنے میں مشکل ہوتی ہے۔ میرا دوست آیا ہوا ہے اور ہم دونوں سائیکلوں پر شہر سے باہر جانے

والے ہیں۔ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کیا اُن میں سے کسی سے آپ واقف ہیں؟ مسلمان صوفیوں کے چھوٹے بڑے گروہ سارے ملک میں پھیلے ہوئے تھے۔ باہر سے آنے والے یہ مسلمان کوئی مقامی زبان نہیں جانتے تھے۔ ضرورتیں انسان کو وقت کے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ چند دوستوں نے مجھے دریا کے سفر پر چلنے پر مجبور کیا اور مجھے جانا پڑا۔ صوفیوں کا پیغام امن اور دوستی کا پیغام تھا اور اسی لئے عام و خاص سب کو پسند تھا۔ ”ٹی-وی-“ کے ذریعہ خبریں عوام تک پہنچتی ہیں۔ آج میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، کل رات تک آ جاؤں گا۔ استاد نے لڑکوں سے کہا ”جہاں تک ہو سکے اس کتاب کو پڑھ ڈالو۔“ علی کو سفر پر جانا تو تھا لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے جانہ پایا۔ میرے امریکی دوست اُردو بولنا تو جانتے ہی تھے اب انہوں نے اُردو پڑھنا بھی سیکھنا شروع کیا ہے۔ کیا آپ نے میرا پیغام اُن تک پہنچا دیا تھا۔ میں ایک دوست کی حیثیت سے آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں۔ جب ہم کھیل کے میدان میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ کھیل ابھی ختم ہوا ہے۔ بڑی محنت سے کام کر کے اس لڑکے نے ترقی کرنا شروع کیا۔ آج کل ہندوستان اور پاکستان دونوں میں لاہور ہی اُردو کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ جب میرے کچھ دوست آگئے تو میں نے ملازم سے کہا کہ ”جلدی سے کچھ کھانے کی چیزیں دکان سے لے آؤ۔“ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ میلہ دیکھنے جانے کی اجازت چاہی تو والد نے خوشی سے دے دی۔ اُن دونوں کے تعلقات شاید کچھ خراب ہیں۔ چچہ بیمار ہو گیا تھا چنانچہ ماں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ میرے والد کو سفر پر جانا تھا چنانچہ نوکر سے کہا کہ اسٹیشن جانے کے لئے ایک ٹیکسی لے آئے۔ اب سب زبانوں پر انگریزی کا گہرا اثر ہو گیا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں اس ملک نے بڑی ترقی کی ہے۔ اگر تم دوبارہ اُن کے پاس جاؤ تو اُن سے میرا سلام ضرور کہنا۔ کسی ملک کی ترقی میں حکومت اور عوام دونوں حصہ لیتے ہیں۔ مجھے کچھ کتابیں خریدنی تھیں چنانچہ میں بک اسٹور چلا گیا۔ اُنہوں نے جو غزلیں سنائیں اُن میں سے ایک میں اخبار میں پڑھ چکا تھا۔ میرے ایک امریکی دوست کو شعر و شاعری سے بہت دلچسپی ہے اور وہ دنیا کی ہر بڑی زبان کا ادب پڑھنا چاہتے ہیں۔

### C. Fill in the blanks.

اس وقت دہلی اور اُس کے ..... پاس کے علاقے میں باگلٹرو اور کھڑی بولی ..... -  
..... سے ..... والے یہ مسلمان ترکی یا فارسی ..... تھے۔ اسی ..... سے ..... لوگوں کے لئے بھی  
ضروری تھا کہ وہ نئے آنے والوں کی ..... سمجھ سکیں اور انہیں اپنی بات ..... سکیں۔ یہ لوگ .....  
عربی اور ..... کے عالم تو ..... ہی، ہندوستان آنے کے بعد ..... نے سنسکرت اور ..... ہندوستانی  
زبانیں سیکھنا شروع .....۔ اسی طرح کے ..... جول سے ..... ہند میں ایک نئی زبان ..... شروع  
ہوئی۔ اُس کی گرامر ہندوستانی ..... مگر فارسی کا گہرا ..... تھا۔ کچھ ..... کے بعد دکن کے  
مسلمان ..... نے اس کو اپنے دربار میں ..... دی اور یہی ملی ..... زبان ”دکنی“ کے ..... سے وہاں کی  
سرکاری زبان بن گئی۔ دہلی میں فارسی اور کھڑی بولی ..... ہوئی زبان کا نام ..... ”ریختہ“ اور پھر  
”اُردو“ ..... کچھ ہی ..... میں یہ زبان ہندوستان کے سارے علاقوں میں ..... گئی۔ ۱۹۴۷ء  
کے بعد ..... اُردو پاکستان کی ایک ..... زبان ہے اور بہت ..... کر رہی ہے۔

### D. Translate into Urdu.

1. In both countries the masses are mostly poor. II. Chicago is a well spread out city, but not all its parts are very clean. III. These people, who have come from outside, do not understand our language. IV. My friend is compelling me to go to Lahore with him. V. The king wanted that his message should reach common people. VI. I can now speak a few sentences in Urdu. VII. The danger of war has not ended even in this century. VIII. That boy has made much progress; he now owns two stores. IX. If you like good literature you should read his new collection of poetry. X. Since 1947 India and Pakistan have been making much progress. XI. He still looks young despite being so old. XII. He was eager to come, but due to his mother being ill he couldn't. XIII. When we went there for the second time he met us very differently. XIII. Did you give her my message? XV. When she went there for the second time her brother refused to meet her. XVI. And so when they came out of the shop, the rain had already stopped. XVII. All the people in the room tried to reason with

him. XVIII. English is understood in nearly all the countries of the world. XIX. He uses too many idioms in his language. XX. I can come with you only as far as the market, after that I must return.

**E. Answer the following in Urdu.**

- ۱- مسلمان ہندوستان میں کب آئے اور کس علاقے میں رہنے لگے؟ ۲- باہر سے آنے والے مسلمان کون سی زبانیں بولتے تھے اور ان کی سرکاری زبان کیا تھی؟ ۳- امریکہ کی سرکاری زبان کیا ہے؟ ۴- عام لوگوں کے لئے فارسی سیکھنا کیوں ضروری تھا؟ ۵- ”ہندوی“ کس طرح کی زبان تھی؟ ۶- مسلمانوں کے آنے کے وقت شمالی ہند میں کون کون سی زبانیں بولی جاتی تھیں؟ ۷- دکن پہنچ کر ”ہندوی“ زبان کا نام کیا ہو گیا اور اُس کی ترقی کیسے ہوئی؟ ۸- شاہجہاں کے زمانے میں دہلی میں عام لوگوں کی زبان کیا تھی؟ ۹- آپ کے ملک میں حکومت اور تہذیب اور شعر و ادب کے بڑے مرکز کون سے شہروں میں ہیں؟ ۱۰- اب ہندوستان اور پاکستان کی سرکاری زبانیں کون سی ہیں؟



## Review Sentences

- ۱- حالی کو ان کے زمانے میں اُردو کا سب سے مقبول شاعر مانا جاتا تھا۔ ۲- یہ ندی یہاں کی
- ندیوں میں سب سے چھوٹی ندی کہی جاتی ہے۔ ۳- اس کو امریکہ کی سب سے خوبصورت عمارت
- سمجھا جاتا ہے۔ ۴- میرے چچا کی آمدنی چونکہ کافی تھی اس لئے اُن کی زندگی بہت آرام سے گذری۔
- ۵- میں کئی بار منڈی میں سے ہو کر گذرا مگر سبزی والے کو ہمیشہ غائب ہی پایا۔ ۶- آج کل اُس
- بیچارے پر بڑا مشکل وقت گذر رہا ہے۔ ۷- میرے بھائی کو مقدمہ کی وجہ سے رکن پڑا ورنہ وہ آپ
- سے ملنے آتا۔ ۸- غالب کی پنشن بند ہو گئی ورنہ وہ بڑے آرام سے رہتے۔ ۹- جب اُن کے پاس
- روپیہ ختم ہو گیا تو وہ اپنے دوستوں سے مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ ۱۰- غالب کی عمر مصیبت اور پریشانی
- میں ہی ختم ہوئی۔ ۱۱- جب ایک آدمی اپنی بات ختم کر لے تب دوسرے کو اپنی بات شروع کرنی
- چاہیے۔ ۱۲- یہ کتاب اتنی اچھی ہے کہ میں نے دو ہی گھنٹے میں ختم کر ڈالی۔ ۱۳- ابتدا میں ہر کام
- مشکل معلوم ہوتا ہے، مگر رفتہ رفتہ آسان ہو جاتا ہے۔ ۱۴- شروع شروع میں ہر شاعر کسی دوسرے
- شاعر کی نقل کرتا ہے۔ ۱۵- ہر شاعر کو چاہیے کہ اپنے اشعار میں آسان زبان اور اچھے محاوروں کا
- استعمال کرے۔ ۱۶- غالب کا انداز ابتدا ہی سے دوسرے شاعروں سے الگ تھا۔ ۱۷- میرے
- دوست کو اس کھیل سے شروع ہی سے دلچسپی ہے۔ ۱۸- میں گھر جا کر یا تو خط لکھوں گا یا پھر یہ
- کتاب پڑھ کر ختم کروں گا۔ ۱۹- آخر اس کتاب میں ایسی کیا بات ہے جو تم پڑھنا چاہتے ہو۔
- ۲۰- اس وقت اس دھوپ اور گرمی میں کھیلنے سے آخر کیا فائدہ۔ ۲۱- اس جانور کو مار کر آخر تمہیں
- کیا حاصل ہوگا۔ ۲۲- ہر پڑھے لکھے آدمی کو غالب کے ایک دو اشعار یاد ہوتے ہیں۔ ۲۳- ہر
- آدمی اپنے حالات پر غور کر کے اپنی زندگی کا ایک راستہ مقرر کرتا ہے۔ ۲۴- سعدی کے اشعار پر غور
- کرو تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ نصیحتوں کا خزانہ ہیں۔ ۲۵- کبھی کبھی امریکہ میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم
- پاکستان میں بیٹھے ہوں۔ ۲۶- جاوید صاحب تیس سال کی عمر میں ہی بوڑھے لگتے ہیں۔
- ۲۷- والد صاحب کے مرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ گھر بالکل خالی ہو گیا۔ ۲۸- صوفیوں میں سے

کچھ نے اُردو میں شاعری بھی کی ہے۔ ۲۹- اُردو زبان یہی نہیں کہ دہلی اور لکھنؤ میں بولی اور سمجھی جاتی ہے بلکہ وہ پورے ہندوستان میں پھیل چکی ہے۔ ۳۰- اقبال کے اشعار یہی نہیں کہ انگریزی میں ترجمہ کیے گئے ہیں بلکہ عربی میں بھی اُن کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ ۳۱- دہلی کے علاقے سے آنے والے لوگ زیادہ تر کھڑی بولی بولتے ہیں۔ ۳۲- ہندوستان سے باہر جانے والوں کے لئے حکومت سے اجازت لینا ضروری ہے۔ ۳۳- یورپ کا سفر کرنے والوں کو کم سے کم انگریزی زبان ضرور جانا چاہیے۔ ۳۴- امریکہ میں نئے نئے آنے والوں کو شروع شروع میں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ۳۵- نہ صرف یہ کہ شمالی ہندوستان بلکہ دکن کے علاقوں میں بھی ہندی سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ ۳۶- آس پاس والوں سے ہمیشہ اچھے تعلقات قائم رکھنا چاہیے۔ ۳۷- فقیروں کے پاس اُن کی دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ۳۸- کسی شخص کو طاقت کی مدد سے کسی کام کے لئے مجبور نہ کرنا چاہیے۔ ۳۹- سرکاری ملازمت کی ضرورت نے ہندوستان والوں کو انگریزی پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ ۴۰- جب مسلمان ہندوستان میں رہنے لگے تو یہاں کے رواج سیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ ۴۱- وہ سائیکل تو چلاتا ہی تھا اب کار بھی چلانی شروع کی ہے۔ ۴۲- جاوید بینک میں ملازم تھا ہی اب کالج میں پڑھنا بھی شروع کیا ہے۔ ۴۳- اُردو زبان نے بہت کم وقت میں بہت تیزی سے ترقی کی۔ ۴۴- اگر تم معین وقت پر آتے تو تمہارا کام ہو جاتا۔ ۴۵- جو طالب علم محنت کرتا ہے جلدی جلدی ترقی بھی کرتا ہے۔ ۴۶- ہندوستان کی جنوبی ریاستوں کے لوگوں کے نہ صرف یہ کہ شمالی ہند سے رواج مختلف ہیں بلکہ اُن کی زبانیں بھی الگ ہیں۔ ۴۷- جب مسلمان ہندوستان میں داخل ہوئے اُس وقت تک اسلام کئی دوسرے ملکوں میں پھیل چکا تھا۔ ۴۸- یونیورسٹی کی عمارتیں دُور دُور تک پھیلی ہوئی ہیں اور دُور سے نظر آ جاتی ہیں۔ ۴۹- ہم نے دہلی سے آگرہ تک کا سفر ریل میں کیا تھا اور تین گھنٹے لگے تھے۔ ۵۰- یہاں سے میرے کالج تک کا راستہ تقریباً ایک گھنٹہ کا ہے۔

## غالب کے خطوط

### یوسف مرزا کے نام<sup>۱</sup>

یوسف مرزا، کیوں کر تجھے لکھوں کہ تیرا باپ مر گیا۔ اور اگر لکھوں تو پھر آگے کیا لکھوں کہ اب کیا کرو، مگر صبر<sup>۲</sup>۔ یہ ایک شیوہ فرسودہ ابنائے روزگار کا ہے۔<sup>۳</sup> تعزیت<sup>۴</sup> یوں ہی کیا کرتے ہیں کہ صبر کرو۔ ہائے ایک کا کلیجہ کٹ گیا ہے اور لوگ اُسے کہتے ہیں کہ تُو نہ تڑپ، بھلا کیوں کر نہ تڑپے گا۔<sup>۵</sup> صلاح اس امر میں نہیں بتائی جاتی۔<sup>۶</sup> دعا کو دخل نہیں، دوا کا لگاؤ نہیں۔<sup>۷</sup> پہلے بیٹا مرا، پھر باپ مرا۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ بے سرو پا<sup>۸</sup> کس کو کہتے ہیں تو میں کہوں گا یوسف مرزا کو۔ تمھلی داوی لکھتی ہیں کہ رہائی کا حکم ہو چکا تھا۔<sup>۹</sup> یہ بات سچ ہے؟ اگر سچ ہے تو جواں مرد<sup>۱۰</sup> ایک بار دونوں قیدوں سے چھوٹ گیا۔ نہ قید حیات ہی رہی نہ قید فرنگ۔

### میر مہدی کے نام<sup>۱۱</sup>

”اے جناب<sup>۱۲</sup> میرن صاحب! السلام علیکم۔“

”حضرت آداب۔“<sup>۱۳</sup>

”کہو صاحب آج اجازت ہے میر مہدی کے خط کا جواب لکھنے کو؟“

”حضور<sup>۱۴</sup> میں کیا منع کرتا ہوں؟ میں نے تو یہ عرض کیا<sup>۱۵</sup> تھا کہ اب وہ تندرست ہونگے

ہیں۔ بخار جاتا رہا ہے۔<sup>۱۶</sup> صرف پیچش باقی ہے، وہ بھی رفع ہو جائے گی۔ میں اپنے ہر خط میں آپ کی طرف سے دعا لکھ دیتا ہوں۔ آپ پھر کیوں تکلیف کریں؟“

”نہیں، میرن صاحب، اُس کے خط کو آئے ہوئے بہت دن ہوئے ہیں۔<sup>۱۷</sup> وہ خفا ہوتا ہوگا۔ جواب لکھنا ضرور ہے۔<sup>۱۸</sup>“

”حضرت وہ آپ کے فرزند ہیں۔<sup>۱۹</sup> آپ سے خفا کیا ہوں گے۔<sup>۲۰</sup>“

”بھائی آخر کوئی وجہ تو بتاؤ کہ تم مجھے خط لکھنے سے کیوں باز رکھتے ہو؟“

”سبحان اللہ!<sup>۲۱</sup> اے لو حضرت، آپ تو خط نہیں لکھتے اور مجھے فرماتے ہیں تو باز رکھتا ہے۔“

”اچھا تم باز نہیں رکھتے۔ مگر یہ تو کہو کہ تم کیوں نہیں چاہتے کہ میں میر مہدی کو خط لکھوں؟“

”کیا عرض کروں۔ سچ تو یہ ہے کہ جب آپ کا خط جاتا اور وہ پڑھا جاتا تو میں سنتا اور حظ اٹھاتا۔ اب جو میں وہاں نہیں، نہیں چاہتا کہ آپ کا خط جاوے۔<sup>۲۲</sup> میں اب پنج شنبے<sup>۲۳</sup> کو روانہ ہوتا ہوں۔ میری روانگی کے تین دن کے بعد خط شوق سے لکھیے گا۔“

”میاں، بیٹھو۔ ہوش کی خبر لو۔<sup>۲۴</sup> تمہارے جانے نہ جانے سے مجھے کیا علاقہ؟<sup>۲۵</sup> میں بوڑھا آدمی تمہاری باتوں میں آگیا<sup>۲۶</sup> اور آج تک اُس کو خط نہیں لکھا۔ لاحول ولا قوۃ۔<sup>۲۷</sup>“

سنو میر مہدی صاحب! میرا کچھ گناہ نہیں۔ میرے خط کا جواب لکھو۔ تپ تو رفع ہوگئی۔ پیچش کے رفع ہونے کی خبر شتاب لکھو۔ پرہیز کا بھی خیال رکھا کرو۔<sup>۲۸</sup> یہ بڑی بات ہے کہ وہاں کچھ کھانے کو ملتا ہی نہیں۔ تمہارا پرہیز اگر ہوگا بھی تو ”عصمتِ بی بی ازبے چادری“<sup>۲۹</sup> ہوگا۔

اس وقت پہلے تو آندھی چلی۔ پھر مینہ آیا۔ اب مینہ برس رہا ہے۔ میں خط لکھ چکا ہوں۔ سرنامہ لکھ کر چھوڑوں گا۔ جب ترشح موقوف ہو جائے گا تو کلیان ڈاک کو لے جائے گا۔

Unit XXII: Notes

1. This letter of condolence is addressed to Yusuf Mirza, whose father had been a political prisoner of the British after the Rebellion of 1857 and had died in prison.
2. /magar sabr/, “...except that you be reconciled to your fate.” An idiomatic use of /magar/, “but.” This usage is no longer so common. The same sentiment in modern Urdu could, for example, be expressed as: /siwaa is-kee ki sabr karoo/. (See 5:15.)

/sabr/, a masculine noun, means “forbearance, patience.” It is the virtue epitomized by the Prophet Job—Ayub in the Islamic tradition—i.e. an acceptance of every calamity or hardship. Related verbs: /sabr karnaa/, NM, “to be patient; to forbear X /-par/.” /sabr-see kaam leenaa/, NM, “to be patient.”

is baat-meeN jaldii acchii nahiiN; Haste is not good in this matter. Be patient.  
sabr-see kaam loo

unhooN-nee har takliif-par sabr He forbore every hardship.  
kiyaa

3. /yee eek seeva-e-farsuudah abnaa-e-roozgaar-kaa hai/ : “This is an old and useless practice among the children of Time.”

/roozgaar/, a masculine noun, also in some contexts means, “business, source of livelihood.” Related word: /roozii/, “sustenance, livelihood,” a feminine noun.

ab us-kaa kooii roozgaar nahiiN Now he has no source of livelihood. Now he is jobless.

us-kaa kapRee-kaa roozgaar hai He has a clothing business.

woo mahnat kar-kee roozii haasil-kartii thii She used to earn her living through hard work.

4. /taaziyat/, a feminine noun, means, “condolence.” Related verb: /taaziyat karnaa/. Related adjective: /taaziyatii/.

maiN-nee ahmad-see us-kee I offered Ahmad my condolences  
waalid-kii taaziyat kii concerning his father's death.

ham taaziyat-kee liee jaaeeNgee We'll go to offer condolences.

ham taaziyat karnee jaaeeNgee -ditto-

aaj eek taaziyatii jalsaa hoogaa A condolence meeting will be held today.

These words should be learned together with /ayaadat/, a feminine noun, which means “the act of visiting with someone who is ill.” The second letter, for example, is a letter of /ayaadat/.

ham aaj un-kee paas ayaadat-kee We'll go to see him today [on his sickbed].  
liee jaaeeNgee

5. (a) /eek-kaa kaleejaa kaT-gayaa hai/ : “...someone has suffered a mortal wound....”

/kaleejaa/, lit. “liver,” now idiomatically means “the human heart.” It should be distinguished from /kaleejii/, a feminine noun, which means “liver of cattle, fowl, etc.” The clinical word for “human liver” is /jigar/, a masculine noun. Both /kaleejaa/ and /jigar/ are perceived as “seats of emotions” and “sources of fortitude and courage.”

(b) /bhalaa kyooNkar na taRpeegaa/ : “How could he not but writhe in pain!”

This sentence would be pronounced with an exclamatory intonation, and with stress on either /kyooNkar/ or /na/. In such sentences, /bhalaa/ simply indicates that in the opinion of the speaker the question asked is hardly valid, for its answer—in the negative—is only too obvious. Example: /woo bhalaa aaeegii/, “Will she come? Of course not.” Same in function as /woo kyaa aaeegii/. (See 218.)

6. /salaah, a feminine noun, means “sound advice” when it is used with /deenaa/. With /bataanaa/, it would be closer to: “sound and practical advice; a good solution to the problem at hand.”

7. /du'aa-koo daxl nahiiN, dawaa-kaa lagaao nahiiN/ : “No prayer to God would have any effect, nor would any human endeavour make any difference.”

/du'aa/, “supplication before God,” and /dawaa/, “[man-made] medicine,” make for an enjoyable alliterative opposition.

/daxl hoonaa/, KM, “to have some authority or say in X /-meeN/.” Example: /kyaa aap-koo mazhab-meeN bhii kuch daxl hai/, “Do you have some expertise in religion too?” Compare it with /daxl deenaa/, NM, “to interfere with Y /-meeN/.” Example: /tum-nee un-kee kaam-meeN daxl kyooN diyaa/, “Why did you interfere with his work.”

/dawaa-kaa lagaao nahiiN/, lit. “medicine has no connection with it.” /lagaao/, a masculine noun, also means: “attachment; fondness.” Example: /us-koo apnee waalid-see baRaa lagaao thaa/, “He was very attached to his father.”

8. /bee-sar-o-paa/, “helpless,” lit. “without a head or foot.” In other contexts, for example with /kaam/ or /baat/, it would be equivalent to English, “without a head or tail; silly.” Example: /bee-sar-o-paa baateeN mat karoo/, “Don’t talk rubbish!”

9. /rihaaii-kaa hukm hoo-cukaa thaa/, “...the orders for his release had already been issued.”

/rihaaii/, “release [from imprisonment or bondage].” From the adjective /rihaa/. The latter is used with /karnaa/ and /hoonaa/ to form the related verbs.

jab woo rihaa huaa	When he was set free. . . .
jab ahmad-nee us-koo rihaa kiyaa	When Ahmed set him free. . . .

10. /jawaaN-mard/—never /jawaan mard/—means “a young and bold person,” and carries no sense of condescension as might the English, “young man.” It may also be used as a vocative interjection: “You, young man, . . .”

11. The letter is addressed to Mir Mahdi, but its initial part is in the form of a dramatic dialogue between Ghalib and Miran Sahib, the father of Mir Mahdi, who was visiting in Delhi at the time.

12. /janaab/ may be used as a vocative interjection and also as a term of respect added to people's name. It is still commonly used in writing, as in a letter, but in the spoken language its use is limited and may often be used a bit sarcastically in informal situations.

13. /hazrat/, as an interjection, is now used between equals. Earlier it implied an expression of respect, as is the case here. More commonly these days, it is used as an honorific with the names of the prophets of Islam and other religious figures: /hazrat ibraahiim/, “the Prophet Abraham,” /hazrat alii/, “the Revered Ali.” (See 255.)

/aadaab/ or /aadaab-arz/ is another very common greeting. The same words are repeated in response. Usually the two parties would also raise their right hands to the forehead—a gesture of greeting and respect. The related verbs are /aadaab kahnaa/, “to send [the greeting],” and /aadaab karnaa/, “to offer [the greeting].” In this function, /aadaab/ is considered a masculine singular noun; in other contexts, /aadaab/ would be a plural noun, meaning “proper manners; etiquette”—e.g. /saaerii-kee aadaab/, “the protocol of poetry.” (See 1:17.)

14. /huzuur/, “sir; sire,” is more polite than /hazrat/, hence it is often used by itself to refer exclusively to the Prophet of Islam, Muhammad. For example, /huzuur-nee farmaayaa hai/ would be commonly understood as: “The Prophet Muhammad has said. . . .” It is, however, commonly enough used with other, more temporal addressees to indicate a very high degree of respect. (See 255.)

15. /arz-karnaa/, “to submit, to say in all humility.” Its opposite is /farmaanaa/, “to pronounce or declare.” Both verbs are essential to polite or formal conversation in Urdu. /farmaanaa/ will never be used with “I,” except in royal decrees. Likewise, /arz-karnaa/ will not be used with “you.” In other words, in formal speech, one would always use /arz-karnaa/, instead of /kahnaa/, with reference to oneself, and /farmaanaa/, instead of /kahnaa/, with reference to others (who are to be honoured). (See 257.)

jaisaa maiN-nee arz kiyaa thaa.... As I had said....

farmaaiyee, kahaaN caliyeegeaa Please tell me where we are going today.

16. /buxaar jaataa-rahaa hai/ : “The fever has gone away.”

In other contexts, /jaataa-rahnaa/ may idiomatically mean: “to die; to be lost.”

17. /us-kee xat-koo aae-huee bahot din huee haiN/ : “It has been many days since his letter arrived.” Lit. “Many days have passed upon his letter since it came.” Compare it with /un-kaa xat aae-huee bahot din huee haiN/; the latter, both literally and colloquially, would mean: “It has been many days since his letter arrived.” The former sentence, in other words, would imply a greater sense of regret, as if the letter underwent some unfair or improper treatment.

/hoonaa/ is used in an indirect construction, with units of time as its grammatical subject, to express the idea: “to undergo or experience or pass that unit of time.” It is further expanded by adding an adverbial phrase in which the verb occurs in either of the two participle forms, with or without a perfect participle of /hoonaa/ in its oblique form.

mujhee aae-huee doo din ho-gayee	It has been two days since I arrived.
ham-koo is iskuul meeN paRhtee-huee kaii saal hoo-gayee	We have been studying in this school for many years.
tum-see milee muddat hoo-gayii thii	It had been a very long time since I last met you.

18. /jawaab likhnaa zaruur hai/ : “To reply is a must.”

Such use of /zaruur/ is no longer common. Now /zaruur/ is used only adverbially: “certainly, definitely.” The related adjective is /zaruurii/, “necessary; required.”

19. /woo aap-kee farzand haiN/, “He is your son.” A polite expression, implying that Ghalib need not fear that the person’s feelings would be hurt.

20. /aap-see xafaa kyaa hooNgee/ : “How could he be angry at you!”

The use of /kyaa/ (without the sentence accent, which in this case will be on /aap/), with a quick rise and fall of pitch at the end (in this case, on /hooNgee/), implies complete negation in the same manner as /bhalaa/ (See note 5 above; also see 218.).

21. /sub-haan-allaah/, “Praise be to God,” is an exclamation used to express delight as well as wonder. It can also be used ironically, as is the case here.

22. /jaawee/ is an earlier, dialectal variant of /jaaee/.

23. /panj-sambee-koo/ : “on Thursday.”

Besides the commonly used names of the days of the week, Urdu also uses a set of names borrowed from Persian: /samba/, “Saturday,” /yak-samba/, “Sunday,” /doo-samba/, “Monday,” /seh-samba/, “Tuesday,” /cahaar-samba/, “Wednesday,” /panj-samba/, “Thursday,” /jum'a/, “Friday.” Note the spelling of /samba/. (See Unit VIII in the Script section.)

24. /hoos-kii xabar loo/ : “Come to your senses.”



/xabar leenaa/, NF, “to inquire after or take care of X /-kii/.” /xabar/, a feminine noun, by itself means, “news.” It is a count noun in Urdu: /eek xabar/, “one news,” /doo xabreeN/, “two news.”

25. /tumhaaree jaanee na jaanee-see mujhee kyaa ilaaqaa/ : “How am I concerned with whether you go or not!”

Here /ilaaqaa/ is being used almost in the same sense as /ta'alluq/, both being derived from the same Arabic root. The use of /ilaaqaa/, however, is more idiomatic. X /-koo/ or /-kaa/ Y /-see ilaaqaa hoonaa/, “for X to have some link or concern with Y.” Mostly used in rhetorical questions, as here. Elsewhere, /ilaaqaa/, a masculine noun, means, “region; estate.”

26. /...tumhaaraii baatooN-meeN aa-gayaa/ : “.... I fell for your talk.”

X /-kii baatooN-meeN aanaa/, “to be beguiled by X.”

27. /laa-haul-wa-laa-quuwat/, is the more commonly used abbreviated version of the Arabic longer expression, /laa-haulo-wa-laa-quwwato-illaa-billaahi-l-'aziim/, “There is no power and glory except in Almighty God.” This expression or its abbreviated form is recited by Muslims to express their abhorrence of something. It is also recited to avoid being tempted by something improper. The related verb is /laa-haul paRhnaa/.

28. Y /-kaa xayaal rakhnaa/, NM, “to bear Y (something) in mind.” Z /-kaa xayaal rakhnaa/, NM, “to take care of Z (someone).”

29. /ismat-e-biibii az bee-caadarii/, lit. “The lady's chastity is due to [her not having] a chador [to go out in].” A proverbial expression, same as the English, “to make a virtue of a necessity.”

## Exercises

### A. Situational variants.

۱۔ یوسف مرزا، میں کیسے تجھے لکھوں کہ تیرا باپ اس دنیا سے اٹھ گیا۔ اور اگر لکھوں تو اور کیا لکھوں، محض یہ کہ صبر کرو۔ یہ ایک پرانا بے مطلب رواج انسانوں میں ہے کہ جب کسی سے تعزیت کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ صبر کرو۔ پہلے تیرا بیٹا مرا پھر باپ بھی دنیا سے سدھارا۔ جس کے دل کو ایسی سخت چوٹیں لگیں وہ کیا صبر کر سکتا ہے! ایسے موقعہ پر نصیحت بیکار ہوتی ہے، نہ دوا اور دعا سے کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تمھاری دادی نے لکھا ہے کہ مرحوم کے رہا ہونے کا حکم آ گیا تھا۔ تب تو وہ بہادر شخص ایک وقت میں دو قیدوں سے چھوٹ گیا، یعنی زندگی کی قید سے بھی اور انگریزوں کی قید سے بھی۔

۲۔ صاحب آج موقع ہے، اگر اجازت دیں تو میری مہدی کے خط کا جواب دوں۔ نہیں بھی، یہ خط کئی دن سے آیا ہوا رکھا ہے۔ جواب دینا ضروری ہے۔ بھائی کوئی سبب تو بتاؤ کہ خط لکھنے سے کیوں روکتے ہو۔ یا اگر روکتے نہیں تو کیوں چاہتے ہو کہ ابھی جواب نہ لکھوں۔ میاں، تمھارے جانے یا رکنے سے مجھے کیا مطلب۔ لو بھی میری مہدی اپنے خط کا جواب لو۔ ایک بیماری تو دور ہو گئی اب دوسری کے دور ہونے کی خبر بھی جلدی لکھو۔ تمھارا پرہیز تو مجبوراً ہوگا۔ ابھی بارش ہو رہی ہے۔ جب رُکے گی تو نوکر خط لے کر ڈانخانے جائے گا۔

1. انسان	M	insaan	humankind, man
2. چوٹ لگنا	KF	cooT lagna	to receive a blow; to get hurt
3. بے کار		beekaar	useless
4. مرحوم	M	marhuum	the deceased
5. رہا ہونا		rihaa-hoonaa	to be freed

6. یعنی		yaanii	that is; i.e.
7. بھئی		bhain	See
8. بیماری	F	biimaarii	illness; disease
9. مجبوراً		majbuuran	perforce
10. ڈاک خانہ	M	Daak-xaanaa	post office

## B. Translate into English

چھوٹے بچے کو کیوں کر سمجھایا جائے کہ آگ کے قریب جانا اچھا نہیں۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ تمہارا وہاں جانا ضروری ہے۔ اگر میں وہاں جاؤں تو احمد صاحب سے ضرور ملاقات ہوگی۔ اگر علی یہاں آئے تو کہنا کہ میں اسی کے گھر گیا ہوں۔ مصیبت پر صبر کرنا بہادر انسان کا شیوہ ہے۔ یوسف صاحب اس بارے میں کچھ نہیں جانتے، اُن کو اس بات میں کچھ دخل نہیں۔ کمزوری کی وجہ سے اس لڑکے کو کھیل سے کچھ لگاؤ نہیں۔ ماں کے منع کرنے کے باوجود چھ پانی میں کھیلتا رہا۔ شوکت صاحب کا خط آیا ہے، اُنہوں نے لکھا ہے ”مہدی صاحب کو آداب عرض کرتا ہوں۔“ مجھے اُن کے پاس گئے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں۔ نہ تو وہ خود آئے اور نہ کسی کو بھیجا۔ جب بادشاہ نے دربار میں سوال کیا تو سب خاموش رہے مگر فلسفی نے جواب میں عرض کیا ”میں اُس کا علاج کر سکتا ہوں۔“ مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں ورنہ میں تو سب کچھ سچ بتا دیتا۔ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ سے کیوں کر خفا ہو سکتا ہوں۔ تندرست ہونے کے لئے ڈاکٹر کا بتایا ہوا پرہیز ضرور کرنا چاہیے۔ کل سے مجھے بخار ہے اور طبیعت ٹھیک نہیں، اس لئے میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ میں تو انہیں ہمیشہ خط لکھتا ہوں مگر اُن کی طرف سے جواب ہی نہیں آتا۔ میرے خیال میں آپ کچھ دن نہ تو کچھ کھائیں اور نہ کچھ پیئیں۔ جب آپ جاوید سے ملیں تو میری طرف سے یہ کہیں کہ اُنہیں دیکھے ہوئے کئی دن ہو گئے۔ اُن کو یہاں آئے ہوئے ایک مہینہ ہو گیا لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی آئے ہیں۔ محمد علی اور شوکت علی دونوں کئی سال انگریزوں کی قید میں رہے۔ آپ کے خفا ہونے کے ڈر سے میں یہاں جلد چلا آیا۔ اگر احمد آتا تو آپ سے ضرور ملتا۔ دریا کی سیر کے

لئے آپ بھی چلتے تو اچھا ہوتا۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر سید احمد خاں کوشش نہ کرتے تو مسلمانوں کی حالت نہ سدھرتی۔ کل میں نے ڈاک کے ذریعہ کچھ کتابیں روانہ کیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ احمد کی والدہ کا انتقال ہو گیا؟ جس کو ایسی تکلیف پہنچے وہ بھلا کیوں نہ روئے۔ وہ بچہ چھوٹا ہونے کے باوجود شوق سے پڑھتا ہے۔ مجھے اس بات کا شوق ہے کہ آپ سے ایک غزل سنوں۔ میرے چچا نے آپ کو دُعا اور آپ کے والد کو سلام لکھا ہے۔ اُس لڑکی کو شوق تھا کہ ساری دنیا کا سفر کرے، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے اُس نے پیسہ جمع کرنا شروع کیا۔ یہ بری بات ہے کہ تم پر ہیز کا خیال نہیں رکھتے۔ آخر کیا سبب ہے کہ تم خود تو وہاں جاتے ہو مگر مجھے جانے سے باز رکھتے ہو؟ کیوں حضرت، آج کس طرف جانے کا خیال ہے؟ جب احمد کو اس بات میں کچھ دخل نہیں تو آخر وہ خاموش کیوں نہیں رہتا؟

### C. Fill in the blanks.

اور اگر لکھوں تو پھر آگے کیا..... کہ اب کیا..... تعزیت یوں..... کیا کرتے..... کہ صبر..... بھلا کیوں کر..... تڑپے گا۔ مجھ..... اگر کوئی پوچھے کہ بے سرو پا کس..... کہتے ہیں تو میں..... یوسف مرزا کو۔ اگر سچ ہے..... جواں مرد ایک ساتھ..... قیدوں..... چھوٹ گیا۔ تو حضور میں کیا منع..... میں..... ہر خط میں آپ کی..... سے دعا لکھ دیتا ہوں۔ نہیں میرن صاحب، اس کے خط..... آئے..... بہت دن ہوئے..... بھائی آخر..... وجہ تو بتاؤ کہ تم مجھے خط..... سے کیوں باز رکھتے..... سچ تو یہ..... کہ جب آپ کا خط..... اور وہ پڑھا جاتا تو میں..... اور حظ..... میری روانگی کے تین دن..... خط شوق..... لکھیے گا۔ اس وقت پہلے تو آندھی..... پھر مینھ.....

### D. Translate into urdu.

I. Tell me how I can go there. II. The first son is cleverer than the other sons. III. When his father died he had to drop out of the school. IV. The old man had received orders of his release. V. After that they did not

prevent him from going out. VI. She might be angry, for I didn't go to her house yesterday. VII. If you are my friend, why are you angry with me? VIII. The truth is that I did not write a letter to the doctor. IX. Did you get the letter I wrote you ten days ago? X. It's not good that you don't take care of your business. XI. Despite all my efforts I was not able to pass the final examination. XII. I don't want you to go there every day. XIII. It has been some time since I read this book. XIV. Neither you nor your brother can help Ahmad in this matter. XV. He didn't come himself, and didn't send his brother either. XVI. It has been three years since he died. XVII. How many hours has it been since she came here? XVIII. You didn't tell me otherwise I would have come early. XIX. Since childhood she is very fond of reading such books. XX. I have no expertise in cooking.

**E. Answer the following in Urdu.**

۱- غالب نے پہلا خط کس کو لکھا اور اُس میں کس کے مرنے کی خبر دی؟ ۲- کیا آپ کے یہاں تعزیت کا طریقہ کچھ مختلف ہے؟ ۳- کیا تمہارے دادا اور دادی ہیں؟ اگر ہیں تو کہاں رہتے ہیں؟ ۴- ”دونوں قیدوں“ سے چھوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ ۵- بول چال کی زبان کس خط میں زیادہ استعمال کی گئی ہے؟ ۶- میرن صاحب کیوں نہیں چاہتے کہ غالب خط لکھیں؟ ۷- کیا آپ کے یہاں بھی علاج میں پرہیز ضروری سمجھا جاتا ہے؟ ۸- ”دعا“ کا استعمال کہاں ہوتا ہے، اور ”آداب“ کا کہاں؟ کیا آپ کو اس طرح کے کچھ اور الفاظ اُردو میں معلوم ہیں؟ ۹- لوگ کہتے ہیں کہ غالب کا خط لکھنے کا انداز بہت دلچسپ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ۱۰- غالب کے انداز میں خط لکھنا آسان ہے یا مشکل؟ کوشش کر کے بتائیے۔

## امریکہ کی نیگرو آبادی کو مساویانہ حقوق دیے جائیں

کیتھولک چرچ کی طرف سے ایک اہم مہم کا آغاز

نیویارک۔ یکم جولائی۔ امریکی کیتھولک چرچ کی طرف سے امریکہ کی نیگرو آبادی کو مساویانہ حقوق دیے جانے کے مطالبہ کی زبردست حمایت کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں بشپ برنارڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دنیا میں تمام کیتھولک لوگوں کو یہ حقیقت محسوس کرنی چاہیے کہ امریکی نیگرو، جو کہ ہمارے بہن بھائی ہیں اور اپنے حق اور آزادی کے لئے زبردست کوشش کر رہے ہیں، اور ہم سب ایک ہی خدا کے بیٹے ہیں اور ہر ایک کو جینے کا حق ہے۔ انہوں نے پروٹسٹنٹ نیگرو لیڈر مارٹن لوتھر کنگ کی تحریک کی زبردست حمایت کی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ امریکہ کے جنوبی شہروں میں نیگرو آبادی نسلی امتیاز کی پالیسی کے خلاف ایک زبردست تحریک چلا رہی ہے۔

# مذہب کی بنیاد پر ملازمت میں کوئی امتیاز نہیں

امریکی صدر ہل کلنٹن نے نئی پالیسی کا اعلان کیا

واشنگٹن ۱۷ اگست۔ امریکی صدر ہل کلنٹن نے ایک نئی مذہبی پالیسی کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت مذہب کی بنیاد پر سرکاری ملازمت میں کوئی امتیاز نہیں روا رکھا جائے گا، اور سرکاری ملازمین کو اپنی سب تقاریب کا بھی تحفظ<sup>۸</sup> حاصل ہوگا بشرطیکہ سرکاری امور میں اس سے رخنہ نہ پڑے۔<sup>۱۰</sup>

مسٹر کلنٹن نے پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے مختلف مذہبی اور شہری آزادیوں سے متعلق تنظیموں کے نمائندوں کو بتایا کہ امریکہ کی اصل طاقت اس کے کثیر نسلی اور کثیر مذہبی نظام میں مضمر ہے۔<sup>۱۲</sup>

## Unit XXIII: Notes

1. /amriikaa/, "America," may be written with either a final /alif/ or a final /chooTii hee/. The full name in Urdu is: /riyaasat-haa-e-muttahida-e-amriikaa/.
2. /aabaadii/, a feminine noun, means "population" as well as "an inhabited or populated space." Related adjective: /aabaad/, "settled; inhabited."  
 un-kaa ghar aabaadii-see baahar hai His house is outside the city.  
 is shahar-kii aabaadii kitnii hoogii What would be the population of this city?
3. /musaawiyaanaa/, "equitable;" /musaawii/, "equal;" X/-kee musaawii/, "equal to X."
4. /yakum/ is an ordinal number borrowed from Persian. Its use in Urdu is generally limited to: "the first [of a month]." Other dates will be indicated in Urdu by using the cardinal numbers: /doo juulaaii/, "July 2." In this context, /eek/ will not be used, though the feminine ordinal form, /pahlii/, (agreeing with /taariix/, "date") may be used instead of the more learned /yakum/. (Also see Unit 8 in the Script section.)
5. /amriikan niigroo . . . aur ham sab. . . / : "The American Negroes and we, all of us...."

In the context of a pronoun, an inclusive collectivity or an exact number is indicated by putting /sab/ or that number after the pronoun.

ham sab laRkee	all of us boys
ham caar wahaaN jaaeeNgee, baaqii laRkee yahiiN ThaireeNgee	We four will go there; the rest of the boys will stay right here.
ham caarooN-nee soocaa....	All four of us thought....

(See 38 and 195.)

6. /naslii imtiyaaz/ : "racial discrimination."  
 /imtiyaaz/, M, "distinction; discrimination, valuing one thing above another."  
 ham-koo nasl yaa mazhab-kii We should not discriminate on the basis of  
 buniyaad-par imtiyaaz na karnaa race or religion.  
 caahiyee  
 ahmad-nee is kaam-meeN imtiyaaz Ahmad gained a name in doing this kind of  
 haasil kiyaa work.
7. /kooii imtiyaaz nahiiN rawaa rakhaa-jaaegaa/ : "No distinction will be tolerated."

/rawaa/, by itself, means: "ethically allowed or permitted." It is more commonly used in combination with the following verbs: /jaanna; samajhnaa/, "to consider X /-koo/ permissible;" /rakhnaa/, "to view X /-koo/ as permissible and also let it occur."

maiN aisii baatooN-koo rawaa	I don't consider such things permissible.
nahiiN samajhta	



8. /tahaffuz/, a masculine noun, is used in Urdu to express “protection” in the larger, more abstract sense, whereas /hifaazat/, a feminine noun, expresses “protection” of a narrower, more concrete or physical kind.

woo apnee usuul-kee tahaffuz-kee liee sab kuch kar-saktaa hai	He can do anything to preserve and protect his principles.
unhooN-nee ghar-kii hifaazat-kee liee eek kuttaa rakkha hai	He has kept a dog to protect his house.

9. /ba-sartee-ki/, lit. “with the condition that. . .” Same as: /sart ye hai ki/.

/sart/, F, “condition, requirement.” Related verbs: /sart rakhnaa/, “to place a condition concerning X /-meeN/,” /sart lagaanaa/, “to lay a condition on X /-par/.” Related adverb: /[eek] sart-par/, “on [one] condition.” (/sart/ also means “a bet or wager; a guarantee.” Related verb: /sart lagaanaa/, “to bet with X /-see/ concerning X /-meeN/.”)

maiN wahaaN eek sart-par jaauuNgaa	I’ll go there on one condition.
is kaam-meeN us-nee mujh-par kooii sart nahiiN rakhii	He didn’t put any condition on me concerning this matter.

10. /...raxnaa na paRee/ : “...no obstruction is caused.”

/raxnaa/, M, “break, cleavage, obstruction.”

11. /sahrii aazaadii/, “civil rights.” /sahrii/ also means “a citizen.”

12. /asl taaqat . . .meeN muzmar hai/, “. . . the real power is hidden in. . .”

/muzmar/ does not mean “deliberately hidden.” It is related to /zamiir/, “heart; the innermost of heart.” In other words, /muzmar/ would mean “lies deep within; is at the heart of; arises out of.”

## Exercises

### A. Situational variants.

امریکہ کی نیگرو آبادی کو برابر حقوق ملنے چاہئیں۔ امریکی کیتھولک چرچ نے امریکہ میں رہنے والے نیگروؤں کو دوسروں کے برابر حقوق دینے کے مطالبہ کی حمایت کی ہے۔ اس بات کے متعلق بشپ برنارڈ نے بھی ایک بیان دیا ہے جس میں کہا ہے کہ دنیا کے سارے کیتھولک لوگوں کو یہ حقیقت مان لینی چاہیے کہ امریکہ میں رہنے والے نیگرو ہمارے بہن بھائی ہیں۔ یہ لوگ اپنے حقوق اور آزادی کے لئے ایک بہت بڑی مہم میں لگے ہوئے ہیں۔ سب انسان ایک ہی خدا کی اولاد ہیں اور سب کو جینے کا حق ہے۔ انھوں نے نیگرو لیڈر مارٹن لوتھر کنگ کی تعریف کی اور ان کی تحریک میں مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ امریکہ کے جنوبی حصوں میں نیگرو آبادی کو ابھی سماجی آزادی پوری طرح حاصل نہیں۔ وہ آج کل اپنے سیاسی حقوق حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

سرکاری ملازمتوں میں مذہبی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں کیا جائے گا۔ سب سرکاری ملازم اپنے مذہبی فرائض آزادی سے ادا کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے کوئی سرکاری کام نہ ٹلنے پائے۔ ان باتوں کا اعلان صدر امریکہ نے ایک خاص جلسے میں کیا جس میں مختلف مذہبی اور قانونی تنظیموں کے نمائندے بلائے گئے تھے۔ انھوں نے کہا کہ امریکا کی طاقت دراصل یہ ہے کہ یہاں ہر نسل کے لوگ اور ہر مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں۔

1. اولاد	F	aulaad	progeny
2. تعریف	F	taariif	praise
3. تعریف کرنا	NF	taariif karnaa	to praise X /-kii/
4. فرائض	Mp	faraaiz	duties; pl. of فرض
5. شرط	F	sart	condition

## B. Translate into English.

ہندوستان کی آبادی ہر سال زیادہ سے زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ ہر انسان کو دوسرے کے ساتھ مساویانہ سلوک کرنا چاہیے۔ نسلی یا مذہبی امتیاز کو روا رکھ کر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ صدر نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ میں بھی اس تحریک کی حمایت کرتا ہوں۔ نسلی یا مذہبی امتیاز آج کی دُنیا میں کسی طرح پسند نہیں کیا جاسکتا۔ ہم کو حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ جب ہمارا خدا ایک ہے اور ہم سب اُس کے ہی بیٹے ہیں تو ہم کو برابر کے حقوق بھی ملنے چاہئیں۔ کل شام کو ایک زبردست آندھی چلی جس کی وجہ سے کئی درخت گر گئے۔ دربار میں اُس شخص نے بادشاہ کے سامنے غلام کی حمایت کی اور اُسے قید سے بچالیا۔ اِس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پچھلے پچاس سالوں میں ملک کی حالت بہت بدلی ہے۔ انسان کو محنت میں ذلت نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ وہ صاحب جو آپ سے بات کر رہے تھے، اکثر حقیقت سے کام نہیں لیتے۔ بچہ گرمی محسوس کر کے آگ کے قریب نہیں جاتا ہے۔ دُنیا کے سارے ملک اب اپنے اپنے حقوق مانگنے لگے ہیں۔ افریقہ کے اکثر ملک آزادی حاصل کر چکے ہیں۔ مارٹن لوتھر کنگ کا کام قابل ذکر اور قابل تعریف ہے۔ جنوبی افریقہ کی نسلی امتیاز کی پالیسی کو سب لوگ بری نظر سے دیکھتے تھے۔ انسان کو سمجھ اِس لئے دی گئی ہے کہ وہ اچھی اور بری چیز میں امتیاز کرے۔ کسی تحریک کے چلانے کے لئے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کا ہر ملک کسی دوسرے ملک کی غلامی کی بجائے آزاد رہنا چاہتا ہے۔ آج کل ساری دنیا میں سیاسی اور معاشی غلامی کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں۔ میری جانب سے اُن کو سلام کہیے گا۔ اِس نئی پالیسی کے تحت مذہبی اسکولوں کو بھی سرکار مدد دے گی۔ میں ضرور کھانے کے لئے آؤں گا بشرطیکہ کھانا آپ خود پکائیں۔ نسلی امتیاز کے خلاف کام کرنے میں اُن کو امتیاز حاصل ہے۔ اپنی کتابوں اور سماجی کاموں کی بدولت نجمہ نے بڑا امتیاز حاصل کیا۔ میرے آنے سے آپ کے کسی ضروری کام میں رخنہ تو نہیں پڑا؟ اِس تقریب میں کتنے لوگوں نے حصہ لیا؟ مذہب کی بنیاد پر کوئی سیاسی تحریک بنانا ٹھیک نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ حکومت کا اِس اعلان سے کیا مطلب ہے۔ آج گرمی کچھ زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔

کیا آپ نے بھی محسوس کیا کہ احمد کے خیال اب بدل گئے ہیں۔ اُن کے بیان میں جو زبان استعمال کی گئی ہے اُس کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ عوام نے جو مہم چلائی اُس سے مجبور ہو کر حکومت سب کو مساوی حقوق دینے پر مجبور ہو گئی۔ سیاسی حیثیت سے اُن کا یہ بیان بہت اہم مانا جا سکتا ہے۔ صرف زبانی حمایت سے کیا فائدہ، اِس سلسلے میں کچھ کوشش بھی تو کرو۔ والدین کو اپنی اولاد کے درمیان امتیاز نہ کرنا چاہیے۔ نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا اسلام کے فرائض میں شامل ہے۔

### C. Fill in the blanks.

امریکہ کی نیگرو..... کو مساویانہ..... دیے جائیں۔ امریکی کیتھولک چرچ کی طرف سے امریکہ کی..... آبادی کو..... حقوق دیے جانے کے..... کی زبردست..... کی گئی ہے۔ اِس سلسلہ..... بشپ برنارڈ نے ایک..... میں کہا ہے کہ..... میں تمام کیتھولک لوگوں کو یہ حقیقت محسوس کرنی..... کہ امریکی نیگرو جو کہ ہمارے بہن..... ہیں اور اپنے حق اور آزادی..... ایک زبردست کوشش کر رہے ہیں اور ہم سب ایک ہی..... کے بیٹے ہیں اور..... ایک کو جینے کا..... ہے۔ انہوں نے پروٹسٹنٹ نیگرو..... مارٹن لوتھر کنگ کی..... زبردست حمایت..... یہ بات قابل ذکر ہے کہ امریکہ کے..... شہروں میں نیگرو آبادی..... امتیاز کی پالیسی کے..... ایک زبردست تحریک چلا رہی ہے۔ مذہب..... بنیاد..... ملازمت میں..... نہیں۔ امریکی..... نے ایک نئی مذہبی پالیسی کا..... ہے۔ سرکاری ملازمت میں کوئی..... نہیں روا..... سرکاری..... کو اپنی سب..... کا بھی..... حاصل..... بشرطیکہ سرکاری..... اِس سے رخنہ نہ.....

### D. Translate into Urdu.

I. The population of this city seems to be quite large. II. The most important right of a man is his right to live. III. I felt that he didn't want to come here today. IV. We should help them, for they are fighting for human rights. V. Everyone has supported their demands. VI. Because he was new in the city, no one came to his help. VII. He recently

published an important book on this topic. VIII. The beginning of every work looks difficult. IX. It is worth mentioning that the boy saved the passengers from death. X. People of all races live freely in this city. XI. I felt a great joy when I finally met him. XII. What do you think of this new social movement? XIII. India and Pakistan gained independence in 1947. XIV. His demand was supported by so many organizations that the government had to concede. XV. This movement is against all such outdated customs. XVI. How can anyone be against giving equal rights to all human beings? XVII. I have nothing to do with his movement. XVIII. When his mother passed away we too went to offer condolences. XIX. He was badly hurt when he fell from the roof. XX. I'm not stopping you, but I do say, "Be patient for a while."

**E. Answer the following in Urdu.**

- ۱- مذہبی یا نسلی امتیاز کا کیا مطلب ہے؟ ۲- امریکہ کی نیگرو آبادی کا مطالبہ کیا ہے؟
- ۳- بشپ برنارڈ نے اپنے بیان میں کیا کہا؟ ۴- مارٹن لوتھر کنگ کی تحریک کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ۵- امریکہ کے کس علاقے میں نیگرو آبادی کی حالت اب بھی کافی خراب ہے؟
- ۶- کیا تم نے کسی تحریک میں حصہ لیا ہے؟ ۷- کیا امریکہ کے شہروں میں نیگروؤں کی حالت بہتر ہے؟ ۸- مسلمانوں کے مذہبی فرائض کیا ہیں؟ ۹- مذہبی تقاریب کے تعلق سے صدر نے کیا اعلان کیا ہے؟ ۱۰- صدر کے خیال میں امریکہ کی طاقت کا راز کیا ہے؟

## Review Sentences

- ۱- میں تمہیں کیونکر سمجھاؤں کہ دھوپ میں نہ کھیلا کرو۔ ۲- تم کو جاوید کے باپ کے مرنے کی خبر کیونکر ملی؟ ۳- صدر کا یہ اعلان حقیقت کے خلاف ہے۔ ۴- کیا تم نے اُن کے والد کی تعزیت میں احمد صاحب کو خط لکھ دیا۔ ۵- وہ اپنے لکھنے پڑھنے کا کام یوں ہی کیا کرتا ہے۔
- ۶- بھلا اس طرح بھی کوئی سائیکل چلایا کرتا ہے! ۷- بھلا بتاؤ کہ اگر کسی کا باپ مر جائے تو کیا اُس کو تکلیف نہ پہنچے گی! ۸- نہ دن کا خیال نہ رات کا، بھلا یہ بھی کوئی کام کرنے کا طریقہ ہے!
- ۹- بچوں کو شروع میں جو طریقہ پڑھنے کا بتایا جاتا ہے وہ بیچارے اسی طرح سے پڑھتے ہیں۔
- ۱۰- بچوں کو شروع ہی سے اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کے آداب سکھانے چاہئیں۔
- ۱۱- ہندوستانی علاج میں ہمیشہ کسی نہ کسی چیز سے پرہیز بھی بتایا جاتا ہے۔ ۱۲- ہر بچے کو اپنے ماں باپ اور بھائی بہن سے لگاؤ ہوتا ہی ہے۔ ۱۳- میرے دوست کو کھیلوں سے کسی قسم کا لگاؤ نہیں۔ ۱۴- جب جاوید بے سرو پا باتیں کرنے لگتا ہے تو اُس کی باتیں مجھے اچھی نہیں لگتیں۔
- ۱۵- پڑھے لکھے لوگ بھی جب اس طرح کی بے سرو پا حرکتیں کرنے لگیں تو بہت تعجب ہوتا ہے۔
- ۱۶- میں اسٹیشن پہنچا تو اُس وقت تک ریل چھوٹ چکی تھی۔ ۱۷- حکومت مجرموں کو قید سے آزاد کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ ۱۸- میں جب تک لڑکے کی مدد کو پہنچوں وہ پانی میں ڈوب کر مر چکا تھا۔ ۱۹- اُن کی صلاح کے مطابق کروگے تو فائدہ ضرور ہوگا۔ ۲۰- خدا کا شکر ہے کہ اس مصیبت سے میری جان جلد چھوٹ گئی۔ ۲۱- میں نہ تو اُن سے ملنے گیا نہ اُن کو خط ہی لکھ سکا۔ ۲۲- جاوید نے آج دن بھر نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ ۲۳- میں نے محسوس کیا کہ وہ اُس موضوع پر بات کرنا نہیں چاہتی۔ ۲۴- اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اُن کے پاس یہ کتاب بھیج دوں۔ ۲۵- میں بازار ضرور جاؤں گا بشرطیکہ پانی نہ برسنے لگے۔ ۲۶- اب اُنھیں کوئی خاص تکلیف نہیں، صرف بخار باقی ہے۔ ۲۷- میرے پاکستان واپس جانے میں صرف چار دن باقی تھے جب میں بیمار پڑ گیا۔ ۲۸- میرے پاس کے سارے روپے ختم ہو گئے ہیں، صرف چند

پیسے باقی ہیں۔ ۲۹- اُنہوں نے اپنی طرف سے تو امتحان میں کامیاب ہونے کی بہت کوشش کی۔  
 ۳۰- اگر تم اجازت دو تو تمہاری طرف سے جاوید کو یہاں آنے کے لئے لکھ دوں۔ ۳۱- ہم  
 وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے اس کام میں کوئی دیر نہ ہوگی۔ ۳۲- جاوید کو لکھنو گئے  
 ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں۔ ۳۳- مجھ کو ”یادگارِ غالب“ پڑھے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں۔  
 ۳۴- شمیم صاحب کے اشعار سنے ہوئے تو مدت ہو گئی۔ ۳۵- اُنہوں نے دوسرا گھر آبادی  
 کے باہر بنوایا۔ ۳۶- جنوبی علاقوں میں نسلی تعلقات پہلے کے مقابلے میں کافی اچھے ہیں۔  
 ۳۷- جو لوگ بچوں کو کھیلنے سے باز رکھتے ہیں وہ اچھا نہیں کرتے۔ ۳۸- حکومت کو چاہیے کہ  
 لوگوں کو جانوروں کو تکلیف پہنچانے سے باز رکھے۔ ۳۹- میں آج رات کو دہلی کے لئے روانہ  
 ہو رہا ہوں۔ ۴۰- میں نے ملازم سے کہہ دیا ہے کہ تمہارا سامان ریل کے ذریعہ بھیج دے۔  
 ۴۱- میرے بھائی نے لکھا ہے کہ اُس نے آپ کی کتاب کل ہی روانہ کر دی ہے۔ ۴۲- والد  
 صاحب کی روانگی کے بعد اُن کی چیزوں کا میں ہی خیال رکھوں گا۔ ۴۳- جو شخص اپنی تندرستی کا خود  
 خیال رکھے گا اُس کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ ۴۴- آپ کے خط لکھنے یا نہ لکھنے سے مجھے کیا  
 دلچسپی۔ ۴۵- جب تمہاری ضرورت رفع ہو جائے تو میری کتاب واپس کر دینا۔ ۴۶- ہر وہ  
 کام جس کا آغاز اچھا ہوتا ہے ختم بھی اچھی طرح سے ہوتا ہے۔ ۴۷- امریکہ کے لوگ اس  
 بات کو محسوس کرتے ہیں کہ نیگرو آبادی کے مطالبہ کو زبردست حمایت حاصل ہے۔ ۴۸- نیگرو  
 آبادی کے حقوق کے مطالبہ کے سلسلے میں مارٹن لوتھر کنگ کے بیان کو سب سے زیادہ اہمیت دی  
 جاتی تھی۔ ۴۹- آج کل نسلی امتیاز کو بالکل پسند نہیں کیا جاتا اور ہر وہ تحریک جو اُس کے خلاف  
 ہو اُس کی حمایت کی جاتی ہے۔ ۵۰- یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اسلام نے کئی سو سال  
 پہلے ہی نسلی امتیاز کو ختم کر دینے کا اعلان کر دیا تھا۔

## اکبر الہ آبادی

سید اکبر حسین نام اور اکبر تخلص تھا۔ الہ آباد کے رہنے والے تھے۔ ۱۶ نومبر ۱۸۴۶ء کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اردو، فارسی، عربی کے علاوہ انگریزی سے بھی خوب واقف تھے۔ نہایت معمولی درجے کی نوکری سے ترقی کرتے کرتے سنن ججی کے عہدے تک پہنچے۔

اکبر کا زمانہ ہندوستان کی سماجی اور سیاسی زندگی میں ایک عظیم تبدیلی کا زمانہ ہے۔ غدر کے بعد انگریزی حکومت پورے ملک پر چھا گئی تھی۔ نئے حاکموں کی تہذیب کے سامنے ملک کی پرانی تہذیب کا چراغ بجھنے والا تھا۔<sup>۱</sup> غلام اور محکوم قومیں ہمیشہ اپنے حاکموں کی نقل کرتی ہیں اور اس حد تک کہ<sup>۲</sup> اپنی اچھی چیزیں بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ یہی حال اُس وقت ہندوستانیوں کا تھا۔ مسلمانوں میں خاص طور پر یہ تحریک زور پر تھی۔ سرسید اور اُن کے ساتھیوں نے جو تحریک چلائی تھی اور جن مقاصد<sup>۳</sup> کے لئے علی گڑھ کالج قائم کیا تھا اُن کی شکل زمانے کے ہاتھوں بدل چکی تھی۔ مغرب پرستی اور انگریزوں کی غلط صحیح<sup>۴</sup> نقل عزت کی بات سمجھی جاتی تھی۔ انگریزی تعلیم سے کلر کی تو مل جاتی تھی مگر ساتھ ہی ساتھ لوگ اپنی تہذیب اور مذہب سے بھی بیگانہ<sup>۵</sup> ہوتے جا رہے تھے۔ اکبر نے سماج کا یہ رنگ<sup>۶</sup> دیکھا اور ان خرابیوں کو دور کرنا چاہا۔ اس مقصد کے لئے اُنھوں نے مولویوں کی طرح وعظ نہ دیے بلکہ اپنی ظریفانہ شاعری سے کام لیا۔ ہنسی کے پردے میں



نصیحت کی اور مذاق میں کام کی بات سکھائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اُن کی باتوں کو سب نے سنا اور اثر لیا۔ اُن کے ظریفانہ اشعار لوگوں کو ہنساتے مگر ساتھ ہی ساتھ سوچنے پر بھی مجبور کرتے تھے۔ اکبر شاعر تھے لیڈر نہ تھے، اِس لئے اُن کی شاعری میں ہم کو ہر طرح کے خیالات ملتے ہیں۔ ترقی پسند بھی اور قدامت پرست بھی۔ اُنھوں نے قوم کے سامنے کوئی مکمل پروگرام نہیں بنا کر رکھا، صرف اُس کو اُس کی غلطیوں اور کمزوریوں سے آگاہ کرتے رہے۔ اُن کی قوم نے اُن کی باتوں کو دھیان سے سنا اور اُن کی شاعری کو دل میں جگہ دی۔ اُن کے اشعار آج بھی لوگوں کو اسی طرح یاد ہیں<sup>۱۲</sup> جیسے اکبر کے زمانے میں تھے۔

اکبر کا انتقال ۲ ستمبر ۱۹۲۱ء کو الہ آباد میں ہوا۔

## اکبر کے چند آسان اشعار

مصیبت میں بھی اب یادِ خدا آتی نہیں اُن کو  
دعا منہ سے نہ نکلی، پاکٹوں سے عرضیاں نکلیں<sup>۱۳</sup>

ہے یہی بہتر علی گڑھ جا کے سید سے کہوں  
مجھ سے چندہ لیجئے، مجھ کو مسلمان کیجئے<sup>۱۴</sup>

قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ  
رنج لیڈر کو بہت ہیں مگر آرام کے ساتھ<sup>۱۵</sup>

ہوئے اس قدر مہذب، کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا  
کئی عمر ہوٹلوں میں، مرے اسپتال جا کر<sup>۱۶</sup>

سید اٹھے جو گزٹ لے کے تو لاکھوں لائے  
شیخ قرآن دکھاتے پھرے پیسہ نہ ملا<sup>۱۷</sup>

دستِ نازک سے جو اس کے پائی ٹی  
رہ گئی اکبر کی ساری پائی ٹی<sup>۱۸</sup>

## Unit XXIV: Notes

1. “Akbar of Allahabad.”

The place of origin of a writer is often indicated in Urdu after his name to make his identity unambiguous; this is particularly done in the case of poets, who are generally better known by their /taxallus/. (See 1:20.) This is done by making an adjectival form from the name of the city, which is then placed after the poet’s name or /taxallus/. The adjectival form is made by adding /-ii/ to the names that end in a consonant, and /-wii/ or /-awii/ to the names that end in a vowel. Examples: /lakhnawii/ from /lakhnauu/; /dihlawii/ from /dihlii/; /laahaurii/ from /laahaur/.

2. An idiomatic expression. The analogy is based on the fact that in the presence of a relatively much brighter light, the other not so bright lights become useless, and are extinguished.

3. /is had tak ki . . . / : “to such an extent that. . . .”

/had/, F, “extent; limit.” Not to be confused with /sarhad/, F, “border, as of a country.”

4. /maqaasid/, plural of /maqsad/, “purpose, goal; intention.”

It may be useful to learn /maqsad/ together with three other words: /niiyat/, /iraadaa/, and /matlab/. /niiyat/, a feminine noun, means “intention,” as in “My intentions were good.” In other words, it is more often used with some moral or religious connotation. /iraadaa/, a masculine noun, does not have any such connotation; it is “intention” in the sense of simply a desire or plan to do something. Both words are used with /karnaa/ to form related verbs. /maqsad/, on the other hand, refers to the intended goal or end. No simple verb is made from it. /matlab/, on the other hand, may sometimes connote a selfish purpose or aim. (See 3:19.)

5. / . . . zamaanee-kee haathooN/ : “at the hands of Time.”

X /-kee haathooN/: “at X’s hands.” An adverbial phrase, it should be distinguished from X/-kee haath/, “through or with Z.”

is qaanuun-kee haathooN meeraa    I’m in a bad state due to this law.  
buraa haal hai

maiN yee kitaab ahmad-kee haath    I’ll send this book with Ahmad.  
bheejuuNgaa

6. /maGrib-parastii/, an abstract noun made from /maGrib-parast/, an adjective, which in turn consists of /maGrib/, “the West,” and /-parast/, a Persian verbal noun, meaning “-worshipper.” Hence, /maGrib-parast/, “one who worships the West.” Likewise, /but-parast/, “idol-worshipper.” (Also see note 11 below.)

7. /Galat-sahiih/ is not exactly the same as either /Galat aur sahiih/ or /Galat yaa sahiih/; it, however, is closer to the first than the second. It suggests a careless mixture of both “right and wrong.”

8. /saath hii saath/, “simultaneously; along with it.”

9. /beegaanaa/, ending in a /chooTii hee/ and being relatively uncommon, may be used as an unmarked adjective as well as a marked one.

10. /rang/, lit. “colour,” is used metaphorically to mean “attitude; condition or state.”  
 aaj too baazaar kaa rang hii duusraa The market looks very different today.  
 hai

ghar-kaa rang jaldii badleegaa The state of affairs at home will soon change.

11. /taraqqii-pasand/, “one who likes progress; progressive.”

Compound adjectives made with the Persian verbal noun /-pasand/ may be of two kinds, one meaning “one who likes X,” the other meaning “one who is liked by X.” The first kind are now much more common. Examples: /jiddat-pasand/, “an innovative person;” /dil-pasand/, “likable; (lit. liked by the heart);” /awaam-pasand/, “popular; liked by the masses.”

The words made with /-pasand/ connote approval, as opposed to the words made with /-parast/, which normally carry a negative connotation. (See note 6 above.) For example, /taraqqii-pasand/, “a progressive person,” but /taraqqii-parast/, “one who blindly puts his faith in Progress.” Likewise, a conservative person would describe himself as /qadaamat-pasand/, while his detractors could label him /qadaamat-parast/, “a worshipper of antiquity.” Compare, however, /watan-parast/, “a patriot; lit. one who worships his mother land,” and /haq-parast/, “a votary of Truth”—they carry no bad connotation. (Also see 8:28.)

12. /yaad/, is used both as a feminine noun, “memory, remembrance,” and as an adjective, “remembered, memorized.” And example of the first usage would be: /ahmad-kii yaad-meeN.../, “In Ahmad’s memory....” (Also see /yaad aanaa/ below.) As an adjective, it is mostly used in a number of verbs:

/yaad-hoonaa/: K : “to know X by heart; to remember X well.”

mujhee un-kaa pataa yaad-hai I remember his address.

tum-koo ahmad yaad-hai? Do you remember Ahmad?

/yaad-karnaa/: N : “to memorize X; to remember or recall (voluntarily) X /-koo/.”

baccaa sabaq yaad-kar rahaa thaa The child was memorizing the lesson.

woo ab-tak apnee iskuul-koo yaad-kartii hai She still thinks of her school.

In polite/formal Urdu, this verb may also be used to mean “to summon.”

Example: /caliyee, aap-kee waalid aap-koo yaad-kartee haiN/, “Please come, your father is asking for you.”

/yaad-aanaa/ : K : “to recall (mostly involuntarily).”

mujhee acaanak yaad-aayaa I suddenly remembered.

baRii muṣkil-see unheeN yaad-aayaa After great difficulty he remembered....

/yaad aanaa/ : KF : “to recall or think of X /-kii/.”

aaj kaisee aap-koo hamaarii yaad aaii/ What made you think of us today?

un-koo xudaa-kii yaad nahiiN aatii/ He doesn't ever think of God.

/yaad-dilaanaa/ : N : “to make X /-koo/ recall something; to remind X /-koo/.”

ham-nee un-koo yaad-dilaayaa ki.... We reminded him that. . . .

tumhaaree xat-nee mujhee yaad-dilaayaa ki. . . . Your letter made me remember that. . . .

13. “Now he does not think of God even while facing a calamity. Instead of uttering a prayer, he pulls out petitions from his pocket.”

/arzii/, means “petition” as well as “application,” and both meanings were significant in the colonial context of 'political petitions' and 'job applications' addressed to the Government. The English word “pocket” makes vivid the image of the person named “he” as a modern man, since traditional Indian clothes did not normally have pockets.

14. “Better for me is this alone: I should go to Aligarh and say to Sayyid, ‘Here, take my contribution and make me a Muslim’.”

“Sayyid,” of course, is Sir Sayyid Ahmad Khan, who ceaselessly sought funds for his college. The more conservative Muslims felt dubious about the college because they did not approve of many of Sir Sayyid's liberal and anti-supernatural interpretations of the Qur'an.

15. “Moved by the sad plight of his people, the 'leader' dines with government officers. He bears many sorrows, but in much comfort.”

Akbar was very critical of the newly emergent phenomenon of 'national leaders'. For the significance of 'dining' in the colonial world, see 18.19.

16. “He became so civilised that he never went home. He spent his life in hotel rooms, and went to a hospital to die.” A satirical comment on superficial Western manners adopted in the name of civil progress.

/kabhi ghar-kaa muNh na deekhaa/, lit. “never saw the face of his home,” i.e., “never experienced a home.” “X /-kaa muNh deekhaa/” = “to seek favours from X.” “X /-kaa muNh na deekhaa/” = “to be independent of X; to disdain X.”

/kaTii umr hooTalooN-meeN/, lit. “his entire life was somehow spent in hotels.” With units of time (hour, day, life, etc.), /kaTnaa/, “to be cut,” and /kaaTnaa/, “to cut,” are used, instead of /guzarnaa/, “to pass (Intr.),” and /guzaarnaa/, “to pass (Tr.),” to indicate that the ‘time’ was spent wastefully or under some duress or tension.

waqt kaaTnee-kee liee kooii kitaab diijiyee	Please give me some book to pass the time.
yee eek ghanTaa kaTnaa muskil hoogaa	It will be hard to pass this one hour.

17. “When Sayyid [Ahmad Khan] went around with the ‘Gazette’ in his hand, he raked in lacs of rupees. When the Sheikh went around holding aloft the Qur’an, he didn’t get even a paisa.”

“The Gazette” refers to the official publication in which all government notifications, appointments, and laws were published—hence an object of great power and prestige in colonial India. The Sheikh, of course, stands for the traditional religious leader, now seen as of little importance.

18. “Akbar’s piety lost all relevance when he received a cup of tea from her delicate hands.”

Using his own ‘takhallus’, Akbar makes fun of those of his contemporaries who gave up their conservative ways for the sake of being accepted in the new civilian society which included English women. Here he creates much fun by producing an Urdu phrase, /paaii Tii/, “received tea,” homophonous with the English word, “piety.” His verses are full of such clever uses of English words.

## Exercises

### A. Situational variants.

انہوں نے شروع میں تعلیم اپنے والد سے پائی۔ بالکل چھوٹی سی ملازمت سے ابتدا کر کے وہ سشن جج کے اونچے عہدے تک پہنچے۔ آکبر کے وقت میں ہندوستان کی سماجی اور سیاسی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہو رہی تھی۔ نئے آئے ہوئے حاکموں کی مغربی تہذیب کے آگے ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کی پرانی تہذیب کمزور پڑ رہی تھی۔ سرسید اور ان کے ساتھیوں نے جس تحریک کی ابتدا کی تھی اور جن ارادوں سے علی گڑھ کالج کی بنیاد ڈالی گئی تھی ان کی شکل وقت نے بدل ڈالی تھی۔ انگریزی تعلیم سے کلرک کی نوکری تو مل جاتی تھی مگر اس تعلیم کے اثر سے لوگ اپنی تہذیب اور مذہب سے بھی دور ہوتے جا رہے تھے۔ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے مولویوں کے انداز میں نصیحت نہیں کی بلکہ اپنی ظریفانہ شاعری کو استعمال کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سب نے ان کی باتوں کو سن کر اثر لیا۔ آکبر لیڈر کم اور شاعر زیادہ تھے اس لئے ہم ان کی شاعری میں محض ایک ہی انداز کے خیالات نہیں پاتے، بلکہ ہر قسم کے خیالات دیکھتے ہیں۔ انہوں نے قوم کے آگے کوئی پورا پروگرام بنا کر پیش نہیں کیا، لیکن اس کو اس کی غلطیوں سے آگاہ کرتے رہے۔

### B. Translate into English.

زیادہ تر رات کو کام کرنے کی وجہ سے احمد کی آنکھیں نہایت کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ آکبر کے اشعار پڑھ کر ہنسی بھی آتی ہے اور آدمی سوچنے پر مجبور بھی ہوتا ہے۔ ترقی کرتے کرتے وہ معمولی عہدے سے ایک بڑے عہدے پر پہنچ گیا۔ شوکت مجرم کا نام لیتے لیتے رُک گیا اور پھر بتانے سے انکار کر دیا۔ ولایت سے واپس آنے کے بعد ان کے خیالات میں ایک تبدیلی آئی۔ یہ رہنے والے تو دلی ہی کے تھے مگر نوکری کی تلاش نے ان کو بمبئی جانے پر مجبور کر دیا۔ آکبر سب امور میں نہیں بلکہ کچھ باتوں میں علی گڑھ تحریک کے خلاف تھے۔ تیل کے کم ہو جانے کی

وجہ سے چراغ کی روشنی کم ہوتی جا رہی تھی اور وہ بجھنے ہی والا تھا۔ بعض لیڈر صرف خود کی بھلائی کے لئے کوئی نہ کوئی تحریک چلانے لگ جاتے ہیں۔ بچے اپنے بڑوں کی نقل کرتے ہیں جس کی وجہ سے کبھی کبھی بُری باتیں بھی سیکھ جاتے ہیں۔ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرتی جا رہی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ جنگ کا ڈر بھی لگا ہوا ہے۔ جاوید میاں نے اپنے والد کے انتقال پر بڑے صبر سے کام لیا۔ اعلیٰ تعلیم کے تعلق سے صدر نے ایک نئی پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ استاد نے لڑکوں پر غصہ کرنے کی بجائے ہمیشہ ہنسی سے کام لیا جس کی وجہ سے زیادہ مقبول ہو گیا۔ اشوک نے سماج کی خرابیوں کو دیکھ کر انہیں دور کرنا چاہا اور اس مقصد کے لئے خاص افسر بھی مقرر کیے۔ افریقہ کے بعض ملک آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی ترقی نہیں کر پا رہے ہیں چنانچہ اکثر ملکوں کے عوام کی حالت اچھی نہیں ہے۔ لڑکوں نے مولوی صاحب کے وعظ کو شوق سے سنا مگر چند ہی دنوں میں ان کی نصیحتوں کو بھول گئے۔ شاعری کرنا آسان نہیں، لیکن ہر وہ شخص جو شعر کہتا ہے اپنے آپ کو اچھا شاعر سمجھتا ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ قوم لیڈر کے خیالات کی پوری پوری حمایت نہیں کرتی۔ ہر ملک میں ترقی پسند اور قدامت پسند دونوں طرح کے خیالات کے لوگوں کا ہونا ضروری ہے، ایسا نہ ہو تو ملک میں صرف ایک ہی قسم کا سیاسی پروگرام پھیلنے لگے گا۔ استاد نے لڑکے کو اُس کی غلطیوں اور کمزوریوں سے آگاہ کیا تو اُس نے اپنے آپ کو سدھار لیا۔ دوسروں کی نقل کرنے میں لوگ اکثر اپنی اچھی باتیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے جلسہ میں جو نظم سنائی وہ بہت دلچسپ تھی۔ ان کی زندگی کا انداز جدید ہے لیکن ان کے خیالات قدامت پرست ہیں۔ ہم ترقی پسند ضرور ہیں، لیکن ترقی پرست نہیں ہیں۔ وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے ہر ذریعہ استعمال کر سکتا ہے۔ آخر کس بنیاد پر آپ احمد اور نجمہ میں اس قدر امتیاز کرتے ہیں۔ مغرب پرستی ہو یا مشرق پرستی دونوں اپنی اپنی جگہ غلط ہیں۔ تمہاری نقل میں میں نے بھی شعر کہنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے جب دھیان سے ان کا بیان پڑھا تو اُس کی اہمیت سمجھ میں آئی۔ اُردو ادب کی تاریخ میں ”ترقی پسند تحریک“ کی بڑی اہمیت ہے۔ میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ معین وقت پر



چلیں۔ آج کیسے آپ کو میری یاد آئی۔ مجھے یاد نہیں کہ صدر نے اپنے بیان میں کیا کہا تھا۔ ترقی پسندی کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اپنی تہذیب سے بیگانہ ہو جائے۔ میں اس شرط پر آپ کی مدد کر سکتا ہوں کہ آپ دوسروں کی مدد بھی حاصل کریں۔ اس تحریک میں ہر مذہب کے نمائندے شامل ہیں۔ صدر نے اس مذہبی تقریب میں اپنی شخصی حیثیت سے حصہ لیا۔

### C. Fill in the blanks.

سید اکبر حسین ..... اور اکبر ..... تھا۔ الہ آباد کے ..... تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ..... کی۔ اردو، فارسی، عربی کے ..... انگریزی سے بھی خوب ..... تھے۔ اکبر کا زمانہ ہندوستان کی ..... اور ..... زندگی میں ایک عظیم تبدیلی کا ..... ہے۔ نئے ..... کی تہذیب کے ..... ملک کی پرانی تہذیب کا چراغ ..... تھا۔ یہی حال اُس وقت ہندوستانیوں ..... تھا۔ مسلمانوں میں خاص طور ..... یہ تحریک زور ..... تھی۔ مغرب ..... اور انگریزوں کی غلط صحیح ..... عزت کی بات ..... جاتی تھی۔ اکبر نے ..... کا یہ رنگ دیکھا اور اُن خرابیوں ..... دُور کرنا ..... ہنسی کے پردے ..... نصیحت کی اور مذاق میں ..... کی بات سکھائی۔ اکبر شاعر تھے لیڈر ..... تھے، اس لئے اُن کی ..... میں ہم کو ہر ..... کے ..... ملتے ہیں۔ اُنہوں نے قوم کے ..... کوئی مکمل پروگرام نہیں بنا کر .....۔

### D. Translate into Urdu.

- I. The child was extremely weak, so the doctor gave him some medicine.
- II. Ahmad's work is extremely unusual. III. He got tired working and sat down to rest. IV. The king was wearing an extremely ordinary dress.
- V. A great change is taking place at present in the social life in India.
- VI. He started a movement for the progress of the Muslims. VII. When we returned home, they were about to sit for dinner. VIII. It is difficult to tell where he got his early education. IX. Shaukat imitates very well whomsoever he sees. X. He is studying in America and working at the same time, too. XI. The students listened to the teacher with attention.
- XII. Do you know any verses by Akbar? XIII. Talking all the time he

came with me to my house. XIV. I was about to go out when it began to rain. XV. He was eating and, at the same time, talking with me. XVI. I can meet you but only on one condition that you come at the fixed time. XVII. Even the people with progressive ideas can make mistakes. XVIII. Due to certain reasons I cannot fully support your program. XIX. The effect of his poetry can be seen in the ideas of his people. XX. Listen to him with attention, for he wants to benefit you.

**E. Answer the following in Urdu.**

- ۱- اکبر کہاں کے رہنے والے تھے اور انہوں نے ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی؟
- ۲- کیا اکبر صرف اُردو سے واقف تھے؟ ترقی کر کے کس عہدے پر پہنچے؟ ۳- تم انگریزی کے علاوہ اور کس زبان سے واقف ہو؟ ۴- آج کل امریکہ کی سماجی اور سیاسی زندگی میں کیا عظیم تبدیلی ہوئی ہے؟ ۵- حاکموں کی تہذیب سے محکوم قوموں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ۶- ہندوستان میں اکبر کے زمانے میں انگریزی تعلیم سے کیا فائدہ تھا اور کیا نقصان؟ ۷- اکبر نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لئے کیا کیا؟ ۸- اکبر کی شاعری کا اثر لوگوں پر کیونکر ہوا؟ ۹- اکبر کی شاعری کے متعلق تمہارے کیا خیالات ہیں؟ کیا تمہیں اُن کا کوئی شعر یاد ہے؟ ۱۰- اکبر کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟

## شاعرِ مشرق

۱۸۷۳ء میں سیالکوٹ، مغربی پاکستان کے ایک شریف خاندان میں اقبال کی پیدائش ہوئی۔ اُن کے والد، شیخ نور محمد کا چھوٹا سا کاروبار تھا اور وہ شہر میں اپنی نیکی اور پرہیزگاری کے لئے مشہور تھے۔ اقبال کی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ کے مشن اسکول میں ہوئی۔ یہاں آپ نے انگریزی کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی خاص طور پر سیکھی۔ پھر لاہور کے گورنمنٹ کالج میں داخل ہوئے اور وہاں سے فلسفہ میں ایم۔ اے۔ کیا۔ ۱۹۰۵ء میں آپ انگلینڈ گئے اور کچھ عرصہ کیمبرج میں فلسفہ کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ پھر جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی اور واپس آکر لندن میں بیرسٹری کا امتحان بھی پاس کیا۔ یورپ جانے سے پہلے اقبال گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ کے لکچرر تھے۔ مگر یورپ سے واپسی کے دو سال بعد انہوں نے سرکاری نوکری چھوڑ دی اور وکالت کرنے لگے۔

اقبال نے اسکول کے زمانے ہی میں شعر کہنے شروع کر دیے تھے۔ کالج میں پہنچ کر تو اُن کی شاعری کی شہرت خوب پھیلی۔ لاہور میں انجمنِ حمایتِ اسلام کے جلسوں میں ہزاروں لوگ اُن کی نظم خاص شوق سے سنتے تھے۔ اسی زمانے میں اُن کی نظمیں ملک کے بہترین رسالوں میں شائع ہونے لگیں۔ اُن کی شروع کے دور کی اُردو نظمیں قومی اور وطنی جذبے سے بھری ہیں۔ لیکن رفتہ رفتہ اس وطنی جذبے کے ساتھ ساتھ اُن کی شاعری میں ایک جذبہ اور ابھرا۔

یہ تھا مسلمانوں اور خاص طور سے ہندی مسلمانوں کی سیاسی اور سماجی پستی کا احساس۔ مغرب کی ظاہری چمک دمک کی اصل حقیقت کا بھی اُنھیں پتہ تھا۔<sup>۲</sup>

اُنھوں نے مسلمانوں کی پستی کا علاج یہ ڈھونڈا کہ بجائے اپنی خودی کی نفی کرنے کے انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنی خودی کا اقرار کرے اور قدرت کے ہاتھوں میں کھلونا بننے کی جگہ اس مردِ مومن کا انداز اختیار کرے جس کے لئے عمل اور حرکت ہی زندگی کا راز ہیں۔ ان خیالات کو تفصیل کے ساتھ اُنھوں نے دو طویل فارسی مثنویوں<sup>۳</sup> میں بیان کیا۔ اب اقبال صرف ہندوستان یا ہندی مسلمانوں<sup>۴</sup> کے شاعر نہ رہے تھے، اب اُن کو مشرق کی ایک اہم آواز مانا جاتا تھا۔ یورپ سے واپسی کے بعد اقبال ایک عرصہ تک فارسی میں شاعری کرتے رہے مگر آخری دور میں پھر اُردو کی طرف توجہ بڑھی اور کئی مجموعے شائع ہوئے۔

اقبال کے اُردو کلام کے چار مجموعے ہیں، جن میں ”بانگِ درا“ اور ”بالِ جبریل“ کو خاص شہرت حاصل ہے۔ فارسی کی کتابیں چھ ہیں۔ فارسی اور اُردو دونوں زبانوں کے کلام کا زیادہ تر حصہ انگریزی میں ترجمہ ہو کر چھپ چکا ہے۔ اُن کے علاوہ اقبال کے فلسفے کو سمجھنے کے لئے اُن کے انگریزی لکچروں کا مجموعہ پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔

ہندو پاک<sup>۵</sup> کے مسلمانوں کی سیاسی اور سماجی زندگی کو نیا رخ دینے میں اقبال کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اُن کی شاعری نے مسلم سماج میں ایک نئی جان ڈال دی اور اُن کے ذہن نے اس کو ترقی کے نئے راستے بتائے۔ اقبال کو پاکستان کا بانی کہا جاتا ہے کیونکہ اُنھوں نے ۱۹۳۰ء میں مسلم لیگ کے سالانہ جلسے کی صدارت کرتے ہوئے پہلی مرتبہ ایک آزاد مسلم علاقے کا نظریہ پیش کیا تھا۔ اُس نظریہ کو عام مسلمانوں کی جدوجہد نے ۱۹۴۷ء میں پاکستان کی شکل بخشی۔<sup>۱۳</sup>

اقبال کا انتقال ۲۱ اپریل ۱۹۳۸ء کو ہوا اور لاہور میں دفن ہوئے۔

## اقبال کے چند آسان اشعار

سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا

ہم بلبلیں ہیں اُس کی یہ گلستاں ہمارا<sup>۱۳</sup>

چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا

مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا<sup>۱۴</sup>

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی

تو اگر میرا نہیں بنانا بن، اپنا تو بن<sup>۱۵</sup>

پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات

تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن<sup>۱۶</sup>

ہر اک مقام سے آگے مقام ہے تیرا

حیاتِ ذوقِ سفر کے سوا کچھ اور نہیں<sup>۱۷</sup>

خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے

کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری ابتدا کیا ہے<sup>۱۸</sup>

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے

خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے<sup>۱۹</sup>

## Unit XXV: Notes

1. /anjuman-e-himaayat-e-islam/: A Muslim philanthropic organization, established in 1884 in Lahore. Its annual sessions, usually held in the Shahi Mosque, used to draw huge audiences to lectures by prominent Muslim leaders from all over India. The main purpose of these events was to raise funds for Muslim educational institutions. Iqbal presented several of his major poems first at these gatherings.

2. /pataa hoonaa/ : KM : “to know about Y /-kaa/.” Also, in direct constructions, X/-kaa pataa hoonaa/, “for X to be around or at hand.” (Cf. /pataa calnaa/, see 2:27.)

mujhee us-kii umr-kaa pataa hai      I know his age.

aaj haamid-kaa kahiiN pataa      Today Hamid is nowhere to be seen.  
nahiiN

tumheeN too pataa hoogaa ki...      You must know that. . . .

/pataa/, by itself is a masculine noun, meaning “address; trace.”

3 /xudii/ is perhaps better translated as “selfhood” than as “ego,” the term Iqbal himself used for it in English. In the vast body of literature on Iqbal, it is mostly translated as “the Self.”

4. /iqraar/, a masculine noun, means, “affirmation; a firm promise; acknowledgement.” Related verb: /iqraar karnaa/, “to acknowledge or affirm X /-kaa/;” Since the action implies a verbal act, its indirect object will be marked with /-see/, as in the case of /kahnaa/.

us-nee ahmad-see milnee-kaa      He acknowledged he met Ahmad. Also,  
iqraar kiyaa      He made a promise to meet Ahmad.

tum apnii Galtii-kaa iqraar kyooN      Why don't you acknowledge your error?  
nahiiN kartee

us-nee iqraar kiyaa ki woo kal      He confessed that he had come yesterday  
aayaa thaa

us-nee iqraar kiyaa ki woo kal      She promised that she'd come tomorrow.  
aaegii

5. /masnawii/, often transcribed in English as “mathnavi,” is the generic name for narrative poems in rhyming couplets and certain traditionally preferred metres.

6. /hindii/, here, is an adjective made from /hind/, another name for India.

7. / . . . hindii musalmaanoon-kee gaaer na rahee thee/, “[He] was no longer a poet of just the Muslims of India.”

8. /baang-e-diraa/, “The Sound of the Guiding Bell,” published in 1924, was the first collection of Iqbal's Urdu verse. He had already published his major Persian poems separately. The poems in this collection are organized in a manner to display the various

phases in his development as a poet and thinker. It even includes some satirical verses in the manner of Akbar, whom Iqbal greatly respected.

9. /baal-e-jibriil/, "Gabriel's Wing," published in 1935, was Iqbal's second Urdu collection. It contains some of his most important poems.

10. /hind-o-paak, "India and Pakistan." /paak/ is an abbreviation for /paakistaan/.

11. /iqbaal-kaa bahot baRaa haath thaa/, "... Iqbal had a major role in. . ."  
Y /-meeN/ Z /-kaa haath hoonaa/ : "for Z to have a hand in Y."

12. /is nazariyee-koo . . . paakistaan-kii ḡakl baxṡii/, "... gave this concept the [concrete shape] of Pakistan."

/baxṡnaa/, is the more formal and polite equivalent of /deenaa/, the difference between the two being much the same as between "to bestow" and "to give." Without an explicit direct object, /baxṡnaa/ often means "to forgive X /-koo/."

mujhee ye kitaab baxṡ-diiṡiyee      Please give me this book to have.

mujhee baxṡ-diiṡiyee      Please forgive [and don't punish] me.

13. "Our Hindustan is better than the entire world; it's our garden and we are its nightingales." (Note that in poetry, for metrical reasons, words ending in a /nuun/, preceded by a long vowel, may be changed to end in simply a nasalised long vowel.)

This is the first couplet of /taraana-e-hindii/, Iqbal's "Indian Anthem," written before 1908. Compare it with the next couplet, which is from a later poem, /taraana-e-millii/, "Milli Anthem," (/millat/, "a cohort of people defined by a religion or creed." In contemporary Urdu, the word /millat/, unless qualified, means "the Muslim people.") The poet's sentiments in this verse co-terminate with a territorially restricted area, while in the next verse he transcends territorial nationalism and embraces the entire world as his 'home'. These two couplets are from Iqbal's first Urdu collection; the remaining verses are from the second.

14. "China and Arabia are ours, and India too; we are Muslims—the entire world is ours."

15. "Delve deep into your own heart, for there you'll find the clues to Life. If you don't put any faith in me, put at least in yourself." In other words, "Be true to yourself."

16. "I was shamed to tears when the qalandar remarked: 'If you bow before another person, you lose both your body and soul.'" To be free, though poor, is far superior to being a slave, though rich.

Qalandar: a free-spirited person who has cut off ties to worldly desires; a dervish.

17. "Your goal is beyond every goal, [for] life is nothing but an endless journey." Life gains its true meaning from constant striving for higher and higher ideals.

/maqaam/, lit. where one stands or rests, could mean: status; rank; destination.

18. “Why should I ask the sages what my beginning was, for I’m engrossed in figuring out what my ultimate reach is.” Perhaps a comment on Darwinian thinking.

/fīkr-meeN hoonaa/, “to be deeply thinking, even concerned, about something.”

Most commonly this verb is used in a main clause, with /is/ as a proximate marker, followed by a coordinate clause introduced by /ki/.

woo is fīkr-meeN hai ki wahaaN	He is thinking as to how he would go
kaisee jaaee	there.

The meaning changes quite a bit if /is/ is replaced with some noun or pronoun, followed by /-kii/.

woo tumhaarī fīkr-meeN hai	He is plotting to get you.
----------------------------	----------------------------

/fīkr/, a feminine noun, means “anxiety; worry; deep thought.” Two other, more common, verbal uses are: /fīkr hoonaa/ : KF: “to worry; to be concerned about X /-kii/;” and /fīkr karnaa/ : NF: “to worry; to give some serious thought to X /-kii/.”

mujhee fīkr hai ki woo nahīN aa- paaegī	I’m worried that she might not be able to come.
--	--

tum-koo kyaa fīkr hai?	What are you worried about?
------------------------	-----------------------------

tum kyooN fīkr kartee hoo?	Why are you so worried?
----------------------------	-------------------------

tum-koo kuch imtihaan-kī fīkr hai?	Are you at all concerned about the exams?
------------------------------------	---

ab kuch khaanee-kī bhī fīkr karoo	Now give some thought to getting some food too.
-----------------------------------	--

19. “Elevate your Selfhood so high that God, before decreeing anything to you, His slave, should ask: ‘What do you wish?’”

In other words, “Turn yourself into someone whose will is in absolute accord with God’s own will.” Note that the relationship of a master and slave between God and Man remains intact, despite rejecting any idea of an inviolable Fate.



## Exercises

### A. Situational variants.

اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا اور وہ سیالکوٹ میں کاروبار کرتے تھے۔ اُنھوں نے اپنی نیکی اور پرہیزگاری کے لئے بڑی شہرت حاصل کی تھی۔ لاہور میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اقبال پہلے ولایت اور پھر بعد میں جرمنی گئے۔ جرمنی کی میونخ یونیورسٹی میں فلسفہ میں پی۔ ایچ۔ ڈی۔ کی اور لندن واپس جا کر بیرسٹری کے امتحان میں بھی کامیابی حاصل کی۔ یورپ سے واپس آنے کے دو سال بعد اُنھوں نے سرکاری ملازمت چھوڑ کر وکالت شروع کر دی۔ اقبال جب اسکول میں تھے تو اسی وقت سے شاعری کرنے لگے تھے۔ کالج کی تعلیم کے زمانے میں اُن کی نظمیں ملک کے سب سے اچھے رسالوں میں چھپنے لگیں۔ اُنھوں نے مسلمانوں کی بُری حالت دُور کرنے کے لئے یہ کہا کہ انسان کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی خودی کو پہچانے اور غلامی کی بجائے آزادی کی زندگی اختیار کرے۔ زندگی کی حقیقت صحیح عمل ہے۔ یورپ سے واپس آنے کے بعد اقبال کافی دنوں تک فارسی میں شعر کہتے رہے لیکن آخری زمانے میں اُنھوں نے پھر اُردو کی طرف توجہ کی۔ اقبال کی اُردو شاعری کے چار مجموعے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاسی اور سماجی زندگی کو نئے راستے پر ڈالنے میں اقبال کی شاعری کا بڑا ہاتھ ہے۔ اقبال ہی نے مسلم لیگ کے ایک جلسے میں ہندوستان میں ایک آزاد مسلم علاقہ بنانے کا نظریہ پہلی مرتبہ پیش کیا۔

### B. Translate into English.

میں نے احمد کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ کچھ عرصہ وہ اس شہر میں رہا پھر چلا گیا۔ تم کو ایسے خراب لوگوں سے کچھ تعلق نہ رکھنا چاہیے۔ بات چیت سے تو لگتا ہے کہ اس کا تعلق کسی شریف خاندان سے ہے۔ شوکت کو کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا ہوگا۔

ایک وعظ کرنے والے جو اپنی نیکی اور پرہیزگاری کے لئے مشہور ہیں آج کل شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ اُن کا وعظ سننے کے لئے تم کو آنا ہی ہوگا۔ مجھے گوشت کے ساتھ ساتھ ترکاری اور تازے پھل بھی خاص طور پر خریدنے ہیں۔ بہترین کام وہ ہے جو آپ اپنے ہاتھوں سے کریں۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس کام میں اتنی محنت کرنی پڑتی ہے تو شاید اس کی ابتدا نہ کرتا۔ کبھی کبھی قدرت کی طاقت کے سامنے انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ مولوی صاحب جن کے وعظ کی شہرت خوب پھیلی ہوئی تھی ہمارے شہر میں آکر رہنے لگے۔ مجھے پتہ نہیں کہ جو بات میں نے نجمہ سے کہی وہ اُس نے سنی یا نہیں۔ اشوک ایک رسالہ بازار سے خرید لایا جس میں آپ کی نظم شائع ہوئی ہے۔ رفتہ رفتہ دریا کا پانی بڑھتا گیا اور اُس میں تیرنا مشکل ہو گیا۔ پورے ہفتے مینھ برستا رہا یہاں تک کہ پانی گھروں کے اندر آ گیا۔ میں آپ کا پتہ بھول گیا اس لئے کافی دیر آپ کا مکان ڈھونڈنا پڑا۔ عمل اور حرکت سے ہی زندگی ہے، بے عمل زندگی موت سے بدتر ہے۔ اُن کی توجہ اس کام میں بہت ہے۔ اُن کے سوا اس راز کو کوئی نہیں جانتا کہ کیوں احمد آج کل یہاں نہیں آتا۔ استاد نے جب تفصیل کے ساتھ اشعار سمجھائے تو تمام لڑکے آسانی سے سمجھ گئے۔ سفر سے واپسی کے بعد ایک عرصہ تک وہ بیمار رہے مگر علاج سے آخر فائدہ ہوا اور وہ تندرست ہو گئے۔ وہ اب محض ایک معمولی لیڈر نہیں رہے تھے بلکہ ایک آزاد ملک کے بانی مانے جاتے تھے۔ اگر میں وہاں آج جاؤں تو اُن کے علاوہ اور دوسرے لوگوں سے بھی مل سکتا ہوں۔ وہ یہاں آئیں تو اُن سے کہیے کہ اپنا کلام بھی ساتھ لیتے آئیں۔ کتنی دیر سے لوگ اُن کے انتظار میں بیٹھے ہیں لیکن وہ صاحب ہیں کہ اب تک نہیں آئے۔ مسلم لیگ کی چلائی ہوئی تحریک آگے چل کر پاکستان کے مطالبہ کی شکل اختیار کر گئی۔ اگر کوئی قوم یا ملک ترقی کے نئے راستے نہ تلاش کرے تو کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ ان راستوں کے ڈھونڈنے میں لیڈروں کے علاوہ شاعروں کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اُنہوں نے بات کرنے میں کچھ اس طرح کا انداز اختیار کیا کہ مجھے اُٹھ کر چلا آنا پڑا۔ میں نے جب اُن سے سارا حال بیان کیا تو وہ بھی نہایت متحجب ہوئے۔ تم سے وعدہ کر کے تو ہم مصیبت میں پھنس گئے۔ اُن کے والد وکالت کرتے

ہیں اور شہر میں اُن کی بہت عزت ہے۔ شہرت سُن کر میں اُن کا لکچر سننے گیا لیکن مجھے تو کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ نجمہ کی نئی کتاب اس موضوع پر بہترین سمجھی جاتی ہے۔ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر عورت اور مرد پر فرض ہے۔ اقبال کی شاعری کا خاص موضوع فلسفہ خودی ہے۔ میرے خیال میں یہ اُن کے نمائندہ اشعار نہیں۔ اس نظم کا مضمون اُنہوں نے کئی دوسری نظموں میں بھی بیان کیا ہے۔ جب شہر کے اس مقبول ترین آدمی کی وفات ہوئی تو کثیر تعداد میں لوگ اُس کے گھر تعزیت کے لئے گئے۔ اُن کے سیاسی اور سماجی مضامین کا ایک انتخاب انگریزی ترجمہ میں بھی شائع ہوا ہے۔ اب تک اُن کی غزلوں کے دو مجموعے شائع ہو چکے ہیں، تیسرا اگلے مہینے بازار میں آئے گا۔ میں ایک شرط پر فلم دیکھنے چلوں گا، وہ یہ کہ ہم اپنے اپنے پیسے ادا کریں۔

### C. Fill in the blanks.

اقبال کی ..... تعلیم سیالکوٹ کے مشن اسکول میں ..... یہاں آپ نے انگریزی کے ..... ساتھ عربی اور فارسی ..... طور پر ..... ۱۹۰۵ء ..... آپ انگلینڈ ..... اور کچھ ..... کیمبرج میں فلسفہ کی تعلیم حاصل ..... رہے۔ یورپ جانے ..... پہلے اقبال گورنمنٹ کالج لاہور ..... فلسفہ کے لکچرر تھے۔ کالج میں ..... تو اُن کی شاعری کی شہرت خوب ..... اُن کی ..... کے دور کی اُردو نظمیں ..... اور وطنی جذبے سے ..... ہیں۔ ان خیالات کو تفصیل ..... اُنہوں نے دو طویل فارسی کی مثنویوں میں ..... کیا۔ یورپ سے واپسی ..... اقبال ایک عرصہ ..... فارسی میں شاعری کرتے رہے مگر ..... دور میں پھر اُردو کی ..... توجہ بڑھی اور کئی مجموعے ..... ہوئے۔ فارسی اور اُردو دونوں ..... کے کلام کا زیادہ تر ..... انگریزی میں ..... ہو کر چھپ چکا ہے۔ اُن کی شاعری نے مسلم ..... میں ایک نئی ..... ڈال دی اور اُن کے ذہن نے اُس کو ترقی کے نئے ..... بتائے۔

#### D. Translate into Urdu.

- I. He took his degree from the University of London, then returned home.
- II. No religion teaches racial discrimination, but some followers of every religion practice it.
- III. Ahmed had started writing poetry even when he was only twelve years old.
- IV. People listened to his lectures with attention.
- V. She started practicing law and soon became quite famous.
- VI. Is it our duty to obey every order of the government?
- VII. Population-wise Indonesia is the largest Muslim country.
- VIII. Simultaneous with his work at the bank, he was also studying English literature.
- IX. Several people got up and left when Ahmed started reciting his poem.
- X. When I presented my proposal to him he liked it.
- XI. There is no honour in blindly imitating others.
- XII. I didn't know he was such a fine poet.
- XIII. His verses are famous for their simple style as well as for their contents.
- XIV. Because of not knowing the exact address we had to look for his house a long time.
- XV. I think she had a hand in this matter too.
- XVI. I am amazed how much the city has changed in five years.
- XVII. Why is he against every thing that you support.
- XVIII. This organization works to remove many social evils.
- XIX. What did you decide in this matter?
- XX. I don't have his first book, however I do have the last two.

#### E. Answer the following in Urdu.

- ۱- اقبال کی پیدائش کہاں ہوئی اور اُن کے والد کیا کرتے تھے؟ ۲- تمہاری ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی اور کالج میں تم کیا پڑھتے ہو؟ ۳- اقبال نے کن مضامین میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی؟ ۴- اقبال یورپ جانے سے پہلے کیا کرتے تھے اور واپسی کے بعد کیا کرنے لگے؟ ۵- اقبال کے شروع کے دور کی نظمیں کیسی تھیں؟ ۶- بعد میں اُن کی شاعری نے کیا رنگ اختیار کیا؟ ۷- اقبال نے مسلمانوں کی پستی کا سبب کیا بتایا؟ ۸- اقبال کے علاوہ اور کس شاعر کو شاعرِ مشرق کے نام سے یاد کر سکتے ہیں؟ ۹- اقبال کے فلسفے کو سمجھنے کے لئے کیا کیا پڑھنا ضروری ہے؟ ۱۰- اقبال کو ”پاکستان کا بانی“ کیوں کہا جاتا ہے؟

## Review Sentences

- ۱- نیگرو لیڈر مارٹن لوتھر کنگ امریکہ کی ایک جنوبی ریاست کے رہنے والے تھے۔ ۲- جو جس ملک کا رہنے والا ہوتا ہے وہاں کی رسموں سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ ۳- میں اس طرح کی باتیں سنتے سنتے تھک گیا ہوں۔ ۴- تم بندر والی کہانی کہتے کہتے کیوں رُک گئے؟
- ۵- میں تمہارے پاس راستے بھر دوڑتا ہوا آیا ہوں۔ ۶- سماجی خرابیاں ایک دن میں نہیں دُور ہو جاتیں، اس میں وقت لگتا ہے۔ ۷- تم جس گھر کا اتنا کرایہ دے رہی ہو وہ تو نہایت ہی خراب ہے۔ ۸- میں نہیں مانتا کہ تقدیر بھی کوئی چیز ہے۔ ۹- میں کھیلنے کے لئے باہر جانے والا تھا مگر مینہ برسنا شروع ہو گیا اس لئے رُک جانا پڑا۔ ۱۰- جب کسی کی موت آنے والی ہوتی ہے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ ۱۱- آج کل جاوید صاحب اپنے ہی دوستوں کے ہاتھوں بہت پریشان ہیں۔ ۱۲- جو مصیبت اپنے ہاتھوں لائی جائے اُس کا علاج نہایت مشکل ہوتا ہے۔ ۱۳- اقبال نے محسوس کیا کہ ہندوستان کے مسلمان اپنے مذہب سے دُور ہوتے جا رہے ہیں اور مغرب کی نقل کرنے میں اپنی تہذیب بھی بھولتے جا رہے ہیں۔ ۱۴- سرسید اور اُن کے ساتھی جن باتوں کو صحیح سمجھتے تھے اُن میں سے اکثر اکبر کی نظر میں غلط تھیں۔ ۱۵- اکبر اپنے شعروں سے لوگوں کو ہنساتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ کام کی بات بھی سکھاتے رہے۔ ۱۶- آپ نے مجھے جو کتاب بھیجی تھی وہ ابھی تک نہیں پہنچی۔ ۱۷- میں نے سنا ہے کہ تم کو کالج میں پڑھانے کی نوکری مل گئی ہے۔ ۱۸- دولت کی مدد سے زندگی کا آرام تو شاید مل جائے مگر علم صرف استاد اور بزرگوں کی صحبت ہی میں ملتا ہے۔ ۱۹- خدا کا شکر ہے کہ جاوید نے آپ کی نصیحت کا کافی اثر لیا اور بات مان لی۔ ۲۰- ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو علم سکھانے کے ساتھ ساتھ اخلاق کی تعلیم بھی دیتے رہیں۔ ۲۱- وہ اپنی کتاب بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مجھ سے باتیں بھی کرتا جا رہا ہے۔ ۲۲- استاد کا فرض ہے کہ طالب علم کو اُس کی غلطیوں سے آگاہ کرتا رہے تاکہ وہ ایسی غلطیاں دوبارہ نہ کرے۔ ۲۳- سرسید سے لے کر اکبر تک سب ہی اپنی قوم کو برائیوں سے بچنے کی

نصیحت کرتے رہے۔ ۲۴۔ قوم کے نمائندوں کو قوم کی بھلائی کے لئے کچھ کرنا بھی چاہیے۔  
 ۲۵۔ دُور سے دیکھنے میں یہ اونچے اونچے درخت کتنے چھوٹے سے معلوم ہوتے تھے۔ ۲۶۔ ہم  
 سب نے مل کر دریا کے کنارے ایک بڑا سا باغ خریدا ہے۔ ۲۷۔ اعلیٰ تعلیم اب بہت مہنگی  
 ہو گئی ہے۔ ۲۸۔ اس مجموعہ میں نسلی امتیاز کرنے والوں کے خلاف کئی نظمیں ہیں۔ ۲۹۔ آج  
 کھیل کے میدان میں سب سے پہلے میں ہی پہنچا۔ ۳۰۔ میں کالج سے واپس آ کر شام کو کھیلنے کی  
 تیاری کرنے لگا۔ ۳۱۔ تم نے غلطی کی کہ اپنے دوست کو اپنا راز بتادیا۔ ۳۲۔ اُس کے گھر میں  
 ایک بڑا کمرہ صرف پرانے سامان سے بھرا ہے۔ ۳۳۔ حالی اور اکبر کے اشعار اچھے اچھے  
 نصیحتوں سے بھرے ہیں۔ ۳۴۔ گاندھی جی کا دل اپنے وطن کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔  
 ۳۵۔ ہندوستان کے لیڈروں کے دل میں اپنے وطن کی پستی کا احساس بڑی تیزی سے اُبھرا۔  
 ۳۶۔ امریکہ میں نسلی امتیاز کے خلاف جو تحریک اُبھری ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ۳۷۔ جب  
 انسان کوئی غلط کام کرے تو اُس کا فرض ہے کہ اُس کا اقرار بھی کرے۔ ۳۸۔ جو مجرم اپنے جرم کا  
 اقرار کر لیتا ہے وہ قید سے جلدی رہائی پاتا ہے۔ ۳۹۔ اسکولوں اور کالجوں کا فرض ہے کہ بچوں کی  
 تعلیم کے علاوہ اُن کے کھیلنے کا بھی انتظام کریں۔ ۴۰۔ آج میں نے اپنے والد کو تفصیل کے  
 ساتھ خط لکھ دیا ہے۔ ۴۱۔ امریکہ کی سیاسی اور سماجی خبریں یہاں کے اخباروں میں تفصیل سے  
 چھپتی ہیں۔ ۴۲۔ استاد طالب علموں کو ہر بات تفصیل کے ساتھ سمجھا دیتا ہے۔ ۴۳۔ امریکہ  
 میں نسلی امتیاز کے خلاف تحریک چلانے میں ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کا بڑا ہاتھ تھا۔ ۴۴۔ اس مکان  
 میں آگ لگنے میں دو آدمیوں کا ہاتھ ہے۔ ۴۵۔ اقبال نے آزاد مسلم علاقے کا جو نظریہ بنایا  
 تھا اُس کی شکل آج کے پاکستان سے کچھ مختلف تھی۔ ۴۶۔ اکبر اور اقبال کی شاعری نے  
 ہندوستان کے مسلمانوں کو عمل کا ایک نیا جذبہ بخشا۔ ۴۷۔ حقیقت میں وہ آپ کی تحریک کے  
 خلاف ہیں۔ ۴۸۔ بادشاہ اپنے دوستوں اور ملازموں کو قیمتی سے قیمتی چیزیں بھی بخش دیتا تھا۔  
 ۴۹۔ آپ کے سمجھانے کا یہ نتیجہ ہوا کہ احمد بڑی حرکتوں سے باز آ گیا۔ ۵۰۔ بُرے کام کرنے کا  
 نتیجہ بھی ہمیشہ بُرا ہی نکلتا ہے۔

## بنیادی جمہوریتیں

پاکستان کی اسی فی صدی سے زیادہ آبادی گانوں میں رہتی ہے اور کھیتی کرتی ہے۔ اُس کے زیادہ تر لوگ اب بھی اُن پڑھ ہیں۔ اِس کے علاوہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں یا قریب کے کسی شہر تک پہنچنے کے لئے اکثر نہ تو اچھی سڑکیں ہیں اور نہ ریل یا بس کا کوئی انتظام ہے۔ اِس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک گاؤں کے رہنے والے یہ نہیں جانتے کہ دوسرے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اِس حالت پر بھی کچھ سال پہلے تک صوبائی اسمبلی کا ایک رکن ایک لاکھ سے زیادہ ووٹوں کی نمائندگی کرتا تھا۔ اور بے چارہ معمولی کسان یہ نہ جانتا تھا کہ جو شخص صوبائی اسمبلی میں اُس کی نمائندگی کرتا ہے وہ ہے کون۔ وہ تو صرف اتنا جانتا تھا کہ ووٹ اُس کو دینا چاہیے جس کو زمیندار صاحب چاہتے ہوں۔ ایسی حالت میں جمہوریت کیا تھی ایک ڈھونگ تھا۔ ۷ اکتوبر ۱۹۵۸ء کو جو فوجی انقلاب آیا، وہ ایسی ہی فرضی جمہوریت کے خلاف تھا۔ انقلاب کے بعد صدر پاکستان محمد ایوب خاں نے ”بنیادی جمہوریت“ کے نام سے ایک اسکیم پیش کی۔ اُس میں اُنہوں نے بتایا کہ ملک کو ایسی جمہوریت کی ضرورت ہے جو آسان ہو تاکہ لوگ اُسے سمجھ سکیں، جو ملک کے حالات کے مطابق ہو تاکہ ملک کے عام لوگ اُس میں حصہ لے سکیں، اور جس کو چلانے کے لئے زیادہ سرمایہ کی ضرورت نہ ہو۔

اِس اسکیم کے مطابق مشرقی اور مغربی پاکستان کے دونوں علاقوں کو چالیس ہزار حلقوں

میں بانٹا گیا ہے۔ ہر حلقہ کی آبادی لگ بھگ ایک ہزار ہوگی اور ہر حلقہ کو اپنی آبادی میں سے ایک نمائندہ چننے کا حق ہوگا۔ دیہاتی علاقوں میں ایسے دس حلقوں کی ایک یونین کونسل ہوگی۔ اسی طرح شہروں میں ٹاؤن کمیٹیاں ہوں گی۔ ان کمیٹیوں اور کونسلوں کے صدر اُن کے اوپر والی انتظامی کونسل یعنی تھانہ کونسل میں اپنے علاقے کی نمائندگی کریں گے۔ اسی طرح سے تھانہ کونسل کے اوپر تحصیل کونسل، ضلع کونسل اور ڈویژن کونسل ہوں گی۔ اور اُن سب کے اوپر صوبائی کونسل ہوگی۔

بنیادی جمہوریتوں کا پہلا الیکشن دسمبر ۱۹۶۰ء میں کرایا گیا۔ اس الیکشن میں ۶۷ فی صدی مردوں اور ۴۲ فی صدی عورتوں نے ووٹ ڈالے۔ اُس میں جو لوگ چنے گئے اُن میں ۱۴ فی صدی یونیورسٹی گریجویٹ، ۷۸ فی صدی پڑھے لکھے، اور ۸ فی صدی اُن پڑھ لوگ تھے۔ اُن میں کسان بھی تھے اور تاجر بھی۔ وکیل بھی تھے اور ڈاکٹر بھی۔ اب یہ لوگ پرانے نمائندوں کے مقابلے میں اپنے ملک کے عوام کی بہتر نمائندگی کرتے ہیں۔



## Unit XXVI: Notes

[This short essay, written in 1963 by a graduate student from Pakistan, reflected the feelings of a great many Pakistanis at the time. Since then the political scene in Pakistan has radically changed, and Basic Democracies no longer exist.]

1. /gaaNwoon/ is the oblique plural of /gaaooN/, whose original pronunciation was: /gaaNw/. Note the special spelling of the word.

2. /anpaRh/, lit. “unable to read,” means “illiterate.” Other related words are: /paRhaa-likhaa/, “literate; educated;” /taaliim-yaaftaa/, “educated;” /Gair-taaliim-yaaftaa/, “uneducated.”

The prefix, /an-/, occurs in a few other common words too: /anjaan/, “innocent; unaware;” /anmool/, “priceless;” /andeekhaa/, “unseen.”

3. /is haalat-par bhi/ : “despite such a state of things....”

/-par/ is commonly used with infinitives, whose subjects will be marked with the postposition /-kee/, to form adverbial phrases of the type below:

wahaaN jaanee-par	Upon going there....
Ahmad-kee wahaaN jaanee-par	Upon Ahmad's going there....
Ahmad-kee wahaaN jaanee-par bhii	Despite Ahmad's going there....

4. Note the Urdu spelling of the English word, “scheme.” The initial consonant-cluster, /sk/, is not a part of Urdu phonology, and therefore requires the addition of an initial short vowel, /i/. This is true for all English clusters with an initial ‘s’, e.g. /iskuul/, “school.” In Punjabi Urdu, however, it is more common to insert a short vowel, /a/, after the initial ‘s’. Thus a Punjabi Urdu writer would more likely pronounce “scheme” as /sakiim/, and “school” as /sakuul/, and also transliterate them accordingly.

With other non-Urdu consonant-clusters, Urdu speakers usually insert a short vowel between the two consonants in the following manner: /u/, if the following syllable contains /u/ or /uu/; /i/, if the following syllable contains /i/ or /ii/; and /a/ in other cases. For example: /paleeT/, “plate;” /kiriim/, “cream,” and /furuuT/, “fruit.”

## Exercises

### A. Situational variants.

پاکستان میں اسی فی صدی سے کچھ زیادہ ہی لوگ گانوں میں رہتے ہیں اور کھیتی کرتے ہیں۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں یا نزدیک کے کسی شہر تک جانے کے لئے زیادہ تر نہ ہی اچھی سڑکیں ہیں اور نہ ریل یا بس۔ چنانچہ ایک گاؤں کے لوگ دوسرے گاؤں کی حالت سے کم ہی واقف ہوتے ہیں۔ مگر ان حالات کے باوجود کچھ عرصہ پہلے تک صوبائی اسمبلی میں ایک لاکھ سے زیادہ ووٹ دینے والوں کی نمائندگی صرف ایک رکن سے کی جاتی تھی۔ ۱۹۵۸ء کا انقلاب اسی طرح کی فرضی جمہوریت کو ختم کرنے کے لئے ہوا تھا۔ اپنی اسکیم میں انہوں نے یہ کہا کہ ملک میں اس قسم کی جمہوریت کا ہونا ضروری ہے جو مشکل نہ ہو تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آسکے، اور ملکی حالات کا لحاظ رکھے تاکہ ملک کے عوام اس میں شریک ہو سکیں اور جس کے چلانے کے لئے زیادہ پیسوں کی ضرورت نہ پڑے۔ اس اسکیم کو جاری کرنے کے لئے مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں حصوں کو چالیس ہزار حلقوں میں تقسیم کیا گیا۔ ان کمیٹیوں اور کونسلوں کے صدر ان کے اوپر والی انتظامی کونسل میں جو کہ تھانہ کونسل کہی جائے گی اپنے اپنے علاقوں کے نمائندے ہوں گے اور ان سب کے اوپر ہوگی صوبہ کی کونسل۔ بنیادی جمہوریتوں کا پہلا انتخاب دسمبر ۱۹۶۰ء میں ہوا۔ اس میں جن لوگوں کا انتخاب ہوا ان میں گریجویٹ بھی تھے اور ان پڑھ بھی، کسان بھی تھے اور تجارت کرنے والے بھی، اور اس طرح یہ نئے لوگ اپنے ملک کے عوام کے بہتر نمائندے کہے جاسکتے تھے۔

1. شریک ہونا		sariik- hoona	to participate in X /-meeN/
2. انتخاب	M	intixaab	election; selection
3. تجارت	F	tijaarat	trading

## B. Translate into English.

دنیا کے تقریباً سب ملکوں میں کسی نہ کسی طرح کی جمہوریت ہے۔ جمہوریت میں ہر شخص کے کچھ حقوق ہوتے ہیں اور کچھ فرائض۔ شوکت کا گھر اُس سے بہتر ہے کیونکہ دریا کے پاس ہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ علی باوجود کافی عمر کے ہر روز کھیلنے جاتا ہے۔ اِس ملک کا سیاسی نظام ابھی تک عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ اِس انتخاب میں چنے جانے والوں میں محض انتیس فی صدی عورتیں ہیں۔ اِس شہر میں الیکشن کے وقت ووٹوں کی تجارت ہوتی تھی۔ ہمارے بچے پاس کے اسکول ہی میں پڑھتے ہیں۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے اُنہوں نے سیاسی تحریکوں میں بھی حصہ لیا۔ سیاسی انقلاب کے ساتھ ساتھ اگر معاشی اور سماجی انقلاب نہ آتا تو یہ ملک اتنی ترقی نہ کرتا۔ اب ملک میں سیاسی حالات بدل چکے ہیں اور عوام کی نمائندگی بہتر طریقے سے ہو رہی ہے۔ یہ صاحب جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں میرے دوست کے خلاف الیکشن میں کام کرتے رہے۔ اِس تنظیم میں شامل ہونے کے لئے کوئی نظریاتی شرط نہیں۔ یہ مولوی صاحب آسان زبان میں وعظ کرتے ہیں تاکہ سب لوگ اسے سمجھ سکیں۔ اِس جلسے کا سارا انتظام جس میں لگ بھگ دو ہزار آدمی حصہ لے رہے تھے بڑی اچھی طرح کیا گیا تھا۔ اُس یونیورسٹی کی انتظامی کونسل کا ایک اہم فیصلہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اخبار کی کونسل میں طالب علموں کی نمائندگی کو بڑھایا جائے۔ آپ نے جس تحصیل میں زمین خریدی ہے وہاں کھیتی بہت اچھی ہوتی ہے۔ تعلیم پھیلانے کی اسکیم کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ضلع میں اب بیس اسکول اور دس کالج ہو گئے ہیں۔ ہمارے صوبے کے مرکز میں گرمیوں میں ایک بہت بڑا میلہ لگتا ہے۔ ایسی معمولی بات پر خفا ہونے سے کیا فائدہ۔ اُس انتخاب میں جو ووٹ ڈالے گئے اُن میں سے دس فی صدی فرضی تھے۔ وہ تو صرف آپ سے بات چیت کرنے کے لئے یہاں آنا چاہتے ہیں۔ تم جو بھی کرنا چاہتے ہو، استاد کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو تو اچھا ہے، ورنہ وہ خفا ہو جائیں گے۔ آپ پرسوں ضرور آئیں تاکہ اُن کی شادی میں شریک ہو سکیں۔ اِس مرتبہ الیکشن میں بہت سی عورتوں نے ووٹ ڈالے۔ اُس گاؤں میں پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہیں، اِس لئے

ایک اسکول کھولا جانا ضروری ہے۔ اُس کے ساتھ ساتھ اُن پڑھ لوگوں کو رات میں پڑھنا لکھنا سیکھانے کا انتظام کیا گیا۔ میرے کہنے پر بھی اُنھوں نے آبادی سے باہر مکان بنوایا۔ نہ تو وہاں کھانے کا انتظام تھا نہ پینے کا، بس ایک بھیڑ لگی تھی۔ اُن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کیجیے۔ یہ کام آپ کی توجہ چاہتا ہے۔ اس تجارت میں کتنے لوگ آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ تمہارے امتحان کا نتیجہ کب تک معلوم ہوگا۔ اپنے وطن سے ہر شخص کو محبت ہوتی ہے۔ آپ کو شاید اصل حقیقت کا پتہ نہیں ورنہ آپ بھی میری تجویز کی حمایت کرتے۔

### C. Fill in the blanks.

اس کے زیادہ تر لوگ ..... بھی ..... ہیں۔ اُس ..... نتیجہ یہ ہے کہ ایک گاؤں کے ..... یہ نہیں جانتے کہ دوسرے گاؤں میں کیا ..... ہے۔ اور بے چارہ ..... کسان یہ نہ جانتا تھا کہ جو ..... صوبائی اسمبلی میں اُس کی ..... کرتا ہے وہ ہے کون۔ انقلاب کے بعد ..... پاکستان محمد ایوب خان نے ”..... جمہوریت“ کے نام سے ایک اسکیم ..... کی۔ ہر حلقہ کی آبادی لگ بھگ ایک ..... ہوگی اور ہر ..... کو اپنی آبادی میں سے ایک نمائندہ چننے کا ..... ہوگا۔ ..... طرح شہروں میں ٹاؤن کمیٹیاں ..... - اسی طرح سے تھانہ ..... کے اوپر تحصیل کونسل، ضلع کونسل اور ڈویژن کونسل ..... اُس الیکشن ..... ۶۷ فی ..... مردوں اور ۴۲ فی صدی عورتوں نے ..... ڈالے۔ اُن میں کسان بھی تھے اور تاجر ..... اب یہ لوگ پُرانے نمائندوں کے ..... میں اپنے ملک کے عوام کی بہتر ..... کرتے ہیں۔

### D. Translate into Urdu.

I. You prefer democracy for yourself, but a military state for us. II. Even now seventy-six percent of the people are homeless. III. Besides it there are other stores near the hospital where we can buy these medicines. IV. You should present your proposal again in easier language. V. Bring to me anyone who comes. VI. Since he is my friend, I cannot say anything against him. VII. He is not a member of either administrative

council or the Tehsil council. VIII. This district is being administered much better now. IX. Ours is the largest province in the country and also the poorest. X. The students of this university held an election yesterday. XI. I couldn't vote last year, for I had to go out of town. XII. How much does it cost to run this organization? XIII. Repeated military coups are not good for any country. XIV. In a real democracy everyone has a right to choose his representative. XV. Ordinary people don't often know who their representative is. XVI. Very few people in cities know what is happening in villages. XVII. Please explain to me in detail the aims of your organization. XVIII. The government has announced that in every assembly thirty percent of the representatives will be women. XIX. Only thirty-seven percent of the votes were cast in favour of his proposal. XX. Common people should be able to understand the political system of their country.

**E. Answer the following in Urdu.**

۱- پاکستان میں کتنی فی صدی آبادی شہروں میں رہتی ہے؟ ۲- پاکستان میں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں یا شہر تک پہنچنے کے لئے کیا ذریعہ ہے؟ ۳- تمہارے ملک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لئے کیا انتظام ہے؟ ۴- انقلاب سے پہلے پاکستان میں سیاسی زندگی کس طرح کی تھی؟ ۵- اپنے ملک کی جمہوریت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ۶- صدر پاکستان نے کون سی اسکیم پیش کی؟ ۷- نئی اسکیم کے مطابق پاکستان کو کتنے حلقوں میں بانٹا گیا؟ ہر حلقہ میں کتنے لوگ تھے؟ ۸- بنیادی جمہوریت کی تفصیل بیان کرو۔ ۹- نئی اسکیم کے مطابق الیکشن کب ہوئے اور اُس میں کتنے فی صدی مردوں اور عورتوں نے حصہ لیا؟ ۱۰- جو لوگ ۱۹۶۰ء کے الیکشن میں چُنے گئے وہ عوام کے بہتر نمائندے کیوں کہے جاسکتے ہیں؟

# آسٹریلیا میں ناجائز دولت کے مالکوں کی پریشانی

## ملک کی کرنسی تبدیل ہو رہی ہے

سڈنی۔ ۲۹ جون۔ آسٹریلیا کی حکومت نے اپنی پرانی کرنسی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور نئی کرنسی ۱۹۶۶ء تک بازار میں رائج کر دی جائے گی۔

پتہ چلا ہے کہ<sup>۱</sup> حکومت کے اس فیصلے کے بعد یہاں لوگوں نے دھڑا دھڑا پرانی کرنسی کو بینکوں میں جمع کروانا<sup>۲</sup> شروع کر دیا ہے۔ آسٹریلیا کے بینکوں پر لوگوں کی بھیڑ رہتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ناجائز طریقوں سے دولت جمع کی تھی وہ چوری چھپے اپنی دولت کو ادھر ادھر کرنے میں<sup>۳</sup> مصروف ہیں لیکن حکومت کے کارخانہ<sup>۴</sup> سے بھی چوکس ہیں۔ بینک کے منتظمین کا کہنا ہے<sup>۵</sup> کہ لوگ برسوں پرانے بوسیدہ اور گلے سڑے نوٹ دینے کے لئے بڑی تعداد<sup>۶</sup> میں ہمارے پاس لارہے ہیں۔

ٹیکس چوروں<sup>۷</sup> کے خلاف ٹیکس آفیسر کارروائی کر رہے ہیں<sup>۸</sup>۔ بعض لوگ اپنی چھپی ہوئی دولت کو ضائع کرنے میں لگے ہوئے ہیں<sup>۹</sup> تاکہ حکومت کی گرفت سے بچے رہیں۔ بینک کے منتظمین کا دعویٰ ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگوں کے پاس ایسی دولت چھپی پڑی ہے جسے دوسری جنگِ عظیم کے بعد کبھی باہر نہیں نکالا گیا۔

Unit XXVII: Notes

1. /naa-jaa'iz/ : "illegitimate." From /jaa'iz/, "legitimate; ethically or religiously permissible." The two should be distinguished from: /qaanuunii/, "legal," /Gair-qaanuunii/, "illegal."

2. /pataa calaa hai ki.../ : "It has been learned that..."

/pataa calnaa/ : KM : "to come to know about Y /-kaa/." It may also be used without a /-koo/ phrase and with reference to either some person or thing, in which case /pataa/ would have the same meaning as the English "trace" in, say, "No trace of it was found." Related verb: /pataa calaanaa/, "to make inquiries concerning the whereabouts or the state of X /-kaa/." (Also see 2:25.)

mujhee unkee aanee-kaa pataa      I didn't hear about his arrival.  
nahiiN calaa

tumheeN aslii baat-kaa pataa tab      Only then will you learn the real  
caleegaa      facts.

un-kee saamaan-kaa kuch pataa      Was anything found out concerning  
calaa?      his [lost] baggage?

3. /jamaa-karwaanaa/, "to deposit [as in a bank];" lit. "to have something collected by someone." Some people also use /jamaa-karaanaa/ in the same sense.

4. /idhar-udhar karnee-meeN masruuf haiN/, "[They] are busy hiding it."

/idhar-udhar karna/ : N : "to scatter; to throw away or waste."

5. /kaarxaanaa/, in contemporary Urdu, generally means "factory." The sentence here has it in an older usage, an interesting choice on the part of the person who originally translated this news item from English into Urdu. The English phrase, "the state's machinery," is more often translated: /hukumat-kii masiin/ or /sarkarii masiinarii/.

6. X /-kaa/ kahnaa hai ki.../, "X states that..."

7. /barsoon puraanee/ : "years old."

The words for units of time and space may be used in the oblique plural to express a generalized and substantially large measure of the same. Examples: /mahiinoon puraanii baat/, "a months old matter;" /gazoon lambaa/, "lengthy by yards."

8. /taadaad/ : F : "number; the count." Related words: /adad/, "numeral, number;" /gintii/, "the count." While /taadaad/ will be used with count nouns, /miqdaar/, "quantity"—also a feminine noun—will be used with mass nouns.

un-kii kitaaboon-kii taadaad      the number of her books  
caar adad keelee      [a total] of four bananas  
eek adad keelaa      [exactly] one banana

paanii-kii miqdaar                      the quantity of water

9. /Taiks-coor/, "people who don't pay taxes." Lit., "one who steals taxes." Cf., /kaam-coor/, "lazy." Related words: /coorii/, F, "theft;" /coor/, thief."

10. /....kaarrawaaii kar-rahee haiN/, "[Tax officers] are taking action against. . ."  
/kaarrawaaii/, a feminine noun, means, "proceedings; legal procedure; legal or proper action." Examples: /jalsee-kii kaarrawaaii/, "the proceedings of the meeting;" /siyaasii kaarrawaaii/, "political action."

11. /loog. . .daulat-koo zaayaa-karnee-meeN lagee huee haiN/ : "People are busy destroying the. . . wealth."

X/-meeN lagna/, "to get busy with X; to become occupied with X."

woo apnee kaam-meeN lagii thii      She was busy in her work.

apnee kaam-meeN lag-jaaoo      Get busy with your work.

kyaa tum isii kaam-meeN lagee      Will you remain occupied with just  
rahoogee                              this work?



## Exercises

### A. Situational variants.

آسٹریلیا میں جن لوگوں نے ناجائز طریقے سے پیسے کمائے تھے اُن کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ملک میں کرنسی بدلنے والی ہے۔ نئی کرنسی ۱۹۶۶ء تک بازار میں چلنے لگے گی۔ یہ معلوم ہوا ہے کہ اس سرکاری فیصلہ کے بعد یہاں کے لوگوں نے چوری سے جمع کی ہوئی پرانی کرنسی کو بینکوں میں جمع کرانا شروع کر دیا ہے۔ وہ لوگ جو غیر قانونی دولت کے مالک ہیں اپنی دولت کو حکومت کی نظر سے بچا کر ادھر ادھر لگانا چاہتے ہیں۔ حکومت اُن کی حرکتوں سے واقف ہے۔ بینک والے کہتے ہیں کہ لوگ کئی سال کے پھٹے پرانے، گلے سڑے نوٹ بڑی تعداد میں جمع کرانے کے لئے لا رہے ہیں۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ حکومت اس سلسلے میں کچھ نئے قانون بھی بنا رہی ہے۔ بینک افسروں کا کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں بعض لوگوں کے پاس تو ایسا پیسہ بھی ہے جو دوسری جنگِ عظیم کے بعد سے کبھی کسی کام میں استعمال نہیں کیا گیا۔

1. غیر قانونی	Gair-qaanuunii	illegal
2. پھٹنا	phaTnaa	to get torn
3. قانون	M qaanuun	law

### B. Translate into English.

ناجائز دولت کے مالکوں کو کبھی غریبوں سے ہمدردی نہیں ہوتی۔ چھوٹے بچے کی بیماری کی وجہ سے ماں کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ آج کل موسم روز تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ احمد اپنی پرانی سائیکل بیچ کر نئی سائیکل خرید لایا۔ بہت پرانا اور بوسیدہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنا مکان

تبدیل کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ اس لڑکی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اُس لڑکے سے شادی نہیں کرے گی۔ ہندوستان اور پاکستان میں آنے اور پائی کی جگہ نئی کرنسی کافی دنوں سے رائج ہے۔ پتہ چلا ہے کہ آج ریل وقت پر نہیں آرہی ہے اور دو گھنٹے دیر سے آئے گی۔ میں باتیں کرنے میں لگ گیا اس لئے دیر ہو گئی۔ دنوں بعد جب احمد یہاں آیا تو ہمیں پتہ چلا کہ مقدمہ کا فیصلہ اُس کے خلاف ہو چکا ہے۔ کل میں میلہ میں گیا تھا مگر بھیڑ کی وجہ سے کچھ دیکھ نہ پایا۔ نئے قانون کے مطابق ایک روپیہ میں سو پیسے ہونگے جبکہ پہلے ایک روپیہ میں چونسٹھ پیسے ہوتے تھے۔ یہ عمارت صدیوں پرانی ہے۔ شوکت نے کتابوں کی اچھی خاصی لائبریری جمع کر لی ہے۔ میں پروفیسر صاحب سے ملنے اُن کے کمرے پر گیا تو معلوم ہوا کہ وہ لکچر تیار کرنے میں مصروف ہیں۔ آزادی کے بعد اس صوبہ میں سینکڑوں کارخانے کھل گئے ہیں جہاں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں۔ جلسہ کے منتظمین کا کہنا ہے کہ لگ بھگ چار ہزار آدمی جلسہ میں موجود تھے۔ وہ صاحب برسوں بینک میں کام کرتے رہے اور آخر میں بینک کے صدر بھی بنائے گئے۔ اُس لڑکے کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ کسی نے کسی کے خلاف کچھ کہتا رہتا ہے۔ سنا ہے کہ جو چور پکڑے گئے تھے اب اُن کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ شہر میں ادھر ادھر گھومنے کے بعد طلباء کا گروہ یونیورسٹی واپس آیا۔ دوسری جنگِ عظیم کے بعد ایشیا اور افریقہ کے سب ملکوں نے آزادی حاصل کر لی ہے۔ امتحان قریب ہونے کی وجہ سے اکثر طلباء پڑھائی میں مصروف ہیں، مگر بعض اب بھی اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اُن کے خیال میں کچھ لوگ بازاروں میں پیسے مانگتے پھرتے ہیں تاکہ کام کرنے سے بچے رہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ لوگوں کے پاس جو دولت چھپی پڑی ہے اُس کو نکال کر عام لوگوں کے فائدے کے لئے استعمال میں لائے۔ انکا یہ کام مذہبی اور اخلاقی دونوں اعتبار سے بالکل ناجائز ہے۔ یہ کتاب برسوں اُن کی لائبریری میں چھپی پڑی رہی اور انہیں یہ پتہ بھی نہ چلا کہ کتنی قیمتی ہے۔ چونکہ آج صدرِ پاکستان کی آمد ہے اس لئے ضلع کے تمام آفیسر انتظام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ٹیکس کا جو نیا قانون بنایا گیا ہے اُس سے سب لوگ خفا ہیں۔ حکومت اگر ٹیکس نہ جمع کرے تو

عوام کے فائدے کے کام کیونکر کرے۔ آپ کس بینک میں پیسہ جمع کرواتے ہیں۔ میں گھر پہنچتے ہی کھانا پکانے میں لگ گیا اسلئے آپکو ”فون“ کرنا بھول گیا۔

### C. Fill in the blanks.

آسٹریلیا میں ..... دولت کے مالکوں کی ..... ملک کی کرنسی ..... ہے۔ آسٹریلیا کی حکومت نے اپنی پرانی کرنسی کو ..... کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ..... ہے کہ حکومت کے اس ..... کے بعد یہاں لوگوں نے دھڑا دھڑ ..... کرنسی کو بینکوں میں جمع ..... شروع کر دیا ہے۔ آسٹریلیا کے بینکوں ..... لوگوں کی بہت ..... رہتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ناجائز ..... سے دولت جمع ..... تھی، وہ چوری چھپے اپنی دولت کو ..... ادھر کرنے میں ..... ہیں۔ بینک کے ..... کا کہنا ہے کہ لوگ ..... پرانے گلے سڑے نوٹ دینے ..... بھاری ..... میں ہمارے ..... لا رہے ہیں۔ ٹیکس چوروں کے ..... ٹیکس افسر ..... کر رہے ہیں۔ بعض لوگ اپنی چھپی ہوئی ..... کو ضائع ..... میں لگے ہوئے ہیں تاکہ ..... کی گرفت سے بچے رہیں۔ بینک کے منتظمین کا ..... ہے کہ ملک میں ..... لوگوں کے ..... ایسی دولت چھپی پڑی ہے جسے ..... جنگِ عظیم کے بعد کبھی باہر نہیں ..... گیا۔

### D. Translate into Urdu.

1. Wealth increases man's ease, and also his worries. II. The government of this country is changing after the elections. III. She invested in trade all the money she received. IV. I am thinking of changing my college. V. We think this procedure is illegal. VI. The government will not take any action against the students who took part in this movement. VII. Who did you finally decide to marry? VIII. The central assembly has passed a new law concerning taxes. IX. These days there are large crowds in the stores because Christmas is not too far. X. He refused to gain wealth by illegal means. XI. People say he was always busy doing social work. XII. He claims this land belongs to him since he has lived on it for years. XIII. I live in the fifth house on this road. XIV. We need

a new law to end all kinds of discrimination. XV. It has been learnt that the President of Pakistan will not come to America in August. XVI. This law was made for the benefit of some rich people. XVII. You are wasting your time, and also mine. XVIII. It is his habit to go for a walk in the morning. XIX. The news of the President's illness first spread only within a small political circle. XX. We somehow found out that the case would be decided against us.

**E. Answer the following in Urdu.**

- ۱- آسٹریلیا میں کون لوگ پریشان ہیں؟ ۲- آسٹریلیا کی حکومت نے کرنسی کے متعلق کیا فیصلہ کیا؟ ۳- حکومت کے فیصلے کے بعد لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ۴- آسٹریلیا کے بینکوں میں کیا حال ہے؟ ۵- جو لوگ ناجائز طریقوں سے دولت کماتے تھے وہ کیا کر رہے ہیں؟ ۶- بعض لوگ چھپی ہوئی دولت کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ۷- ناجائز دولت کس کو کہتے ہیں؟ کیا قانونی دولت بھی ناجائز ہو سکتی ہے؟ ۸- آپ کے ملک میں جو کرنسی رائج ہے اس کا کیا نام ہے؟ اس کی تفصیل بتائیے۔ ۹- آپ کے ملک میں قانون کیسے بنائے جاتے ہیں؟ ۱۰- کیانسی اور مذہبی امتیاز قانون کے ذریعہ دور کیے جاسکتے ہیں؟

## Review Sentences

- ۱- صدیوں سے یہ رسم اسی طرح سے ادا کی جاتی ہے اس لئے کوئی تبدیلی آسان نہیں۔
- ۲- شکاگو یونیورسٹی میں تقریباً بیس فی صدی دوسرے ملکوں کے طلباء ہیں۔ ۳- میں شام کو زیادہ تر گھر پر ہی رہتا ہوں، باہر کم جاتا ہوں۔ ۴- ہمارے ملک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لانے اور لے جانے کے لئے زیادہ تر ریل کا استعمال ہوتا ہے۔ ۵- جاوید اپنے گھر سے دوکان تک جانے کے لئے زیادہ تر بس اور کبھی کبھی سائیکل کا استعمال کرتا ہے۔ ۶- شمیم صاحب جاوید سے بات نہیں کرتے ہیں، اس پر بھی جاوید اُن کے گھر جاتے رہتے ہیں۔
- ۷- اُن کی طبیعت بہت خراب ہے لیکن اس پر بھی وہ چلنے پھرنے سے باز نہیں آتے۔ ۸- آج سے چند مہینے پہلے تک یہاں پر بڑا خوبصورت سا باغ تھا۔ ۹- میں نے اپنے نوکر کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ یہاں شام تک ضرور آجائے۔ ۱۰- اُس نے ریل کے پہنچنے کا بہت دیر تک انتظار کیا پھر بھی ریل نہیں آئی۔ ۱۱- سرسید مرتے وقت تک اپنی قوم کو سدھارنے کی کوشش میں لگے رہے۔ ۱۲- میں تو بس اتنا کہتا ہوں کہ انسان کو کام کرنے کا ڈھونگ نہ کرنا چاہیے، بلکہ پورے طور سے کام کرنا چاہیے۔ ۱۳- ہر صدی میں دنیا کو ایک نئے انقلاب کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ۱۴- میں نے محسوس کیا ہے کہ جاوید کی زندگی میں بڑا انقلاب آ گیا ہے۔ ۱۵- اُن اخباروں میں اکثر فرضی خطوط بھی چھاپے جاتے ہیں۔ ۱۶- جمہوری حکومت میں عوام کو بھی ملک کی سیاست میں حصہ لینے کا حق ہوتا ہے۔ ۱۷- میرے بھائی کی تندرستی ٹھیک نہیں ہے، اس لئے وہ کسی قسم کے کھیل میں حصہ نہیں لے سکتا۔ ۱۸- امریکہ کے سیاسی حلقوں میں نسلی امتیاز کے سوال پر ایسا نہیں ہے۔ ۱۹- ہر ملک کے لوگ اپنے کو مختلف سیاسی اور سماجی حلقوں میں بانٹ لیتے ہیں۔ ۲۰- عید کے دن امیر لوگ غریبوں میں روپیہ پیسہ بانٹتے ہیں۔ ۲۱- غیر قانونی دولت بڑھنے سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ ۲۲- میرے کالج میں طالب علموں کی تعداد لگ بھگ دو ہزار ہوگی۔ ۲۳- میں اپنے مکان میں گرمیوں کے موسم میں چھت پر سوتا ہوں۔ ۲۴- آج کل تقریباً ہر جگہ کھانا میز پر رکھ کر کھاتے ہیں۔ ۲۵- میری لکھنے کی میز پر جو کتاب

سب کتابوں کے اوپر رکھی ہے وہ لے آؤ۔ ۲۶- جج نے اپنا فیصلہ نئے قانون کے مطابق کیا ہے۔ ۲۷- ہمارے بھائی کے پاس کار بھی ہے اور سائیکل بھی۔ ۲۸- پورس کے مقابلے میں سکندر کی فوج زیادہ بہتر تھی گو وہ تعداد میں کم تھی۔ ۲۹- آج تمہارا دوست کالج میں کھیلوں کے مقابلے میں اوّل آیا۔ ۳۰- شکاگو یونیورسٹی میں باہر سے آنے والے طالب علموں کی تعداد امریکی طلباء کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ۳۱- سکندر کے مقابلے میں بہت سے بادشاہ آئے لیکن وہ کسی سے بھی نہیں ہارا۔ ۳۲- ہر ملک میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ناجائز چیزوں کے استعمال کو جائز سمجھتے ہیں۔ ۳۳- جن کے پاس ناجائز مال جمع ہوتا ہے اکثر وہی لوگ سیاسی تنظیموں کو زیادہ پیسہ بھی دیتے ہیں۔ ۳۴- سب ملکوں میں پرانے رسم و رواج آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ۳۵- میں سوچ رہا ہوں کہ اپنا پرانا مکان جلد ہی تبدیل کر دوں۔ ۳۶- میرے دوست نے اپنی خراب کار کو جلد تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ۳۷- حکومت کو اہم باتوں کے متعلق فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ۳۸- جج جب کسی مقدمہ کا فیصلہ کرتا ہے تو اُس کی نظر مجرم اور جرم دونوں پر ہوتی ہے۔ ۳۹- جاوید کو کل ہی پتہ چلا کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ۴۰- میں جس کتاب کو تلاش کر رہا تھا اُس کا پتہ چل گیا ہے۔ ۴۱- ٹیکس افسروں کو لوگوں کی ناجائز دولت کا فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ ۴۲- منڈی میں تازی ترکاریاں دھڑا دھڑا پک جاتی ہیں۔ ۴۳- عید کے تیوہار کی وجہ سے شہر کے راستوں پر چلنے پھرنے والوں کی بھیڑ ہے۔ ۴۴- قانون کی گرفت سے بچنے کے لئے دکانداروں نے ناجائز طریقوں سے لائے ہوئے مال کو دھڑا دھڑا سستی قیمت پر بیچنا شروع کر دیا ہے۔ ۴۵- جو تاجر چوکس ہوتے ہیں وہ اپنے مال کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے۔ ۴۶- میرا دوست اپنے کام میں بہت چوکس رہتا ہے۔ ۴۷- قانونی طور پر آپ کو ایسا کرنے کا حق نہیں۔ ۴۸- میرے بھائی کی میز پر یہ سارے خط کئی دنوں سے ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ ۴۹- جو تصویریں میں نے اپنے دوست کو بھیجی تھیں وہ کہیں راستہ میں ضائع ہو گئیں۔ ۵۰- میں نے تو سب چیزیں ٹھیک سے رکھ دی تھیں، یہ تو تم نے ان کو ادھر ادھر کر دیا۔

## خطرے جن کا سامنا ہے

جن سنگھ نے گزشتہ الیکشن ہی میں کافی زور پکڑ لیا تھا۔ لیکن اب چین کے حملے کے بعد اُس کے زور میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جس کا ثبوت ہے کرشنامین کا ہٹایا جانا۔<sup>۳</sup> کرشنامین محض اِس لئے ہٹائے گئے کہ جن سنگھ اُن کے خلاف غصہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئی اور اِس غصے میں بھرے ہوئے عنصر کو راضی کرنے پر حکومت مجبور ہو گئی۔ اگر عام حالات ہوتے تو شاید حکومت اِس غصے سے بچنے لیتی۔<sup>۵</sup> لیکن جنگ کی حالت میں اندر کسی قسم کی لڑائی لڑنا ممکن نہ تھا۔ لیکن اگر جن سنگھ حکومت کو ایک پہلو پر اتنا دبا سکتی ہے تو ذرا اور زور پکڑ کر اور پہلوؤں پر بھی دبا سکتی ہے، یعنی امکانات کے دروازے کھل گئے ہیں۔

گزشتہ الیکشن میں کرپلانی جی کے نقطہ پر آکر تمام سیاسی پارٹیوں کا مل جانا بھی بہت خطرناک مستقبل کی نشان دہی تھی۔ اِس کے معنی یہ تھے کہ سیاست میں ایسے مواقع نکل سکتے ہیں جب سوشلسٹ پارٹیاں اپنی سوشلزم کو بھلا کر سرمایہ پرست پارٹیوں سے مل جائیں اور قوم پرور<sup>۸</sup> پارٹیاں اپنی قوم پروری کو بھلا کر فرقہ پروروں سے مل جائیں۔ دوسرے لفظوں میں اِس بات کا امکان ہے کہ پرچا سوشلسٹ اور سوشلسٹ پارٹیاں یہ دونوں جن سنگھ کی فوج کے دستے بن جائیں۔

ان دونوں پارٹیوں کی سوشلزم ہے کیا؟ کیا ان کی سیاسی زندگی کا کوئی بھی گوشہ ایسا ہے

جس میں سوشلسٹ عناصر پائے جاتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ہم سے اُلٹ کر پوچھا جاسکتا ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کا نظریہ کیا ہے اور عمل کیا ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں سوشلسٹ پارٹیاں نظریہ کے لحاظ سے ابھی بہت کچی ہیں۔<sup>۱۰</sup> اس وجہ سے اُن کے عمل کے حدود نہیں بن سکتے۔ وہ ہر قسم کے پروگرام پر عمل کر سکتی ہیں۔ ایسی ڈھیلی ڈھالی پارٹیوں کے بارے میں ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں وہ ادھر یا ادھر نہ ڈھلک جائیں۔<sup>۱۲</sup> پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ ان دونوں سوشلسٹ پارٹیوں میں سے کسی نے کسی موقع پر بھی کھل کر فرقہ واریت کا مقابلہ نہیں کیا ہے، بلکہ وہ ایک طرح سے فرقہ واریت کو طرح دیتی رہی ہیں۔<sup>۱۳</sup>

اس جگہ ایک بات اور کہنے کو باقی رہ گئی ہے کہ اگر کبھی جن سنگھ ان دونوں سوشلسٹ پارٹیوں کو لے کر الکشن جیتے گی یا حکومت بنائے گی تو یہ دونوں پارٹیاں جن سنگھ میں اس طرح گھل جائیں گی جس طرح پانی میں نمک۔ ان دونوں پارٹیوں میں سے کسی کے پاس نہ ایسا نظریہ ہے جو اُس کے ممبروں کے ضمیر کو ایسا کرنے سے روکے اور نہ ایسی روایات ہیں جو راہ میں حائل ہوں۔ اس لئے مشترکہ الکشن ہو یا مشترکہ حکومت وہ بہت جلد جن سنگھ کی فتح اور خالص جن سنگھ کی فتح بن جائے گی۔

امروہے کے الکشن نے اس خطرے کو بے حد روشن کر دیا<sup>۱۴</sup> ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں سوشلسٹ پارٹیاں کٹھ پتلیاں بن کر جن سنگھ کے اشاروں پر رقص کرنے لگیں۔ اگر ایسا ہوا تو جن سنگھ کے اقتدار میں آنے کے امکانات بہت روشن ہو جائیں گے۔



Unit XXVIII: Notes

1. /xatree jin-kaa [hameeN] saamnaa hai/ : “The Dangers that We Face.”  
/saamnaa/, a masculine noun, may be translated as “encounter; confrontation.” It is most frequently found in two constructions:

1. /saamnaa hoonaa/ : KM : “to be confronted with X /-kaa/.” Example: /mujhee eek muṣkil-kaa saamnaa hai/, “I’m confronted with a problem.”

2. /saamnaa karnaa/ : NM : “to actively confront X /-kaa/.” Example: /ham-nee har muṣkil-kaa saamnaa kiyaa/, “We [resolutely] confronted every problem.”

2. This is an editorial from the respected secular-nationalist newspaper, *Qaumi Awaz* (Lucknow), dated June 16, 1963. It deals with the rise of the Hindu nationalist party, Jana Sangh—the forebear of the present Bharatiya Janata Party—and the tendency among many left parties to join with the Jana Sangh for narrow gains. Its writer, Hayatullah Ansari, was a prominent Muslim member of the Indian National Congress and also a respected fiction writer.

3. After the Sino-Indian border war in 1962, there was a general feeling that the then Defence Minister, V. K. Krishna Menon, had failed in his job. He eventually had to resign, much against the wishes of Prime Minister Jawaharlal Nehru.

4. /is Gussee-meeN bharee-huee unsur/ : “...this angry element...”

/unsur/ : M : “element; constituent part.”

/Gussaa/ : M : “anger.” It is used in several verbs; the two more common are:

/Gussaa karnaa/ : NM : “to berate or scold X /-par/;” and /Gussaa aanaa/ : KM : “to get angry at X /-par/.” These should be learned together with two other verbs: /xafaa-hoonaa/, “to berate Z /-par/; to be angry about Y /-par/;” and /xafaa-hoonaa/, “to be angry at X /-see/.”

aap mujh-par kyooN Gussaa kar-rahee haiN?

Why are berating me? Why are you getting angry at me?

mujhee un-kii is baat-par Gussaa aayaa

I got angry at this remark of his.

tumhaaree bhaai tum-par kyooN xafaa hoo-rahee thee?

Why was your brother scolding you?

maiN najmaa-see xafaa nahiiN

I’m not angry at Najma.

maiN najmaa-kee jaanee-par xafaa nahiiN

I’m not angry about Najma’s departure.

It should be remembered that /Gussaa/ connotes greater intensity of anger than /xafaa/. (Also see 7:29.)

5. /Takkar leenaa/ : NF : “to butt against X /-see/; to meet X's /-see/ challenge.”  
 /Takkar/, a feminine nouns, means: “collision.” Related verbs: /Takkar hoonaa/ : Ki.F :  
 “To collide with X /-see/; /Takraanaa/ : N : “to collide with X /-see/.”

raastee-meeN meerii un-see Takkar On the way I collided with him.  
 hoo-gaii

aaj doo mooTarooN-kii Takkar Two cars collided today.  
 hoogaii

aaj doo mooTareeN Takraa-gaiiN -ditto-

hamaarii mooTar eek peeR-see Our car hit a tree.  
 Takraaii

6. /andar/, i.e., /mulk-kee andar/, “internally, within the country.”

7. J. B. Kripalani, a leading figure in the Praja Socialist Party of India, but earlier a member of the Congress Party. In a bye-election in 1963, Kripalani ran for the parliament from Amroha (Uttar Pradesh). His opponent was Hafiz Muhammad Ibrahim, then a minister in Nehru's cabinet but needing to win the election for confirmation. All opposition parties, including the Jana Sangh, gave their support to Kripalani, whose easy victory was a major setback for the ruling Congress Party.

8. /qaum-parwar paarTiyaaN/ : “nationalist parties.”

/parwar/, active participle of the Persian verb /parwardan/, “to nurture, bring up,” is used in combination with nouns to express something similar to the English suffix, “-ist.” Example: /firqaa-parwar/, “communalist,” from /firqaa/, “sect.” Despite the immediately preceding example, most compound words with /-parwar/ will have a connotation of approval. (Also see 11:24.)

9. /is sawaal-kee jawaab-meeN ham-see ulaT-kar puuchaa jaa-saktaa hai/ : “In answer to our query we might ourselves be asked...”

/ulaT-kar/, “turning something over; in retort.” From /ulaTnaa/, “to turn over something.” Related adjective: /ulTaa/, “upside down; reverse.” The antonym of /ulTaa/ is /siidhaa/.

10. /kaccaa/, “unripe; raw, uncooked,” hence, “inexperienced; novice.”

11. /aisii Dhiilii-Dhaalii paarTiyooN-kee baaree-meeN/ : “Concerning such loosely held-together parties...”

/Dhiilaa-Dhaalaa/, “loosely put together; loosely functioning; not smart or efficient.” From /Dhiilaa/, “loose, not properly fitting, not tight.”

12. /kahiiN woo idhar yaa udhar na Dhulak-jaaeeN/ : “Lest they roll off to one side or another.”

/kahiiN/ is functionally the same as the phrase, /aisaa na hoo ki/. Both can be placed at the beginning of a sentence or just before the verb phrase, and express the kind

of concern or fear that one can in English with “lest...” Mostly they will be used with the verb in the subjunctive. Examples: /kahiiN woo calii na jaaee/, “Lest she goes away.”  
/jaldii kiijiyee, kahiiN baariṣ na hoonee-lagee/, “Hurry, lest it starts raining.”

13. /balki woo eek tarah-see firqaa-waariyat ko tarah deetii rahii haiN/ : “On the contrary, they have been encouraging communalism in a way.”

/tarah deenaa/ : NF : “to encourage or incite X /-koo/ [to commit further wrongs by deliberately turning one's attention away from X].” But, /tarah dee-jaanaa/, “to ignore or look away [with compassion] from [the wrong done by] X /-koo/.”

14. /is xatree-koo ... rausan kar-diyaa hai/ : “...has made this danger vivid...”

/rausan/, “bright; lit.” Related verbs: /rausan-karnaa/, “to brighten, make vivid; to light (a lamp, etc).” /rausan-hoonaa/, “to become bright; to get lit.”

## Exercises

### A. Situational variants.

گذشتہ انتخاب میں جن سنگھ کا زور بڑھا تھا، لیکن یہ زور چین کے ہندوستان پر حملہ کے بعد اور بھی بڑھ گیا ہے۔ اگر جن سنگھ سرکار کو ایک اہم بات میں اس طرح مجبور کر سکتی ہے تو اگر اُس کا زور بڑھتا رہا تو اور باتوں میں بھی مجبور کرنے لگے گی۔ یہ کافی خطرناک بات ہوگی۔ چونکہ عوام غصہ سے بھرے ہوئے تھے اس لئے نہ چاہتے ہوئے بھی کرشنا مین کو ہٹانا پڑا۔ گذشتہ الیکشن میں کرپلانی جی کے انتخاب کے سلسلے میں ساری سیاسی پارٹیوں کا ایک ہو جانا بھی مستقبل میں خطرے کی نشانی ہے۔ اس حالت میں یہ بھی ممکن ہے کہ پر جا سوشلسٹ اور سوشلسٹ یہ دونوں پارٹیاں کسی موقع پر جن سنگھ کے ساتھ مل جائیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ دونوں پارٹیاں کہاں تک سوشلسٹ ہیں۔ دراصل ان دونوں سوشلسٹ پارٹیوں کے سیاسی نظریوں کی صحیح شکل مقرر نہیں ہو سکی ہے نہ ان دونوں کے نظریوں میں کوئی خاص اختلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں سوشلسٹ پارٹیاں کسی وقت بھی فرقہ واریت کے خلاف کھل کر نہیں آئی ہیں۔ ایک اور بھی کہنے کی بات ہے، وہ یہ کہ اگر کسی وقت جن سنگھ ان دونوں سوشلسٹ پارٹیوں کو اپنے ساتھ لے کر الیکشن میں کامیاب ہو گئی تو یہ دونوں پارٹیاں جن سنگھ میں اس طرح غائب ہو جائیں گی جیسے پانی میں نمک۔ اس لئے اگر ملا جلا الیکشن ہوا اور ملی جلی حکومت بنی تو وہ جلد ہی جن سنگھ کی اور صرف جن سنگھ کی کامیابی بن کر رہ جائے گی۔ امر وہہ کے الیکشن کے بعد سے اس بات کا امکان بڑھ گیا ہے کہ سیاسی فائدہ کی خاطر ممکن ہے یہ دونوں سوشلسٹ پارٹیاں جن سنگھ کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائیں۔

1. اختلاف M ixtilaaf difference of opinion, conflict of opinion
2. خاطر xaatir for the sake of X /-kii/

## B. Translate into English.

آپ جس سفر پر جا رہے ہیں اُس میں بہت سے خطرے ہیں۔ وہ غصہ سے بھرے تھے اس لئے میں سامنے سے ہٹ گیا۔ مذہبی امتیاز کے سوال پر اُن دونوں پارٹیوں میں اختلاف ہے۔ مجھے آپ کی تجویز سے اختلاف نہیں، لیکن کیا یہ مناسب وقت بھی ہے۔ اس تحریک سے فرقہ پروری کے بڑھنے کا امکان ہے۔ گذشتہ سال کافی گرمی تھی لیکن اس سال اتنی نہیں ہے۔ عوام کو چاہیے کہ فرقہ پرور لیڈروں سے چوکس رہیں۔ ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے حکومت کو سب لوگوں کو چھوڑ دینا پڑا۔ اس سال گھروں کے کرایوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اپنی گذشتہ پالیسی کو بھلا کر کانگریس نے اس الگشن میں فرقہ پرور پارٹیوں سے مدد لی۔ ہندوستان میں محض سیاسی نقطہ نظر سے ایک الگ پارٹی بنانا مسلمانوں کے لئے خطرناک ہے۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو بھی کام کرنے والا ہے اُس کا اُس کے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا۔ اگر یہ اختلاف بڑھتا رہا تو دونوں ملکوں میں لڑائی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی بغیر سوچے سمجھے کبھی کوئی کام نہ کرے۔ سیاست میں ایسے مواقع نکل سکتے ہیں جب کوئی انسان اپنی نیکی اور پرہیزگاری کو بھلا کر غلط کام کرنے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ سرمایہ پرست اگر قوم پروری کے جذبے کو ترقی دینے میں کامیاب ہو گئے تو شاید غریبوں کو راضی کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ ہم سب کھل کر فرقہ واریت کا مقابلہ کریں۔ اُن کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پاکستان کے قائم ہونے کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کا سیاسی نظریہ کافی بدل چکا ہے۔ یہ محض وقت کی بات ہے ورنہ احمد تو میرے اچھے دوست تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اب ہندوستان کے مسلمانوں کا کوئی مشہور اور مقبول لیڈر نہیں رہا۔ میرے خیال میں ہندوستانی مسلمانوں کے لئے شاید یہ ایک اچھی بات ہے۔ وہ محض اپنے مقصد کے لئے اس طرح کی غلط صحیح باتیں پھیلا کر رہا ہے۔ آپ کو کسی موقع پر یہاں آنا پڑے تو ہمارے گھر ضرور آئیے۔ اب بھی ممکن ہے کہ وہ کچھ دیر کے لئے آجائیں۔ مجھے اس لفظ کے معنی معلوم نہیں۔ جب میں نے سنا کہ شوکت میرے خلاف الگشن لڑیں گے تو میں نے اُن کا مقابلہ نہیں کیا۔ وہاں اور بھی بہت سی جگہ باقی رہ گئی ہے، آپ بھی اپنا مکان بنا سکتے ہیں۔ کانگریس کے صدر نے کہا، ”کانگریس

اُس وقت اپنے پروگرام پر عمل کر سکتی ہے جب کہ الیکشن جیتے اور حکومت بنائے۔ “ملک اور قوم کی روایات کی حفاظت کرنا ضروری ہے ورنہ ملک و قوم کی تہذیب مٹ جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ سے پہلے گھر پہنچ جائیں، اس لئے جلدی کیجئے۔ جلدی کیجئے، کہیں وہ آپ سے پہلے گھر نہ پہنچ جائیں۔ میرے وہاں جانے کے امکانات نہیں ہیں، کیونکہ میں بہت مصروف ہوں۔ یہ ممکن نہیں کہ وہ ہماری مدد کرنے سے انکار کر دیں۔ کانگریس کو چھوڑ کر باقی پارٹیوں یعنی جن سنگھ اور سوشلسٹ پارٹی کو عوام کی مدد حاصل نہیں۔ بڑی دیر ہو گئی، کہیں وہ راستے میں رُک تو نہیں گئے۔ بڑی دیر ہو گئی، لگتا ہے وہ راستے میں کہیں رُک گئے۔

### C. Fill in the blanks.

لیکن اب چین کے ..... کے بعد اُس کے ..... میں اضافہ ہو گیا ہے۔ لیکن ..... جن سنگھ حکومت کو ایک پہلو پر اتنا ..... سکتی ہے تو ذرا اور زور پکڑ کر ..... پہلوؤں پر بھی دبا سکتی ہے۔ اُس کے ..... یہ تھے کہ سیاست میں ایسے مواقع مل سکتے ہیں جب سوشلسٹ پارٹیاں اپنی سوشلزم کو ..... سرمایہ پرست پارٹیوں ..... اور قوم پرور پارٹیاں اپنی قوم پروری کو ..... فرقہ پروروں سے مل جائیں۔ دوسرے لفظوں میں اس بات کا ..... ہے کہ پر جا سوشلسٹ اور سوشلسٹ پارٹیاں یہ ..... جن سنگھ کی ..... کے دستے بن جائیں۔ کیا اُن کی ..... زندگی کا کوئی بھی پہلو ..... ہے جس میں سوشلسٹ عناصر پائے جاتے ہوں؟ پھر ایک ..... یہ بھی ہے کہ اُن دونوں سوشلسٹ پارٹیوں ..... کسی نے کسی موقع ..... بھی کھل کر فرقہ واریت کا ..... نہیں کیا ہے۔ دونوں پارٹیوں میں سے ..... کے پاس نہ ایسا نظریہ ہے جو اُس کے ممبروں کے ضمیر کو ایسا کرنے سے ..... اور نہ ایسی ..... ہیں جو راہ میں حائل ہوں۔ اس لئے مشترکہ الیکشن ہو یا ..... حکومت وہ بہت جلد جن سنگھ کی فتح اور ..... جن سنگھ کی فتح ..... ، اور اگر ..... ہوا تو جن سنگھ کے اقتدار میں آنے کے امکانات ..... ۔

### D. Translate into Urdu.

1. There is no possibility now of his coming today. II. What's the use of

going that far just to eat bad food. III. He says this field belong to him, but he has no proof. IV. It is still possible that our school would win this game. V. His verses were full of patriotic and nationalist sentiments. VI. It seems she has completely forgotten us. VII. Such opportunities may not come again your way. VIII. The two parties greatly differ in their ideologies. IX. Considering the past elections it seems that Congress will win again. X. It is possible that communalism may further increase in the country. XI. I do not oppose your views but only your actions. XII. They have little ancestral land left now. XIII. We openly opposed him in the last election. XIV. He is well acquainted with all the social traditions of his country. XV. The danger of a third world war has increased due to these new developments. XVI. We shall pass a new tax law if our party comes to power. XVII. What was earlier a religious organization has now become a political party. XVIII. We will certainly hire you if an opportunity comes up. XIX. On what particular issue do you have a difference of opinion with him? XX. In my view there is no conflict of opinion between the two organizations on the question of communalism. XXI. The country's future looks brighter since the government adopted a new social policy.

### E. Answer the following in Urdu.

- ۱- کرشنا مین کو ہٹانے میں جن سنگھ کا کیا ہاتھ تھا؟ ۲- اگر جن سنگھ حکومت کو ایک پہلو پر دبا سکتی ہے تو اُس میں خطرے کی کیا بات ہے؟ ۳- کرپانی جی کے الیکشن میں مستقبل کا کون سا خطرناک پہلو ظاہر ہو گیا؟ ۴- نظریہ کے لحاظ سے یہ دونوں سوشلسٹ پارٹیاں کیسی ہیں؟ ۵- عمل کے لحاظ سے یہ دونوں سوشلسٹ پارٹیاں کیسی ہیں؟ ۶- فرقہ واریت کے متعلق ان دو سوشلسٹ پارٹیوں کا نظریہ اور عمل کیا رہا ہے؟ ۷- اگر یہ دونوں پارٹیاں جن سنگھ کے ساتھ مل کر الیکشن جیتیں تو کس بات کا امکان ہے؟ ۸- آپ کے ملک میں کون کون سی سیاسی پارٹیاں ہیں؟ ۹- کیا آپ کے ملک کی دونوں پارٹیاں نظریہ کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ ۱۰- آپ کے خیال میں جمہوریت کو سرمایہ پرستوں سے زیادہ خطرہ ہے یا فرقہ پروروں سے؟

## Review Sentences

- ۱- غریب لوگوں کو اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ۲- آج راستے میں میرا اور جاوید صاحب کا سامنا ہو گیا۔ ۳- امریکہ میں نسلی امتیاز کے دور کرنے کی تحریک دوبارہ زور پکڑ رہی ہے۔ ۴- شکاگو یونیورسٹی کی عمارتوں میں ہر سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ۵- یونیورسٹی نے خرچ کم کرنے کے لئے اپنے اکثر شعبوں میں سے بہت سے لوگوں کو ہٹا دیا ہے۔ ۶- کسی پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانا انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ ۷- یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہ ایک مجرم کے جرم کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ جرم کا اقرار کر لے۔ ۸- تم محض اس لئے بازار نہیں گئے کہ تمہارے پاس سائیکل نہیں تھی! ۹- عام حالات میں اتنے دن ایک شہر میں زکنا شاید ممکن نہ ہوتا۔ ۱۰- میرا دوست مجھ سے خفا ہو گیا ہے اس لئے میں اُس کو راضی کرنے جا رہا ہوں۔ ۱۱- اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی خوشی کے خلاف کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ۱۲- میں اس معاملہ میں آپ کی مدد کرنے سے مجبور ہوں۔ ۱۳- ہر جمہوری ملک میں حکومت اپنے عوام کے مطالبوں کو ماننے پر مجبور ہوتی ہے۔ ۱۴- اس سوال پر اُن سے اختلاف کرنا آسان نہیں۔ ۱۵- میرا دوست اب تم سے ہر کھیل میں ٹھٹھے ہو لے سکتا ہے۔ ۱۶- کسی کام کے شروع کرنے سے پہلے اُس کے ہر پہلو پر غور کر لینا چاہیے۔ ۱۷- جاوید اپنے والد صاحب کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ ۱۸- جب بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہو تو بار بار پہلو نہیں بدلنا چاہیے۔ ۱۹- اُس پہاڑ پر چڑھنے سے پہلے میں نے تم کو اُس کے خطروں کی نشاندہی کر دی تھی۔ ۲۰- سرسید اپنی قوم کو اُس کی خرابیوں کی نشاندہی کرتے رہے۔ ۲۱- سیاسی لیڈروں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم سے وعدہ کر کے اُس کو بھلا دیتے ہیں۔ ۲۲- ماں باپ کی بتائی ہوئی ساری نصیحتیں بچوں کو زیادہ دن یاد نہیں رہتیں۔ ۲۳- آپ مجھے کسی ایسی کتاب کا نام بتائیے جس میں ہندوستان کی اہم سیاسی تحریکوں کی تاریخ لکھی ہو۔ ۲۴- اس کمرے میں گھر کا وہ سامان جو استعمال میں نہیں ہے رکھ کر بند کر دیا جاتا ہے۔ ۲۵- قوم پروری کا جذبہ اگر حد سے بڑھ جائے



تو خود قوم کے لئے خطرہ بن سکتا ہے۔ ۲۶- ہماری تہذیب میں بزرگوں کو اُلٹ کر جواب دینا نہایت بُرا سمجھا جاتا ہے۔ ۲۷- کالج آتے ہوئے راستہ میں دیکھا کہ ایک کار اُلٹی ہوئی پڑی تھی۔ ۲۸- ناصر نے دسترخوان پر گوشت کے سالن کا برتن اُلٹ دیا۔ ۲۹- مجھے آپ سے ہمدردی ہے، لیکن نظریاتی اختلاف بھی ہے۔ ۳۰- چھوٹوں کو چاہیے کہ بزرگوں کے ساتھ ہمیشہ تہذیب سے پیش آئیں۔ ۳۱- اب اس کا امکان کم رہ گیا ہے کہ وہ آج آئیں۔ ۳۲- یہ عمارت کسی لحاظ سے اس قابل نہیں ہے کہ کرایہ پر لی جائے۔ ۳۳- لوگ گرمیوں میں ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں۔ ۳۴- میرے دوست کہتے ہیں کہ جاوید صاحب نہایت ڈھیلے ڈھالے افسر ہیں۔ ۳۵- سنتے ہیں کہ اُس کالج کا انتظام آج کل بڑا ڈھیلا ڈھالا ہو رہا ہے۔ ۳۶- انتخاب میں جن لوگوں نے ووٹ ڈالا اُن میں صرف تیرہ فی صدی عورتیں تھیں۔ ۳۷- حکومت اپنے فائدے کے لئے کبھی کبھی کسی خاص فرقہ کو طرح دینے لگتی ہے۔ ۳۸- پورس کی فوج نے سکندر کا مقابلہ بہادری سے کیا۔ ۳۹- اُن دونوں کرسیوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لو پھر جو پسند آئے وہ خرید لو۔ ۴۰- اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو کمزور پارٹیاں ایک دوسرے میں گھل مل کر ایک نئی اور مضبوط پارٹی بن جاتی ہیں۔ ۴۱- فوج کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے افسروں کے حکم پر کام کرے۔ ۴۲- میری کامیابی کی راہ میں بہت سی مشکلات حائل ہیں۔ ۴۳- اُس عمارت اور بڑی سڑک کے درمیان جو بڑے بڑے پتھر حائل ہیں اُن کو ہٹا کر ایک تیلی سی سڑک بنائی جاسکتی ہے۔ ۴۴- ہندوستان میں سوشلسٹ پارٹی کے جیتنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ۴۵- حکومت نے جو فیصلہ کیا تھا اُس پر قائم نہ رہ سکی۔ ۴۶- دفتر کی کارروائی دیکھنے کے بعد وہ خوش خوش واپس گئے۔ ۴۷- ہمارا صوبہ ملک میں سب سے بڑا ہے البتہ انتظام میں سب سے اچھا نہیں۔ ۴۸- اب ہمارے ملک میں سیاسی پارٹیوں کو الیکشن لڑنے کی آزادی دے دی گئی ہے۔ ۴۹- میں کیسے بھلا سکتا ہوں کہ آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہمارا تحفظ کیا۔ ۵۰- صرف سیاسی فائدے کی خاطر کچھ لوگ بڑے بڑے نظریاتی اختلافات بھلا دیتے ہیں۔

## یکہ والا (حصہ اوّل)

یکے والے نے کہا ”میں تو شر جاؤں گا۔“ میں نے کہا ”میں بھی وہیں چلوں گا۔“ اور ربح شر کے خیال سے چند آنے پیسے یکے والے کو نذر کیے اور کہا ”بھائی چل، جلدی چل۔“ یکہ چل پڑا اور چلتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد شر آگیا۔ ایک موقعہ پر ہمارے ساتھی نے یکے کو رُکولیا اور گلی میں ہو لیے۔ یکے والے نے دریافت کیا ”اور میاں آپ کدھر جائیں گے؟“ میں نے کہا ”کالج۔“ کہنے لگا کہ اسٹیشن پر ہی کیوں نہ کہہ دیا۔ میں نے کہا ”تمہارا کیا بگڑا۔ تم کو یہاں تک کے پیسے دے دیے۔ رہا کالج جانا، اُس کے پیسے یہ لے لو۔“ یکے والے نے کہا ”میں تو کالج نہیں جاؤں گا۔ آج بھر کی رُوٹی کمالی۔ سردی پانی میں جانور کو تکلیف ہوگی۔ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اُن کی خبر لوں گا۔“ میں نے کہا ”تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔“ اُس نے کہا ”آپ جا کر کیا کریں گے؟“ میں نے کہا ”تم جا کر کیا کرو گے؟“ کہنے لگا ”میں تو بچوں کی خبر لوں گا۔ گھوڑے کو دانہ گھاس دوں گا اور پھر آرام کروں گا۔“ میں نے کہا ”میرا بھی یہی ارادہ ہے۔“ بڈھے نے سمجھا کہ قصہ طوالت پکڑے گا اور دلچسپ بھی ہے۔ اُس نے اطمینان سے اپنے میلے بوسیدہ لباس کے معلوم نہیں کس گوشہ سے ایک بیڑی نکالی اور سلگا کر پینے لگا۔ پھر کہا ”میاں! آپ کو مجھ سے مطلب کیا؟“ میں نے کہا ”میں اپنا مطلب کیوں بتاؤں؟“ اُس نے کہا ”تو پھر آپ میرے گھر کیوں جائیں؟“ میں نے کہا ”اور کیوں نہ جاؤں؟“ اُس نے ایک دفعہ

پھر مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھا اور مجھ کو کچھ ایسا معلوم ہوا کہ آج کئی دن کے بعد اُس نے اپنی آنکھوں کو پوری وسعت کے ساتھ کشادہ کیا تھا جس کو بیڑی کے دھونیں نے پھر چھپا دیا۔ کہنے لگا ”تو پھر بیٹھ جاؤ“ تھوڑی دیر بعد ہم سب ایک تازہ نمناک اور غلیظ گلی میں پہنچے۔ آگے ایک چھوٹا سا احاطہ تھا جس میں کثرت سے ہر قسم کے درخت کھڑے تھے۔ کہیں کہیں<sup>۱۵</sup> سے دھواں اُٹھ رہا تھا۔ جس کی وجہ سے موسم کی تاریکی اور ناخوشگواری اور بڑھ گئی تھی۔ درختوں کے اوپر بندر اور کوئے، درختوں کے نیچے مرغیاں اور بچے شور مچا رہے تھے۔ درختوں کی پتیوں سے چھن چھن کر بارش کے قطرے گر رہے تھے۔ جن کی آواز اُس شور و ہنگامے سے مل کر ایک عجیب طرح کا سماں پیدا کر رہی تھی جس کا صرف تصور کیا جاسکتا ہے، شاید بمشکل۔

گھوڑے کی خدمت سے فراغت پا کر<sup>۱۶</sup> یکے بان بچیوں سمیت جھونپڑے میں آیا۔ مجھ کو دیکھ کر چچیاں یک لخت چونک پڑیں۔ یکے والے نے کہا ”ڈرو نہیں۔ ہمارے مہمان ہیں“ ان میں جو بڑی تھی سہم کر کہنے لگی۔ ”ابا! کیا تم پھر یکے لے کر جاؤ گے۔“ میں نے فوراً جواب دیا۔ ”نہیں۔ اب یہ رات بھر تمہارے ہی ساتھ رہیں گے۔“ یکے بان نے یکے پر سے بچھونا<sup>۱۷</sup> اتار کر گھاس پر ڈال دیا۔ چچیاں اُس پر بیٹھ گئیں۔ میں نے پوچھا ”اور کیوں میاں تمہارا نام کیا ہے؟“ اُس نے کہا۔ ”عیدو۔“ میں نے کہا۔ ”عیدو! اُن چچیوں کی ماں کہاں ہے؟“ عیدو اس سوال کو ٹال گیا۔<sup>۱۸</sup> اس طور پر گویا وہاں بچیوں کے سامنے اُس کا تذکرہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کہنے لگا ”میاں! ذرا دیر ہوگئی۔<sup>۱۹</sup> سالن دن کار کھا ہے۔ بس روٹیاں ڈالنی ہیں۔“ میں نے کہا ”نہیں۔ اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔“ میں نے ایک نوٹ دیا اور کہا۔ ”یہ لو، بازار جا کر کھانا لاؤ۔ عمدہ عمدہ کھانے، کچھ پھل اور مٹھائیاں۔“ عیدو نے کہا۔ ”میاں یہ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تو آپ کو

ہمارے روکھے پھیکے<sup>۲۱</sup> پر ہی بسر کرنا ہوگا۔“ میں نے کہا۔ ”اچھا! میں تمہارا کھانا کھاؤں گا۔  
لیکن تم کو میرا کھانا کھانا پڑے گا۔ تم فوراً جا کر سب چیزیں لاؤ۔ اس درمیان میں میں تمہاری  
بچوں کے ساتھ بات کروں گا۔“ عید و کچھ سوچتا ہوا بازار چلا گیا۔ میں نے لڑکیوں سے بات  
کرنا شروع کیا۔

## Unit XXIX: Notes

1. This is a slightly abridged version of an essay by Rashid Ahmad Siddiqui (1897-1977). It begins with the author-narrator coming out of the railway station at Aligarh and trying to find some hackney carriage to reach his home on the campus of the Aligarh Muslim University. At Aligarh, the main city is on one side of the railway station, the campus on the other. Not finding any yakka-driver willing to go to the campus at that late hour, the author tried a subterfuge—with interesting results.

Rashid Sahib was a master stylist in Urdu prose, famous for his amusing but thoughtful essays and pen-portraits. An alumnus of Aligarh, he also taught there for many years and wrote extensively about the place and its people.

/yakkaa/ was a two-wheeled hackney carriage, pulled by one horse, with only a small, barely covered or padded board for the passengers to sit on. The other common hackney was /taaNgaa/, which was lower to the ground, differently shaped, and also more comfortable. Both are now rarely seen in South Asian cities.

2. /rafa'-e-sar-kee xayaal-see/ : “With the idea of avoiding any trouble....”

/rafa'-karnaa/, “to remove or repel.” /rafa'-hoonaa/, “to disappear, go away.” In most contexts, the two verbs can be replaced with /duur-karnaa/ and /duur-hoonaa/, respectively. /sar/, M, “trouble; conflict.”

3. /nazr-karnaa, “to offer something with humility to X /-kii, -koo/.” /nazr/, a feminine noun, means “an offering; a token of submission.” It, for example, used to be the term for the gift that nobles offered to a king at formal occasions.

4. /yakkaa cal-paRaa aur caltaa rahaa/ : “The ekka set off and kept moving.” (See 226.)

5. /eek mauqee-par/ : “At a certain point [in our journey]....”

/mauqaa/, a masculine noun, means “place of occurrence; occasion; opportune time.”

yee baRii xusii-kaa mauqaa hai

It's an occasion of great joy.

jab ham coorii-kee mauqee-par  
pahoNcee...

When we arrived where the burglary had  
occurred....

aaj mujhee un-see milnee-kaa  
mauqaa nahiiN milaa

I didn't find any opportune time today to  
see him.

6. /galii-meeN hoo-liyee/: “...and set off down an alley.” Or, “....and disappeared in an alley.”

/hoo-leenaa/, “to join with X /-kee saath/; to move along with X /-kee saath/.”

7. /tumhaaraa kyaa bigRaa/, “What did *you* lose?” Lit. “What [/kaam/, “work”] of yours went bad?”



/matlab/, a masculine noun, means “meaning; aim or purpose.” The related verb is: /matlab hoonaa/: KM : “to have something to do with X /-see/.” (See 3:19.)

is baat-see aap-koo kooii matlab      You have nothing to do with this  
nahiiN      matter.

Note that it is not the same as the following:

meeraa matlab is-see yee thaa ki....      What I meant by this was....

15. /kahiiN-kahiiN-see/, “...from here and there...” Cf. /kahiiN-see/, “...from somewhere...”

16. /ghooRee-kii xidmat-see faraaGat paa-kar/ : “After getting done with taking care of the horse... “

/faraaGat/, a feminine noun, expresses a sense of relief and freedom from obligations and needs; it may sometimes even mean “prosperity.” Related verb: /faraaGat paanaa/ : NF : “to be done with some obligation.”

17. /bichaunaa/, a masculine noun, means “bedding.” Here, however, it refers to the thin cotton-filled cushion placed on the seat of a /yakkaa/ to soften its hardness.

18. /iiduu is sawaal-koo Taal-gayaa/ : “Eidu ignored the question.”

/Taalnaa/, means “to defer or put off; to ignore or overlook, to let something pass.” Related verb: /Talnaa/, “to move away; to go by; to get deferred.”

tum mujhee is tarah Taal nahiiN      You can’t put me off like this.  
saktee

aaj maiN-nee us-koo baRii muşkil-      I got rid of him today with great  
see Taalaa      difficulty.

unhoon-nee bahot kahaa leekin      He tried hard but I didn’t move  
maiN wahaan-see Talaa nahiiN      away from there.

yee kaam kab-tak Taleegaa      How long will this matter be  
deferred?

19. /miyaaN, zaraa deer hoo-gaii/ : “Sir, it has got a bit late.”

/deer/, a feminine noun, basically means “a short span of time, mostly measurable in hours and minutes.” Related adverbs: /deer-meeN/, “in a little while;” /deer-see/, “late, after some delay.”

kuch deer-meeN woo aa-gayaa      He arrived shortly.

woo kuch deer-see aayaa      He arrived a bit late.

tum kitnii deer-meeN jaaoogee?      When will you go? (Lit., “After  
how much time will you go?”)

ham itnii deer-see yahaan baiThee      We have been sitting here for such  
haiN      a long time.

Related verb: /deer hoonaa/. With just the auxiliary forms of /hoonaa/, it often means “there is/was still some time to X /-meeN/.” Example: /gaaRii jaanee-meeN kuch deer hai/, “There is still some time before the train leaves.” Otherwise, used in an indirect construction, with its subject followed by /-koo/, it means “to be late; to be delayed.”

mujhee deer hoo-gaii                      I was delayed.

caliyee, warnaa deer hoo-jaaegii      Let's go, or else we'll be late.

20. /bas rooTiyaaN Daalnii haiN/ : “I've only to make the *rotis*.”

/rooTii/ : F : “bread.” Generally it refers to a variety of thin flat breads, usually made of unleavened flour and baked on an iron griddle called /tawaa/. The western style loaf of bread is mostly referred to as /Dabal rooTii/, lit. “double *roti*.” /rooTii Daalnaa/, means “to cook the flat bread.” Whereas, /rooTii banaanaa/ will simply mean “to shape the flat bread.” But with /Dabal rooTii/—and with 'cake', etc.—/banaanaa/ will refer to the cooking process too. Example: /yee keek kis-nee banaayaa?/, “Who baked this cake?”

21. /aap-koo hamaaree ruukhee-phiikee-par hii basar karnaa hoogaa/ : “You'll have to subsist on our meagre and insipid food alone.”

/ruukhaa/ is used to indicate that the so qualified noun is without its usual accompaniments. For example: /ruukhii rooTii/, “plain dry bread [without anything to eat it with].” Also,

unhooN-nee ruukhaa-saa jawaab      He answered shortly. [I.e. without  
diyaa    even a smile.]



## Exercises

### A. Situational variants.

یکے والا بولا ”میں تو شہر جا رہا ہوں۔“ مجھے بارش کا ڈر تھا، میں نے کہا ”میں بھی وہیں چلتا ہوں“ اور سوار ہو گیا۔ جب میرے ساتھی اتر گئے تو یکے والے نے پوچھا ”کیوں صاحب، آپ کو کہاں جانا ہے؟“ اُس نے کہا اگر آپ کو کالج جانا تھا تو اسٹیشن پر ہی کیوں نہ بتا دیا۔ میں تو اس وقت کالج نہیں جاسکتا، مجھے گھر جا کر پھیوں کی خبر لینا ہے۔ میں نے کہا میں بھی وہی کروں گا جو تم گھر جا کر کرو گے۔ تب وہ بولا ”میاں، آپ کو مجھ سے کیا لینا ہے۔“ بوڑھے یکے والے نے سوچا بات پھیلتی جا رہی ہے اور آدمی دلچسپ معلوم ہوتا ہے، اس لئے بولا، ”تو پھر چلئے۔“ گھوڑے کو دانہ گھاس دے کر یکے والا پھیوں کے ساتھ جھونپڑے میں آیا۔ مجھے دیکھ کر پچیاں ڈر گئیں اور کہنے لگیں، ”ابا کیا تم پھر باہر جاؤ گے؟“ عیدو میرے سوال کو ٹال گیا، اس طرح جیسے پھیوں کے سامنے کچھ نہ کہنا چاہتا ہو۔ وہ بولا ”میاں اب کھانے کا وقت ہو گیا ہے، دن کا بچا ہو اسلن تو ہے ہی، بس روٹی اور تیار کر لوں۔“ میں نے کہا ”نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ نوٹ لو اور بازار سے جا کر کھانے کی اچھی اچھی چیزیں لے آؤ۔“ عیدو نے کہا ”میاں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب تو آپ کو ہماری رُوکھی سُکھی ہی کھانی ہوگی۔“ جب میرے سمجھانے پر عیدو بازار چلا گیا تو میں پھیوں سے باتیں کرنے لگا۔

### B. Translate into English.

میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ تو وہیں رہتے ہیں۔ اُن کے خیال سے مجھے کچھ دن اور رُکنا پڑا۔ ہم اسی طرح باتیں کرتے ہوئے سڑک پر چلتے رہے یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں بازار آ گیا۔ اب رہا اُن سے ملنا تو یہ کل بھی ہو سکتا ہے۔ گھر کے کرایہ بھر کے پیسے میں نے مکاندار کو دے دیے۔ کیوں نہ آپ بھی دن بھر کے لئے میرے ساتھ شہر چلیں۔ نماز سے فراغت پانے کے بعد ہی ہم کھانا کھائیں گے۔ آج اُن کی خبر لینے کوئی جائے گا کہ نہیں۔ چار دن ہوئے بارش ہوئی

تھی، تب سے پانی نہیں برسا ہے۔ رہا باغ جانا تو میں اتنی دور تو آپ کے ساتھ چل نہ سکوں گا۔ جب ہم سب لوگ اطمینان سے بیٹھ گئے تو احمد نے قصہ سنانا شروع کیا۔ احاطے کی وسعت میں گھاس لگی ہوئی تھی۔ ہم نے اطمینان سے کھانے سے فراغت حاصل کی، تب فلم دیکھنے گئے۔ اُن کا ارادہ آسانی سے نہیں بدلتا۔ میں نے سمجھا شاید آپ بھی اپنی روایات بھلا کر مغرب پرست ہو گئے ہیں۔ آج کل گرمی اتنی بڑھ گئی ہے کہ راتیں بھی نا خوشگوار ہوتی ہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں، اُس کا تصور کرنا مشکل ہے۔ بچہ کے خیال سے ماں جلد گھر لوٹ آئی۔ احمد کتابوں سمیت لائبریری سے گھر جا رہا تھا۔ وہ میری بات ٹال نہیں سکتا۔ ہم نے کسی طرح اُن لوگوں کو ٹالا۔ میں نے بار بار اُن سے کتاب مانگی لیکن ہر بار وہ ٹال گئے۔ میں نے احمد سے کچھ مدد چاہی مگر وہ ٹال گیا۔ اس سلسلہ میں شکیل صاحب نے بہت عمدہ بات کہی۔ وہ میرے سامنے سے اس طرح گذر گیا گویا مجھے دیکھا ہی نہیں۔ میں وہاں جا چکا ہوں، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ جاؤں۔ میں پھیوں سے باتیں کر رہی رہا تھا کہ اس درمیان میں بارش ہونے لگی۔ آپ کھانا کھا کر آئیے، اس درمیان میں میں یہ کام کر دوں گا۔ بہت دریافت کرنے پر بھی مجھے اُن کا پتہ نہ مل سکا۔ شوکت اپنے ساتھیوں سمیت کھیلنے کے لئے کھیل کے میدان میں آیا۔ اب اس وقت اتنی رات میں وہاں جا کر کیا کرو گے۔ احمد سمیت اُس گھر میں چار آدمی رہتے ہیں۔ احمد کو یہ بات نا خوشگوار لگی لیکن چونکہ سلمان اُس سے عمر میں بڑے تھے اس لئے خاموش ہو گیا۔ سڑک پر اتنے بندر دیکھ کر عورتیں چونک پڑیں۔ مکان کے سارے کمرے کافی کشادہ ہیں۔ بوڑھے نے سوچا بات بڑھانے سے کیا فائدہ، اس خیال سے چپ رہا۔ محض اُن کے خیال سے ہم نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا۔ آپ کھانا اطمینان سے کھائیے، ابھی گاڑی چھوٹنے میں کافی دیر ہے۔ ان پریشانیوں سے اتنی جلدی فراغت کیونکر مل گئی۔ وہ سوتے سوتے چونک پڑا۔ اس میں چونکنے کی کیا بات ہے، ایسا تو یہاں روز ہوتا ہے۔ میں آپ کے سوال کا جواب کچھ سوچ کر دوں گا۔ یہ لڑائی تو ہم دو کے درمیان ہے، آپ کو اس سے کیا مطلب۔ وہ یہاں بمشکل پہنچے تھے کہ اُنھیں واپس جانا پڑا۔ اُس وقت بازار میں جو سماں تھا وہ

میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کیجئے گا۔ رات بڑی دیر تک آپ کا تذکرہ ہوتا رہا۔ ایسی باتیں میرے تصور سے باہر ہیں۔ اُس نے تیس سال کی نوکری میں جو کچھ کمایا وہ اس گھر کے بنوانے میں لگ گیا۔ میں احمد پر خفا ہوتا رہا لیکن وہ اطمینان سے کھانا کھاتا رہا۔ مشاعرہ میں اتنا ہنگامہ تھا کہ ہم کسی شاعر کا کلام ٹھیک سے نہ سُن سکے اور نہ کوئی شاعر ٹھیک سے سُن سکا۔ جب اُنہوں نے تذکرہ کیا تو مجھے یاد آیا کہ آج تو آپ کو امتحان دینے جانا ہے۔ اب تو کافی دیر ہو گئی ورنہ میں بھی اُن سے ملنے چلتا۔

### C. Fill in the blanks.

میں نے کہا ”میں بھی..... چلوں گا۔“ اور رفعِ شر کے..... سے چند آنے پیسے یکے والے کو..... کیے۔ تھوڑی دیر..... شہر آ گیا۔ یکے والے نے..... کیا ”اور میاں آپ..... جائیں گے؟“ کہنے..... کہ اسٹیشن پر ہی..... نہ کہہ دیا۔ اُس نے اطمینان..... اپنے..... بوسیدہ لباس کے..... نہیں کس گوشے سے ایک بیڑی..... اور..... کہنے لگا۔ گھوڑے کی خدمت..... فراغت پا کر یکے بان بچپوں..... جھونپڑے میں آیا۔ اُن میں جو..... تھی سہم کر..... لگی ”ابا! کیا تم پھر..... لے کر جاؤ گے؟“ میں نے کہا ”عیدو ان..... کی ماں..... ہے؟“ عیدو اس سوال کو..... اُس طور پر..... وہاں بچپوں کے..... اُس کا تذکرہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میاں،..... دیر..... میں نے ایک نوٹ..... اور کہا: ”یہ..... بازار..... کھانا.....“ اچھا، میں..... کھانا کھاؤں گا..... تم کو میرا کھانا..... عیدو کچھ..... بازار چلا گیا۔

### D. Translate the following into Urdu.

I. Now she will stay here for the whole week. II. It was not my intention to come here at night. III. After she was done with cooking she sat down to read a novel. IV. Why didn't you tell me earlier that you couldn't come this evening? V. It seems you are trying to avoid giving an answer. VI. He always went to the fair together with his children. VII. Please don't be afraid, you are our guests. VIII. I didn't wish to mention his

death in the presence of his father. IX. In the meantime I shall go and talk with your father. X. You couldn't imagine what I felt at that time. XI. We couldn't imagine that winters could be so terrible. XII. He was startled on hearing my voice. XIII. Take it home and read it at your ease. XIV. He intends to rest for a while after finishing his examination. XV. He can do this work for you, however you will have to give him enough money. XVI. I refused to speak to him when he made those unpleasant remarks. XVII. There is no need to accede to everything he says. XVIII. For years we lived on what our mother earned. XIX. The boy was scared when he suddenly came upon the monkey. XX. We were at work, meanwhile our guests arrived at our house.

#### E. Answer the following in Urdu.

- ۱- یکہ والا کالج کیوں نہیں جانا چاہتا تھا؟
- ۲- گھر جا کر یکہ والا کیا کرنا چاہتا تھا؟
- ۳- یکہ والے کا گھر کیسی جگہ میں تھا؟
- ۴- پچھیاں گھر میں ایک آدمی کو دیکھ کر کیوں سہم گئیں؟
- ۵- یکہ والے کے گھر میں کون رہتا تھا؟
- ۶- یکہ والے نے پچھوں کی ماں کے متعلق سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟
- ۷- کھانے کا انتظام کس طرح کیا گیا؟
- ۸- یہ کہانی سنانے والا آدمی آپ کو کیسا لگا؟
- ۹- جس شہر کی یہ کہانی ہے اُس کا سرسید سے کیا تعلق ہے؟
- ۱۰- کیا آپ کے ملک میں گھوڑے والی گاڑیاں ہوتی ہیں؟

## یکہ والا (حصہ دوم)

میں نے کہا۔ ”تم کیا کھیلتی ہو؟“ بڑی نے کہا ”میرے پاس گڑیاں ہیں۔“ میں نے کہا۔  
 ”مجھے لا کر دکھاؤ۔“ دونوں بچیاں جھپٹ کر ایک ہانڈی اٹھالائیں۔ ہانڈی کے اندر گھاس بھری ہوئی  
 تھی۔<sup>۲</sup> گھاس کے اوپر ایک صاف کپڑا بچھا ہوا تھا۔<sup>۳</sup> اُس پر دو گڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ گڑیوں  
 کے اوپر بطور چادر<sup>۴</sup> ایک ٹکڑا گرم اونی کپڑے کا تھا۔ بڑی لڑکی نے گڑیوں کو اس احتیاط اور  
 احترام کے ساتھ باہر نکالا جس طور پر شاید رولس رائس کے اندر سے کوئی ڈیوک اپنی بیگم کو بھی  
 نہ نکال سکتا یا کوئی ماں اپنے سوتے ہوئے مریض بچے کو نہالنے پر سے اٹھاتی ہوگی۔ دونوں بچیوں  
 کے چہرے پر احتیاط، محبت اور تشویش کی جھلک تھی جب تک کہ<sup>۵</sup> گڑیاں پورے طور سے ہانڈی  
 سے نہ نکالی گئیں۔ میں نے گڑیوں کو اسی احترام اور عقیدت کے ساتھ لے کر اپنے دامن<sup>۶</sup> میں  
 رکھ لیا۔ بچیوں کی تشویش مسرت سے بدل گئی۔ میں نے کہا ”ان کی شادی کب ہوگی؟“ چھوٹی  
 بولی ”ابا نے اس کا دو لہا نمائش<sup>۷</sup> سے لانے کو کہا ہے۔“ میں نے کہا ”یہ کھاتی کیا ہیں؟“ بڑی بے  
 اختیار ہو کر ہنس پڑی، گویا یہ سوال انتہائی ناواقفیت اور معصومیت کا تھا اور یہی نہیں بلکہ اُن  
 کے ہنسنے کے لئے کیا گیا تھا۔ لیکن چھوٹی پر اُس کا اثر نہ ہوا۔ اُس نے سنجیدگی سے کہا ”اُس کی  
 شادی ہو جائے گی تب کھائے گی۔“ میں نے کہا ”یہ گھوڑا جو یکے میں چلتا ہے<sup>۸</sup> کس کا کھلونا  
 ہے؟“ دونوں کچھ حیرت زدہ<sup>۹</sup> ہوئیں اور پھر بڑی لڑکی نے مسکرا کر اور اس انداز سے گویا یہ پہلی

بوجھ لی تھی، کہا ”کھلونا؟ ارے وہ تو گھوڑا ہے۔“ لیکن چھوٹی کو اطمینان نہیں ہوا۔ اُس نے کہا ”تم ہی بتاؤ کس کا کھلونا ہے؟ کھلونا ہوتا تو ہانڈی میں بند ہوتا۔ اتنا بڑا کھلونا کس کا ہوتا ہے!“ میں نے کہا ”یہ گھوڑا تو کھلونا ہے“ دونوں نے بے اختیار ہو کر<sup>۱۰</sup> پوچھا ”کس کا؟“ میں نے کہا ”تم ہی بتاؤ۔“ دونوں کچھ دیر تک سوچتی رہیں اور جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو فرط اشتیاق<sup>۱۱</sup> سے دونوں نے آکر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک نے شانے پر ہاتھ رکھا اور خوشامدانہ انداز<sup>۱۲</sup> سے جس میں والمانہ اشتیاق پورے طور سے جھلک رہا تھا، یہی نہیں بلکہ اس انداز سے گویا میری ہمت افزائی مقصود ہے،<sup>۱۳</sup> پوچھا ”اچھا سچ بتاؤ، کس کا کھلونا ہے؟“ میں نے کہا ”اللہ میاں کا۔“ دونوں سہم گئیں۔ کہنے لگیں ”اللہ میاں“ اتنا بڑا کھلونا کھیلتے ہیں! اللہ میاں کتنے بڑے ہیں؟“ اتنے میں<sup>۱۵</sup> عیدو لندا پھندا آگیا۔ کھانے پینے کے ہنگامے میں اللہ میاں کی وسعت اور ضخامت آئی گئی ہوگئی۔ پچیاں کھاپی کے سو گئیں۔ میں نے کہا ”عیدو! اب میرے لئے ایک یکہ لاؤ۔“ عیدو یکہ لانے گیا۔ میں نے جلدی سے اپنا کمبل بچپوں پر ڈالا اور آپ کے پاس چلا آیا۔

Unit XXX: Notes

1. /tum kyaa kheeltii hoo/ : “What games do you play?”

/kheelnaa/: N : “to play with Y /-see/; to play with Z /-kee saath/; to play Y (a sport or game).” However note that /guRiyaaN/, lit. “dolls,” also means “the game of dolls.” Hence we can have: /woo ab bhii guRiyaaN kheeltii hai/, “She still plays with dolls.” The masculine form, /guDDaa/, “a male doll,” is not used in that way.

2. /haaNDii-kee andar ghaas bharii huii thii/ : “The pot was full of grass.”

/bharnaa/, an active verb, is used both intransitively and transitively. As an intransitive verb, it means: “to fill [into something]; to be filled up.” It more often occurs in its perfect participle form followed by some form of /hoonaa/. (The perfect participle, /bharaa/, is also commonly used as an adjective, “filled.”) But other forms are also used, often 'completed' with /jaanaa/.

ghar-meeN paanii bharaa thaa	The house was full of water.
saRak-par paanii bharaa hai	The road is covered with water.
jab bas-meeN loog bhar-gaee....	When people crowded into the bus....
bas ab bhar-gaii hai	The bus is now full.
ye baks kitaabooN-see bharaa hai	This box is filled with books.

As a transitive verb, /bharnaa/ basically means: “to fill [something].” But its situational equivalents in English will have wide range, depending upon the context.

maiN-nee bartan bharaa	I filled the pot.
maiN-nee bartan-meeN paanii bharaa	I filled the pot with water.
maiN-nee paanii-see bartan bharaa	-ditto-
maiN-nee nal-see paanii bharaa	I drew water from the pipe.
maiN-nee “tire”-meeN hawaa bharii	I pumped air into the tire.

3. /ghaas-kee uupar eek saaf kapRaa bichaa huaa thaa/ : “A clean piece of cloth was spread over the grass.”

/bichnaa/, “to be spread or laid out.” /bichaanaa/, N, “to spread or lay out.”

Compare the above sentence with the following.

ghaas-par kursiyaaN bichii thiiN      Chairs were laid out on the lawn.

(Note that /-kee uupar/ in the sentence in the text conveys more fully the sense of the grass being completely covered with the cloth than would /-par/.)

4. /bataur-e-caadar/ : “as a chador.”

/bataur-e-X/ or /bataur X-kee/, “as X.” Also, /X-kee taur-par/. /taur/, a masculine noun, means “manner; style.” Also note the commonly used adverbial phrases: /aam taur-par/, “ordinarily;” /xaas taur-par/, “especially.”

5. /jab tak ki....na nikaalii gaiiN/ : “...so long as ....were not taken out.” Or, more idiomatically, “...until [the dolls] were taken out.”

Essentially, /jab tak/ refers to the span of time before something occurs, hence in Urdu it is often expressed in the negative, i.e. as the period during which something had not taken place. It would help the student to connect the phrase with the English “...so long as...” rather than with “until...” Note the use of the two negatives in the last two sentences below.

jab tak woo na aa-jaaee aap rukiye	Please stop until he comes.
jab tak ham wahaan thee woo nahiiN aaii thii	She had not come all the while we were there.
jab tak baaris nahiiN rukii ham ghar-see baahar nahiiN niklee	We didn't come of the house until the rain stopped.
jab tak tum nahiiN jaaogee kaam nahiiN hoogaa	The work won't get done until you go there.

6. /apnee daaman-meeN rakh-liyaa/ : “...placed them in my lap.”

/daaman/, refers to the edge, hem, or the lower part of any garment covering the upper body—e.g., a shirt or a coat—which could also be spread or opened to form a 'lap'.

7. /numaa'is/, a feminine noun, means “exhibition.” Here it refers to the annual county fair like event that is held in Aligarh during December.

8. /yee ghooRaa joo yakee-meeN caltaa hai.../ : “...this horse, which draws the yakka, ...”

9. /hairat-zadaa/, “amazed,” lit. “struck by amazement.”

/zadaa/, a Persian verbal noun, also occurs in such common words as: /musiibat-zadaa/, “afflicted;” /Gam-zadaa/, “grief-stricken.”

10. /bee-ixtiyaar-hookar puuchaa/ : “...impatiently, or uncontrollably, asked....”

/ixtiyaar/, a masculine noun, means “hold or control; authority.”

11. /fart-e-istiyaaq-see/ : “...with abundant eagerness...”

/fart/, “abundance,” usually occurs in Urdu only in similar /izaafat/ compounds.

The related word, /ifraat/, also a feminine noun, is more commonly used by itself.

12. /xusaamadaanaa andaaz-see/ : “... in a cajoling manner...”

/xusaamad/, a feminine noun, means “flattery.” The Persian suffix /-aanaa/ is similar in meaning to the English “-ly.” The resultant forms are used as modifiers, and



also adverbially. In other words, /xuṣaamadaanaa andaaz-see/ = /xuṣaamad-kee andaaz-see/. (See 3:18.)

13. /gooyaa meerii himmat-afzaaii maqsuud hai/ : “...as if [they intended] to encourage me.” Lit. “... as if my encouragement was intended.”

/himmat-afzaaii/, “encouragement,” is an abstract noun, made from the adjectival compound, /himmat-afzaa/, “encouraging,” lit. “courage-enhancer.” /afzaa/ is a Persian verbal noun; it also occurs in a variant form: /fizzaa/. /himmat/, a feminine noun, means: “courage.” It is used in such verbs as /himmat baRhaanaa/, NF, “to encourage X /-kii/;” and /himmat dilaanaa/, NF, “to encourage X /-koo/, to make X /-koo/ lose fear.”

14. /maiN-nee kaha, “allaah miyaaN-kaa”/ : “I said, “God’s.”

/miyaaN/ is added to /allaah/ in Urdu, mostly, but not exclusively, in the speech of women and children. It creates a sense of intimacy, but also makes it possible to use the grammatically plural, and hence more respectful, forms of verbs and adjectives with reference to God. Here the narrator uses it because his addressees are two little girls. (Also see 10:5 and 2:8.)

15. /itnee-meeN/ : “Just then...” Elsewhere it can also mean: “meanwhile, in the mean time.”

maiN khaanaa khaa-rahaa thaa ki	I was eating. Just then Ahmad
itnee-meeN ahmad aa-gaee	arrived.
maiN axbaar paRhtaa huuN, tum	I read the newspaper, meanwhile
itnee-meeN khaanaa khaa-loo	you should have your meal.

16. /aayaa-gayaa-hoo-jaanaa/, “to be forgotten or ignored completely; to be put aside indefinitely.” An infrequently used verb, it never occurs with animate subjects.

## Exercises

### A. Situational variants.

میں نے پوچھا ”تم کچھ کھیلتی ہو“؟ دونوں بچیاں فوراً ایک ہانڈی لے آئیں۔ اُس کے اندر گھاس تھی، گھاس پر ایک صاف کپڑا جس کے اوپر دو گڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ چونکہ جاڑے کا موسم تھا اس لئے اُن کے اوپر چادر کے طور پر ایک اونی کپڑے کا ٹکڑا بھی پڑا ہوا تھا۔ بڑی بچی نے دونوں گڑیوں کو بڑی عزت اور احتیاط کے ساتھ ہانڈی میں سے نکالا۔ میں نے پوچھا ”ان کی شادی کب ہونے والی ہے؟“ بڑی بچی لخت ہنسنے لگی۔ لیکن چھوٹی نے سنجیدہ ہو کر کہا ”جب اس کی شادی ہو جائے گی تو وہ کھانے لگے گی۔“ میں نے کہا ”اب یہ بتاؤ کہ یہ گھوڑا کس کا کھلونا ہے؟“ دونوں متعجب ہو کر کچھ دیر سوچتی رہیں، پھر جب کوئی جواب سمجھ میں نہ آیا تو خوشامد کے انداز میں مجھ سے بولیں، ”تم ہی بتاؤ۔“ دونوں سہم کر کہنے لگیں، ”اللہ میاں اتنے بڑے کھلونے سے کھیلتے ہیں؟ وہ خود کتنے بڑے ہیں؟“ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ عید و کھانے کی چیزیں لے کر آگیا۔ میں فوراً اپنا کھیل بچپوں پر ڈال کر آپ کے پاس آگیا۔

1. خوشامد F xusaamad flattery

### B. Translate into English.

لڑکی نے کہا ”ہم گڑیاں کھیلتے ہیں اور میرے پاس ایک بہت عمدہ قسم کی گڑیا ہے۔“ ڈاکٹر نے لڑکے سے کہا ”تشویش کی کوئی بات نہیں۔“ اس کام میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے ورنہ فائدہ کی جگہ نقصان ہو سکتا ہے۔ جب تک وہ واپس نہ آگئے مجھے تو تشویش رہی۔ کمرے میں ایک بڑا پلنگ بچھا ہوا تھا مگر پلنگ پر بطور چادر کچھ نہیں بچھا تھا۔ لاہور پہنچ کر آپ کو کراچی کے لئے گاڑی بدلنی ہوگی۔ جب تک ملک سے فرقہ واریت نہ دور ہوگی ملک کی ترقی

مشکل ہے۔ احمد اپنی کتابیں بڑی احتیاط سے رکھتا ہے۔ وہ اس دفتر میں بطور ”انچارج“ کام کرتے ہیں۔ جلدی میں میرا سامان اُن کے سامان سے بدل گیا۔ دونوں حیرت سے میری طرف دیکھنے لگیں۔ اُنھوں نے کہا کہ وہ پورے احترام کے ساتھ اس تجویز سے اختلاف کرتے ہیں۔ وہ آج اس انداز سے مجھ سے ملے گویا کبھی خفا ہی نہ ہوئے تھے۔ احمد کے استاد نے اُس کی بڑی ہمت افزائی کی۔ یہ دونوں بہنیں آپس میں بڑی محبت سے رہتی ہیں۔ جب بچہ اسکول سے واپس نہیں آیا تو ماں کو تشویش ہوئی اور وہ ڈھونڈنے نکلی۔ انتہائی تکلیف کی حالت میں بھی وہ مسکراتی رہیں۔ جب نجمہ گھر آگئی تب والدہ کو اطمینان ہوا۔ علی امتحان میں کامیاب نہیں ہوا، پھر بھی اُس پر کسی طرح کا اثر نہ ہوا۔ اُن کو فقیروں سے بڑی عقیدت ہے۔ لوگوں پر مولوی صاحب کے وعظ کا اثر نہ ہوا۔ تم کو ہر شخص پر اتنی جلدی اعتبار نہ کر لینا چاہیے۔ جاوید اپنے ساتھیوں سے باتیں کر رہا تھا اور اس انداز سے گویا وہ ایک فلسفی ہے۔ گو احمد کا خط کل آگیا لیکن اُس کے والد کو اطمینان نہیں ہوا۔ میں نے اُن سے یہاں آنے کو کہا تو وہ بولے کہ آج تو نہیں البتہ کل ضرور آؤں گا۔ ابتدا میں جلسہ میں کچھ دیر تک امن اور خاموشی رہی لیکن بعد میں ہنگامہ ہونے لگا۔ وہ خوشامد پسند کرتے ہیں اور خود بھی دوسروں کی خوشامد کرتے ہیں۔ جب بچہ کا کھلونا ٹوٹ گیا تو اُس کی خوشی رنج سے بدل گئی۔ جب میں علی کے گھر پہنچا تو کھانا تیار تھا اور یہی نہیں بلکہ وہ تو میرے آرام کے لئے سارا انتظام کر چکا تھا۔ یہ ایسی بیماری ہے جس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ لڑکے کے جواب سے استاد کو اطمینان نہیں ہوا۔ وہ تو اس طور سے باتیں کرتے ہیں گویا ہر شخص اُن کا غلام ہے۔ جاڑے کے دنوں میں احتیاط کرنا ضروری ہے، ورنہ آدمی بیمار پڑ سکتا ہے۔ والدین کو اپنی اولاد کی ہمت افزائی کرتے رہنا چاہیے۔ میں نے نا واقفیت میں اُن سے تمہارے بارے میں پوچھ لیا۔ بچے کا رونا سُن کر ماں بے اختیار کمرے سے باہر نکل آئی۔ شادی کے موقع پر اکثر ہنگامہ بھی ہو جاتا ہے۔ اگر تمہیں میرے جواب سے اطمینان نہیں ہوا ہے تو کسی اور سے پوچھ لو۔ اُن کی یہ عادت بہت بُری ہے کہ وہ خوشامد کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ کمرے میں

اتنے لوگ بھرے تھے کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں اُن صاحب سے واقف نہیں لیکن بہت لوگوں کو اُن سے عقیدت ضرور ہے۔ میرے خیال میں تم آج اُن سے ملنا ٹال دو۔ جب اُس نے سنجیدگی سے وہی بات دوبارہ کہی تو میں خاموش ہو گیا۔

### C. Fill in the blanks.

میں نے کہا ”مجھے لا کر.....“ دونوں پچھیاں..... ایک ہانڈی اٹھا.....۔ گڑیوں کے..... بطور چادر ایک ٹکڑا..... اونی کپڑے کا تھا۔ دونوں پچھوں کے..... پر احتیاط..... اور تشویش کی جھلک تھی جب..... کہ گڑیاں پورے..... سے ہانڈی سے نہ نکالی گئیں۔ میں نے کہا ”ان کی شادی کب.....؟“ گویا یہ سوال..... نا واقفیت کا..... اور یہی نہیں..... اُن کے..... کے لئے کیا گیا تھا۔ میں نے کہا ”یہ گھوڑا جو یکے میں ہے کس کا..... ہے؟“ اُس نے کہا ”تم ہی..... کس کا کھلونا ہے؟ کھلونا..... تو ہانڈی میں..... ہوتا۔ اتنا بڑا کھلونا..... کا ہوتا ہے!“ دونوں کچھ..... تک سوچتی..... اور جب کچھ سمجھ میں نہ..... تو فرط اشتیاق سے دونوں..... آکر میرا..... پکڑ لیا۔..... لگیں ”اللہ میاں..... کھلونا کھیلتے ہیں؟“..... میاں کتنے بڑے ہیں؟“ کھانے پینے کے..... میں اللہ میاں کی وسعت اور ضخامت..... ہو گئی۔

### C. Translate into Urdu.

I. What games do you play in your free time? II. Ahmad had thrown his books on the table. III. They don't respect you because they can't trust you. IV. His eldest son behaves with great respect with everyone. V. I reasoned with him but he was not reassured. VI. The teacher was extremely pleased with the work of his new students. VII. She not only encouraged me, she also helped me. VIII. Some boys were encouraging their friends who were playing in the field. IX. You can't imagine how carefully she picked up her doll. X. He is sitting there as if it is his own house. XI. This is no innocent question, I'm asking it seriously. XII. During the trip my suitcase got exchanged with someone else's.

XIII. It is necessary to be very careful these days. XIV. You shouldn't force your younger brother to do anything against his will. XV. Because of the noise I couldn't understand what he was saying. XVI. I don't remember at all what promise you had made. XVII. There is a special store for toys on the next street. XVIII. The President couldn't stay firm on the decision he had announced. XIX. He spontaneously asked, "But why are you so worried?" XX. Ahmed's only weakness is that he likes flattery.

**E. Answer the following in Urdu.**

- ۱- چچیاں کیا کھیلتی تھیں؟ ۲- ہانڈی میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ ۳- بڑی لڑکی نے گڑیوں کو کس طرح باہر نکالا؟ ۴- چچوں کی تشویش کیوں مسرت میں بدل گئی؟ ۵- گڑیوں کی شادی کے بارے میں لڑکیوں نے کیا جواب دیا؟ ۶- گڑیوں کے کھانے کے متعلق چھوٹی لڑکی نے کیا جواب دیا؟ ۷- عید کے آنے کے بعد کیا ہوا، کیا چچیاں گھوڑے کے بارے میں بات کرتی رہیں؟ ۸- کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ گھوڑا اللہ میاں کا کھلونا ہے؟ اپنے جواب میں وجہ بھی بتائیے۔ ۹- آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ تفصیل سے بتائیے۔

## Review Sentences

- ۱- میں نے آپ کو محض اس خیال سے نہیں بلایا کہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ ۲- شمیم محض میری مدد کرنے کے خیال سے میرے پاس آگئے ورنہ اُن کو دوسرے بہت سے کام ہیں۔
- ۳- میرے والد صاحب نے مجھ سے ایک ضروری بات کہی تھی جو اس وقت میرے ذہن سے نکل گئی ہے۔ ۴- جس بات سے تمھاری پریشانی بڑھتی ہے اُس کو خیال سے نکال دینا چاہئے۔ ۵- ادھر چند روز سے شکاگو میں برابر بارش ہو رہی ہے۔ ۶- بہت سال پہلے ہندوستان اور پاکستان ایک ہی ملک تھے مگر اب دو ہیں۔ ۷- اس کتاب کی قیمت چند روپیوں سے زیادہ نہیں ہے۔ ۸- میرا ملازم اپنے لڑکے کی موت کا حال بتاتے بتاتے رو پڑا۔
- ۹- دو مزدور منڈی میں باتیں کرتے کرتے لڑ پڑے۔ ۱۰- میں جیسے ہی ریل پر بیٹھا ریل نے سیٹی بجائی اور چل پڑی۔ ۱۱- بچہ اپنے باپ کو آتے ہوئے دیکھ کر فوراً دوڑ پڑا۔ ۱۲- اگر تم کالج میں پڑھنے نہیں جاؤ گے تو میرا کیا بگڑے گا۔ ۱۳- تمھارے رات کو تخت پر سونے یا نہ سونے سے میرا کیا بگڑا۔ ۱۴- گاؤں والے اگر اپنے مویشیوں کی خبر نہ لیں گے تو وہ سب کمزور ہو کر کسی کام کے قابل نہ رہیں گے۔ ۱۵- طالب علم نے جب استاد کا کہنا نہ مانا تو استاد نے اُس کی خوب خبر لی۔ ۱۶- میں آج ایک ہفتہ کے لئے دہلی جا رہا ہوں اس لئے تم ہمارے گھر کی خبر لیتے رہنا ورنہ مجھے تشویش رہے گی۔ ۱۷- آج مجھے یونیورسٹی نہیں جانا ہے، اس لئے اطمینان سے گھر میں بیٹھوں گا۔ ۱۸- ہر کام، چاہے مشکل ہو چاہے آسان، اطمینان سے کرنا چاہیے۔ ۱۹- تمھارے لکھنؤ پہنچ جانے سے میرے دل کو بہت اطمینان ہوا۔
- ۲۰- جاوید کو اپنے امتحان میں کامیاب ہو جانے سے کافی اطمینان ہو گیا ہے۔ ۲۱- جب باورچی خانہ میں کھانا پکانے کے لئے آگ سلگائی جاتی ہے تو بچے آگ کو دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ ۲۲- میرا ملازم اکثر کہتا ہے کہ ”حضور مجھے لکھنے پڑھنے سے کیا مطلب۔“
- ۲۳- باپ کو بچے کی صحت اور تعلیم سے مطلب رہتا ہے۔ ۲۴- مجھ کو تمھارے پڑھنے یا نہ پڑھنے سے کوئی مطلب نہیں ہے البتہ مجھ کو تمھارے پاس ہونے سے ضرور مطلب ہے۔

۲۵- میں امتحان سے فراغت حاصل کر کے سیدھا آپ کے پاس آؤں گا۔ ۲۶- میرے بھائی صاحب امریکہ میں اعلیٰ تعلیم سے فراغت پا کر آج واپس آرہے ہیں۔ ۲۷- میں جب اپنے سامان سمیت اسٹیشن پہنچا تو معلوم ہوا کہ ریل کو روانہ ہوئے دیر ہو چکی۔ ۲۸- جاوید اپنے دوستوں سمیت دریا میں تیرنے گیا ہوا ہے۔ ۲۹- ”آج کا کام کل پر نہ ٹالو“ کا محاورہ تقریباً ہر زبان میں پایا جاتا ہے۔ ۳۰- میں نے جب بھی اُن سے نوکری کے بارے میں پوچھا وہ بات کو ٹال گئے۔ ۳۱- موت کا وقت ٹالنا انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ ۳۲- سکندر اور پورس کی جنگ کا تذکرہ ہر تاریخ کی کتاب میں ملے گا۔ ۳۳- آپ کے والد کا تذکرہ گھر میں اکثر سنتا رہتا ہوں۔ ۳۴- پتوں کے سامنے بُری باتوں کا تذکرہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ۳۵- میں نے جب جاوید سے تمہارے پاس ہونے کا تذکرہ کیا تو وہ بہت خوش ہوا۔ ۳۶- میرا باورچی روٹیاں بہت اچھی پکاتا ہے۔ ۳۷- جاوید کے یہاں جو روٹیاں تیار کی جاتی ہیں، اُن سے کسی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ۳۸- غریب لوگ اکثر روکھے پھیکے کھانے ہی پر گذر کرتے ہیں۔ ۳۹- میں نے کل ریل میں دہلی جاتے ہوئے پوری رات بیٹھے بیٹھے بسر کی۔ ۴۰- آج کل میرا بہت سی چیزوں کا پرہیز ہے، اور بہت سادہ غذا پر بسر کر رہا ہوں۔ ۴۱- اکثر لوگ جن کے پاس مکان نہیں پوری عمر سڑکوں پر بسر کر دیتے ہیں۔ ۴۲- باپ کو دیکھتے ہی پتوں کے چہروں پر خوشی کی جھلک آگئی۔ ۴۳- آج میں نے جاوید کے چہرے پر سخت غصہ کی جھلک دیکھی تھی۔ ۴۴- جب بچہ فرط اشتیاق میں ماں کی طرف بڑھتا ہے تو ماں کے چہرے پر محبت کی جھلک دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ ۴۵- ماں باپ کو اپنے پتوں سے والمانہ محبت ہوتی ہے۔ ۴۶- لوگ اُن شعرا کے کلام کو بڑی عقیدت اور احترام سے سنتے تھے۔ ۴۷- چھوٹی چھوٹی پچیاں گڑیوں کا کھیل بڑے والمانہ انداز سے کھیلتی ہیں۔ ۴۸- بعض لوگ موٹر چلاتے وقت فرط احتیاط سے اتنے آہستہ چلتے ہیں کہ دوسروں کے لئے خطرہ بن جاتے ہیں۔ ۴۹- کسی کتاب کے اچھے ہونے کی دلیل اُس کی ضخامت نہیں۔ ۵۰- دریا کی وسعت اور گہرائی کا پتہ کنارہ سے نہیں چلتا ہے۔

## MAIN GLOSSARY





## Introduction

We have followed in our glossaries the same procedure as is used in Urdu dictionaries in general, i.e. a verb is given in its infinitive form, a noun in its singular direct form, and an adjective in its masculine singular form.

The first column contains the entry in Urdu script. These entries are listed in the following alphabetical order:

ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ڈ ذ ر ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق  
ک گ ل م ن و ہ (ء) ی (ے)

Two things in the above arrangement need special mention

1. The letter /chooTii hee/ is considered as being separate from the letter /doo-caṣmii hee/, and has been placed first. In non-initial positions the two letters represent two different phonological features; they should therefore be differentiated in matters of spelling too. In practice, however, particularly in earlier manuscripts and in modern typed Urdu, /doo-caṣmii hee/ was often used in the initial position for both purposes. In contemporary handwritten or computer-generated Urdu, however, the distinction is carefully maintained. Returning to the matter of order, please note that in our glossary a word like کھنا , /kahnaa/, will come first, to be followed by other similar words, and only later will come کھانا , /khaanaa/.

2. No distinction is made between /chooTii yee/ and /baRii yee/ in the listing order; they are treated as one letter, /yee/. We also treat /hamzaa/ as a variant of /yee/—though without the subscript dots—in places where it does have a separate /ṣooṣaa/ as its ‘chair’. Elsewhere—e.g. when it occurs over a /waaoo/ or an /alif/—it is not considered for alphabetical ordering. In other words, in مؤقف , /mu’aqqaḥ/, we do not consider /hamzah/ a separate letter or even a variant of /yee/, but in کئی , /kaii/, we do regard it as a variant of /yee/. کیا , therefore, precedes کئی in our vocabulary.

A strictly alphabetical order has been followed in listing Urdu words except in the case of compound verbs. These have been placed, in each instance, immediately after the entry for the first member of the compound. Thus, جواب , /jawaab/, is immediately followed by جواب دینا , /jawaab deenaa/, and only then by جوابات , /jawaabaat/. Likewise, لے آنا , /lee-aanaa/, comes immediately after لینا , /leenaa/.

The symbols in the second column provide grammatical information about nouns and verbs. The following symbols (or their combinations) are used with reference to nouns:

M	Masculine noun.
F	Feminine noun.
MF	Masculine or feminine, both usages being equally acceptable.
p	Plural

In the case of a verbal form, the absence of any symbol indicates that it does not require the use of /-nee/ in its perfect participle constructions. Otherwise, the following symbols are used:

N	The verb requires the use of /-nee/ in its perfect participle constructions.
n	The verb may occur in its perfect participle constructions both with and without /-nee/, with no change in meaning. Homophonous verbs which do have a change in meaning are given separate entries.
K	The Urdu equivalent of the subject of the English verb in the gloss will be followed by /-koo/.
Ka.	The Urdu equivalent of the subject of the English verb in the gloss will be followed by /-kaa/.
Ke.	The Urdu equivalent of the subject of the English verb in the gloss will be followed by /-kee/.
Ki.	The Urdu equivalent of the subject of the English verb in the gloss will be followed by /-kii/.

As needed, the above symbols may be followed by the gender and number symbols (M, F, and p) to indicate the gender and number of the noun in that compound, for that noun will be the grammatical subject of that Urdu verb—in all constructions, in the case of the last four types, and in the perfect participle plus /-nee/ constructions in the case of the first two.

The third column contains a normalized transcription of the Urdu, based mainly on the pronunciation of this editor. Whenever two pronunciations are given, the first is the more formal—it is closer to the spelling and preferred in poetry. The transcription system has been discussed in the sections on phonology and script in volume I, but the following should be noted here concerning our use of a hyphen (-).

1. A hyphen is placed before a postposition to indicate that the noun or adjective preceding it should be in its oblique case form.

2. It is placed between two transcribed units to indicate that for all grammatical purposes they act as one unit. In the case of verbal forms, however, the following must be kept in mind:

(i) If the noun in the compound verbal form determines the gender and number agreement in the auxiliary verb—as, for example, in the case of an N-type verb—no hyphen is written between the noun and the verb. For example, کام کرنا is transcribed as /kaam karnaa/, and رنج ہونا as /ranj hoonaa/.

(ii) If the noun does not determine the gender and number agreement, a hyphen is placed between the noun and the verb. For example, استعمال کرنا , /isteemaal-karnaa/.

(iii) Where an adjective occurs as the first member of a compound verbal form, a hyphen is written between it and the auxiliary verb. For example, معلوم ہونا , /maalum-hoonaa/, and اچھا کرنا /acchaa-karnaa/. Note that when a marked adjective occurs as the first member of a compound verbal form, the entry is listed as consisting of its masculine singular form plus the verb.

The final column contains the English equivalents for the Urdu entry. These by no means exhaust the semantic possibilities of the word, they merely serve the purpose in our particular textbook. One other feature, however, deserves careful attention on the part of the student. Quite a few Urdu words require the use of a particular postposition in order to convey a specific meaning. This is also true for English, where the use of a particular preposition may determine a particular meaning. In some case in Urdu, on the other hand, a postposition may be required where no preposition may be needed in the English equivalent. Often enough, the direct and indirect objects of the Urdu verb may show a contrast in their use of postpositions on the basis of whether they are human beings or non-humans. The following symbols, therefore, are used in the last column to facilitate proper and clearer glossing.

Z	A human direct or indirect object.
Y	A non-human direct or indirect object.
X	No distinction of the above kind is required. The 'object' of the verb could be a person, a thing, or an act.
I	The infinitive form of any verb. This symbol is used where an exclusive reference to infinitives is desired, the particular construction being non-functional with other nouns. Thus, "to I" = "to perform the act described by the verb occurring in its infinitive form.")

We employ the above symbols to make clear the grammatical requirements in those cases which do not come under the general rule in Urdu: /-koo/ after proper nouns

and 'particularized' objects, otherwise no postposition. In some cases we have used numbers to make explicit the order of direct and indirect objects in the English gloss and the different postposition they might need in Urdu. The following examples may make our aims clear.

- پوچھنا : N : /puuchnaa/ : to ask X /-see/ X1.  
وعدہ کرنا : NM : /waadaa karnaa/: to promise X /-see/ X1 /-kaa/.  
کھیلنا : n : /kheelnaa/ : to play with Z /-kee saath/; to play with Y /-see/.  
پچھے : : /picchee/ : behind X /-kee/.

Note that the last example indicates that an English phrase such as "behind the man" will be translated into Urdu as /aadmii-kee piichee/.

The English gloss is often supplemented by referring the student to some note in the text. This is done by writing "see," followed by the number of the note and the number of the text unit. In other words, "see 5.6" means, "See note five in unit six." References to relevant sections in the grammar are made by writing "see", followed by the number(s) of the relevant section(s) in the grammar. Thus, "see 102, 206," means, "See sections 102 and 206 in the grammar in Volume II."

# Glossary

اب	M	ab	now
آبا	F	abbaa	father (term of address)
آبادی	F	aabaadii	population; populated area ; see 2:23
ابتدا	F	ibtidaa	the beginning;
ابتدائی		ibtidaaii	primary; initial
اب تک		ab-tak	still, even now; until now
ابراہیمؑ	M	ibraahiim	Abraham. the prophet
ابناء	Mp	abnaa'	sons; pl. of ابن /ibn/.
اُبھرنا		ubharnaa	to come up from below, to rise to the surface
ابھی		abhii	right now; /ab + hii/; see 5:1
آپ		aap	you ; self ; same as خود /xud/ ; see 9:8, 7:12, 8:16; 25, 26, 29, 253
اپریل	M	apreel	Eng. April
اپنے ہاں		apnee-haaN	at one's place; same as اپنے یہاں
اُتارنا	N	utaarnaa	to unload ; to take off
اتحاد	M	ittihaad	unity
اُترنا		utarnaa	to come down ; see 6:1, 9:16
اتفاق	M	ittifaaq	opportunity, chance ; agreement

اِتِّفَاقٌ هُوْنَا	KM	ittifaaq hoonaa	to have the opportunity to I /-kaa/; to agree with X /-see/
اِتِّفَاقٌ سَے		ittifaaq-see	by chance
اُتْنَا		utnaa	that much ; see 48, 71
اِتْنِے مِیں		itnee-meeN	just then; see 15:30
اُٹھانا	N	uThaanaa	to lift up
اُٹھنا		uThnaa	to get up or stand up, to rise; see 3:16; 167
آثار الصّٰدِیْدِ		aasaar-us-sanaadiid	name of a book by Sir Syed ; lit., relics of the warriors
اِثْر	M	asar	influence, effect
اِثْر لِیْنَا	NM	asar leenaa	to be impressed and affected by X /-kaa/, to be edified by X /-kaa/
اِثْر هُوْنَا	Ka.M	asar hoonaa	to have an effect on X /-par/
اِج		aaj	to-day
اِجَازَت	F	ijaazat	permission ; see 5:10
اِجَازَت دِیْنَا	NF	ijaazat deenaa	to permit X /-koo/ to I /-kii/
اِجْر	M	ajr, ajar	reward
اِجْکَل		aaj-kal	now-a-days ; see 6:1
اِجِی		ajii	a term of address (very informal)
اِچْکَنَّا		ucaknaa	to jump up
اِچْحَا		acchaa	good; well; see 7:1, 4:2
اِچْحَا کَرْنَا	N	acchaa-karnaa	to make x /-koo/ well; to act rightly in some matter

احاطہ	M	ahaataa	outer yard; a walled space
احترام	M	ehtiraam	respect
احتیاط	F	ehtiyaat	precaution, care
احساس	M	ehsaas	feeling, sensation
احمد	M	ahmad	a personal name
اخبار	M	axbaar	newspaper
اختلاف	M	ixtilaaf	conflict or difference of opinion
اختیار	M	ixtiyaar	control, authority; see 10:30
اختیار کرنا	N	ixtyaar-karnaa	to adopt
آخر		aaxir	at last; see 8:20
آخر میں		aaxir meeN	finally, at the end
آخری		aaxirii	last, the final
اخلاق	M	axlaaq	morals
اخلاقی		axlaaqii	moral
ادا کرنا	N	adaa-karnaa	to pay what is due; to express
اُداس		udaas	sad
اُداس ہونا		udaas-hoonaa	to be sad
آداب		aadaab	See 1:1, 1:17, 13:22
ادب	M	adab	literature; respect
ادبی		adabii, adbii	literary
آدمی	M	aadmii	man, person
اِدھر		idhar	here, on this side; see 4:1



اُدھر		udhar	there, on that side
اِدھر اُدھر		idhar-udhar	here and there; see 4:27
ادیب	M	adiib	writer
ارادہ	M	iraadaa	intention; see 2:2, 4:24
آرام	M	aaraam	comfort
آرام کرنا	NM	aaraam karnaa	to rest; see 6:1
ارسطو	M	arastuu	Aristotle
اے		aree	O ; an exclamation of surprise, sometimes used in calling to or addressing equals or inferiors ; see 15:19
اڑنا		uRnaa	to fly (Intr.); see 3:12
از		az-	from (a Persian preposition)
آزاد		aazaad	independent
آزاد ہونا		aazaad-hoonaa	to be free
آزادی	F	aazaadii	freedom
اس		is, us	See 4:1, 6:5, 8:13; 29, 40, 204
آسان		aasaan	simple
آسانی	F	aasaanii	facility, ease
آسانی سے		aasaanii-see	easily
اسباب	Mp	asbaab	reasons, pl. of سبب /sabab/
اسبابِ بغاوت		asbaab-e-	"Causes of Indian Mutiny"
ہند		baGaawat-e-hind	

آس پاس		aas-paas	in the neighbourhood of X /-kee/
اسپتال	M	aspataal	hospital; same as ہسپتال /haspataal/
استاد	M	ustaad	teacher
استعمال کرنا	N	istimaal- karnaa	to use
استعمال کرنا	NM	istimaal karnaa	to use X /-kaa/
آسٹریلیا		aasTreelyaa	Australia
اسٹیشن	M	isTeesan	Eng. station; see 4:26
اس حد تک		is had-tak	to such an extent; to the extent of X /-kii had-tak/
اس درمیان میں		is darmiyaan-meeN	in the meantime
اس طرح		is tarah	in this way
اس قدر		is qadar	to this extent
اسکندریہ	M	iskandariyaa	Alexandaria
اسکیم	F	iskiim	Eng. scheme; see 4:26
اسلام	M	islaam	Islam, the religion of the Muslims
اس لئے		is-liyee	therefore; see 4:1
آسمان	M	aasmaaN	sky,. heaven; same as آسمان
اسمبلی	F	asemblii	Eng. assembly; legislative assembly
اسماعیل	M	ismaaiil	a personal name
آسودہ ہونا		aasuudaa-hoonaa	to be satiated
اسی		assii	eighty (80)
اسی		isii	this very; /is + hii/, see 6:5

اُسی طرح		usii-tarah	in exactly that way
اِسی طرح		isii-tarah	similarly, likewise
اشارہ	M	isaaraa	signal, gesture
اشتیاق	M	istiyaag	strong desire, eagerness; see 11:19
اشعار	Mp	as'aar	couplets; pl. of شعر /seer/
اشوک	M	asook	Ashoka, a proper name
اصل		asl	real; /asl-meeN/, in fact ; see 8:18
اصلاح	F	islaah	improvement, reform ; see 11:11
اصلاح کرنا	NF	islaah karnaa	to reform X /-kii/ or /-meeN/
اضافہ	M	izaafaa	increase, addition
اطمینان	M	itmiinaan	calmness, satisfaction; see 12:29
اطمینان سے		itmiinaan-see	calmly, at ease
اعتبار	M	eetibaar	trust, confidence
اعتبار کرنا	NM	eetibaar karnaa	to trust X /-par/
اعتبار سے		eetibaar-see	with respect to X /-kee/
اعلان	M	eelaan	proclamation, announcement
اعلان کرنا	NM	eelaan karnaa	to announce X/-kaa/
اعلیٰ		aalaa	superior, noble; lit., the highest; see 6:4
اعمال	Mp	aamaal	actions, pl. of عمل /amal/
آغاز	M	aaGaaz	the beginning
افزا		-afzaa	See 13:30

افسانہ	M	afsaanaa	short story
افسر	M	afsar	Eng. officer
افغانستان	M	afGaanistaan	Afghanistan
اقتباسات	Mp	iqtibaasaat	extracts; pl. of اقتباس /iqtibaas/
اقتدار	M	iqtidaar	power, authority
اقرار	M	iqraar	confirmation, pledge; see 4:25
اقرار کرنا	NM	iqraar kamaa	to affirm Y /-kaa/; to admit to Y /-kaa/
اکتوبر	M	aktuubar	Eng. October
اکثر		aksar	mostly; often
اکھاڑنا	N	ukhaaRnaa	to uproot
آگ	F	aag	fire; see 6:7
آگاہ کرنا	N	aagaah-kamaa	to inform or warn X /-koo/ about X1/-see/
اگر		agar	if; see 3:3
آگرہ	M	aagraa	Agra
اگست	M	agast	Eng. August
اگلا		aglaa	the next, one in the front
آگے		aagee	in front of X /-kee/; in the front; further, beyond
البتہ		albattaa	however, but
اُلٹ کر		ulaT-kar	See 9:28
اُلٹنا	N	ulaTnaa	to turn over /Int./; to turn over /Tr./

السلام عليكم		as-salaam-o-alaikum	See 1:1
الکشن	M	eleksan	Eng. election
الگ		alag	separate; separately
الگ الگ		alag-alag	individually separate; separately
آلو	M	aaluu	potato
آلودہ کرنا	N	aaluudaa-karnaa	to besmear, to soil
الور	M	alwar	name of an Indian city
اللہ	M	allaah	God; see 3:1, 10:5, 21:22, 14:30; 24
الہ آباد	M	ilaahaabaad	Allahabad, a city
آم	M	aam	mango
امان	M	amaan	security, safety
امتحان	M	imtihaan	examination; see 7:17
امتحان لینا	NM	imtihaan leenaa	to examine X /-kaa/ in Y /-meeN/
امتیاز	M	imtiyaaz	discrimination; distinction; see 6:23
آمد	F	aamad	arrival
آمدنی	F	aamadnii	income
امر	M	amr	matter, event
امروہہ	M	amroohaa	a city in Uttar Pradesh (India)
امریکہ	M	amriikaa	America; also امریکا; see 1:23
امریکی		amriikii	American
امکانات	Mp	imkaanaat	possibilities; pl of امکان /imkaan/
امن	M	amn	peace

اُمور	Mp	umuur	matters; pl. of امر
اُمید	F	ummiid, umiid	hope
اُمید ہونا	KF	ummiid hoonaa	to hope for X /-kii/
آنا		aanaa	to come; see 26:22, 16:30; 163, 178, 201
آنا	K	aanaa	to know Y (skill, language, etc.); see 8:9
اَن پڑھ		an-paRh	illiterate; see 2:26
انتخاب	M	intixaab	selection; election; see 1:19
انتظام	M	intizaam	arrangement; management
انتظام کرنا	NM	intizaam karnaa	to arrange for X /-kaa/
انتظامی		intizaamii	administrative
انتقال	M	intiquaal	death
انتقال ہونا	Ka. M	intiquaal hoonaa	to die a natural death
انتہا	F	intihaa	end, climax; extremity
انتہائی		intihaaii	extreme
انجمنِ حمایتِ اسلام	F	anjuman-e-himaayet-e-islam	See 1:25
انجن	M	injan	Eng. engine
انداز	M	andaaz	style; see 5:20
اندازہ	M	andaazaa	approximation
اندر		andar	inside X /-kee/; see 6:28
اندھا		andhaa	blind

آندھی	F	aaNdhii	dust-storm; used with چلنا
اندھیرا	M	aNdheeraa	darkness; also, dark (adj.)
انس	M	uns	affection, fondness
انسان	M	insaan	human being; Man
انسانی		insaanii	human
آنسو	M	aaNsuu	tears
انصاری		ansaarii	a Muslim surname; see 7:16
انعام	M	in'aam	reward
انقلاب	M	inqilaab	revolution
انکار	M	inkaar	refusal
انکار کرنا	NM	inkaar karnaa	to refuse to I /-see/
آنکھ	F	aaNkh	eye
انگریز	M	angreez	Englishman
انگریزی	F	angreezii	the English language; adj.: English
انگلینڈ	M	inglainD	England
آنگن	M	aaNgan	courtyard inside a house
آنہ	M	aanaa	anna; an old coin, valued at one-sixteenth of a rupee
انہی		inhii; unhii	these; those; same as /in hii/ or /un hii/; also انھیں
انیس		unniis	nineteen (19)
او		oo	a vocative term
آواز	F	aawaaz	voice; sound

اوپر		uupar	over, upon X /-kee/
اودھ	M	awadh	Oudh; name of the kingdom of Lucknow
اور		aur	more; more of the same kind; see 6:1, 10:12; 84, 217
اوسط		ausat	average; medium
اول		awwal	the first; see 6:12
اول تو		awwal too	in the first place
اولاد	F	aulaad	progeny, child
اونچا		uuNcaa	high; tall (with inanimate nouns); see لہا ; see 9:12
اونی		uunii	woollen
آہستہ		aahistaa	slowly; also آہستہ سے
آہستہ ہونا		aahistaa-hoonaa	to slow down
اہل	Mp	ahl	people,(used in /izaafat/ compounds)
اہم		aham, ahem	significant, important
اہمیت	F	ahmiiyat	importance, significance
اے		ai	O, (a vocative particle, used in calling or addressing equals or inferiors)
ایران		iiraan	Iran
ایسا		aisaa	such; see 47
ایشیا	F	eesiyaa	Asia
ایک		eek	one (1); see 7:4, 4:23; 73



ایکا	M	eekaa	unity
ایک طرف کرنا		eek taraf-karnaa	to move aside (Tr.)
ایک ہی وقت		eek-hii-waqt	at the same time, simultaneously
اے لو		ee-loo	an exclamation of mock surprise
ایمان	M	iimaan	belief, faith
ایمان لانا	M	iimaan laanaa	to believe in X /-par/
باب	M	baab	chapter
بابل	M	baabul	Babylon
باپ	M	baap	father; see 11:17; 256
بات	F	baat	matter; see 12:8, 3:13, 12:19, 26:22
بات کرنا	NF	baat karnaa	to talk with X /-see/ about Y /-kii/
بات چیت	F	baat-ciit	conversation
باتوں میں آنا		baatooN-meeN aanaa	to be taken in by X /-kii/; see 26:22
باجی	F	baajii	elder sister, a term of address
بادشاہ	M	baadṣaah	king; see 11:21
بادشاہت	F	baadṣaahat	kingdom; kingship
بادشاہی	F	baadṣaahii	kingship; royal (adj.)
بار	F	baar	instance, time, same as دفعہ or مرتبہ; see 8:21
بارش	F	baaris	rain
بارہ		baaraa	twelve (12)
بارہواں		baarhwaaN	the twelfth

بارے میں		baaree-meeN	concerning X /-kee/, about X /-kee/
باز رکھنا	N	baaz-rakhnaa	to keep X /-koo/ back from X1/-see/
باز رہنا		baaz-rahnaa	to refrain from X /-see/ (Intr.)
بازار	M	baazaar	market
بازو	M	baazuu	arm
باغ	M	baaG	garden
باقی		baaqii	the rest, the remaining
باقی ہونا		baaqii-hoonaa	to be remaining
باقی رہنا		baaqii-rahnaa	to remain
بالترتیب		bit-tartiib	in the given sequence, respectively
بالکل		bilkul	absolutely; entirely; see 84
باٹنا	N	baaNTnaa	to distribute; to divide
بانگڑو	F	baaNgruu	Bangru, an Indic dialect spoken north of Delhi
بانی		baanii	founder
باوجود		baa-wujuud	inspite of X /-kee/
باورچی	M	baawarcii	cook
باورچی خانہ		baawarcii-xaanaa	kitchen; see 2:5
باہر		baahar	out of X /-kee/; outside
بائیس		baaiis	twenty-two (22)
بت	M	but	idol
بتانا	N	bataanaa	to tell X /-koo/

بتلانا	N	batlaanaa	to tell X /-koo/
بيٹھانا	N	biThaanaa	to make X /-koo/ sit
بجائے		bajaaee	instead of X /-kee, -kii /
بجنور	M	bijnaur	name of a north Indian city
بجھنا		bujhnaa	to go out, be extinguished; see 2:24
بچانا	N	baaanaa	to save (Tr.)
بچپن	M	baapan	childhood; see 4:18
بچنا		baanaa	to avoid X /-see/; to be saved
بچہ	M	baaaa	child
بچھنا		bichnaa	to be spread; to be laid out; see 3:30
بچھونا	M	bichaunaa	bedding; see 17:29
بچی	F	baaa	little girl
بجال کرنا	N	bahaal-karnaa	to restore X /-koo/
بخار	M	buxaar	fever; see 4:1, 6:1
بخار آنا	KM	buxaar aanaa	to come, down with fever
بخشنا	N	baaxnaa	to bestow upon X /-koo/; to forgive; see 12:25
بدلنا		baalnaa	to change (Intr.); see 17:17
بدلنا	N	baalnaa	to change (Tr.); see 17:17
بدلہ	M	baalaa	reward; revenge
بدلہ میں		baalaa-meen	in exchange for X /-kee; (sometimes without /-meeN/)
بدن	M	baan	body

بدولت		badaulat	due to, owing to X /-kee, -kii/
بدھ	M	budh	Gautama, the Buddha, founder of Buddhism: Buddhist
بدھ	M	budh	Wednesday
بڈھا	M	buDDhaa	old man
برادران	Mp	biraadaraan	brothers; pl. of برادر /biraadar/
برآمدہ	M	baraamdaa	verandah
بُرائی	F	buraaii	evil, misdeed
برج بھاشا		braj-bhaasaa	Braj Bhasha, an Indic dialect, spoken around Agra and Mathura
برس	M	baras	year; see 7:27
برسنا		barasnaa	to rain down; see پانی ; see 11:13
برعکس		bar-aks	contrary to X /-kee/
برنارڈ	M	barnaarD	Eng. Bernard
بڑا		baRaa	big; great; see 4:8; 84
بڑا کرنا	N	baRaa-karnaa	to make X /-koo/ grow
بڑا ہونا		baRaa-hoonaa	to grow big
بڑھانا	N	baRhaanaa	to increase (Tr.), to expand
بڑھ کر		baRh-kar	more than X /-see/
بڑھنا		baRhnaa	to grow (Intr.); to increase (Intr.)
بڑھ جانا		baRh-jaanaa	to increase (Intr.); to surpass X/-see/
بزرگ	M	buzurg	saint; elders

بس		bas	only; also an exclamation, meaning "Enough!"
بس	F	bas	Eng. bus
بسر کرنا	NF	basar karnaa	to live on Y /-par/
بنا		basnaa	to be founded (cities, etc); to settle down
بشپ	M	bisap	Eng. Bishop
بشرطیکہ		ba-ṣart-e-ki	on the condition that ....
بطور		ba-taur	as X; usually /ba-taur X-kee/; see 4:30
بعد		baad	after X /-kee/; see 3:6
بعض		baaz	some, a few; certain
بغاوت	F	baGaawat	rebellion
بقر عید	F	baqra-iid	same as عید الاضحیٰ /iid-ul-azhaa/
بک اسٹور	MF	buk-sToor	Eng. book-store
بکثرت		ba-kasrat	in abundance, same as کثرت سے /kasrat-see/
بکرا	M	bakraa	male goat; fem. بکری /bakrii/
بکری	F	bikrii	sale; money realised by sale
بکنا		biknaa	to be sold
بکھرنا		bikharnaa	to get scattered
بگڑنا		bigaRnaa	to go bad; to become angry; see 7:29
بلانا	N	bulaanaa	to invite, to send for; see 18:19

بلبل	MF	bulbul	nightingale
بلکہ		bal-ki	rather, on the contrary; see 2:14
بلند		buland	high; tall (with inanimate nouns)
بمشکل		ba-mu <u>skil</u>	with difficulty
بنانا	N	banaanaa	to make; to make X /-koo/ X1
بند	M	band	bonds
بند		band	shut; closed
بند کرنا	N	band-karnaa	to close (Tr.)
بند ہونا		band-hoonaa	to be closed; to stop (Intr.)
بندر	M	bandar	monkey
بندر گاہ	MF	bandar-gaah	sea-port
بندہ	M	bandaa	slave; see 19:25
بنگالی	F	bangaali	Bengali
بننا		banna	to be made; to become; see 2:4
بنوانا	N	banwaanaa	to get (a thing) made; to have X constructed; caus. of بننا; see 5:2
بنیاد	F	bunyaad	foundation
بنیاد پڑنا	Ki.F	bunyaad paRnaa	to be founded
بنیادی		bunyaadii	basic, fundamental
بوجھ	M	boojh	burden
بوجھنا	N	buujhnaa	to guess (the solution), to solve (riddles, etc.)
بوڑھا		buuRhaa	old in age; see 8:4

بوسیدہ		boosiidaa	worn out, dilapidated
بول چال	F	bool-caal	conversation
بولنا		boolnaa	to speak; to utter
بہادر		bahaadur	brave
بہانہ	M	bahaanaa	pretext, excuse
بہانہ کرنا	NM	bahaanaa kamaa	to give X /-kaa/ as an excuse
بہت		bahot	many; see 2:6; 84
بہتر		beh-tar	better
بہترین		beh-tariin	best
بہر حال		ba-har-haal	in any case
بہن	F	bahen	sister
بہنا		bahnaa	to flow
بہو	F	bahuu	daughter-in-law
بھاری		bhaarii	heavy
بھاگنا		bhaagnaa	to flee; to run
بھانجا	M	bhaaNjaa	nephew; see 11:17
بھاؤ	M	bhaaoo	rate (of some commodity); see 7:15
بھائی	M	bhaaii	brother; see 11:17
بھتیجا	M	bhatiijaa	nephew (brother' s son)
بھٹکنا		bhaTaknaa	to go astray
بھر		-bhar	the whole; see 6:15
بھرا		bharaa	full; see 2:30

بھلا	M	bhalaa	the good; see 5:22
بھلانا	N	bhulaanaa	to forget deliberately
بھنڈی	F	bhinDii	okra
بھوکا		bhuukaa	hungry
بھوکا ہونا		bhuukaa-hoona	to be hungry for Y /-kaa, -kee,- kii/
بھولنا		bhuulnaa	to forget involuntarily
بھی		bhii	even; too; also; see 5:1, 9:8, 4:12; 68, 71, 210, 211
بھیجنا	N	bheejnaa	to send
بھیڑ	F	bhiiR	crowd; see 3:15
بھئی		bhain	See 1:2
بی بی	F	biibii	pet name for little girls
بے		bee-X	without X; X-less; see 1:12
بے اختیار		bee-ixteyaar	spontaneously; uncontrollably
بیان	M	bayaan	statement
بیان کرنا	N	bayaan-kamaa	to narrate, exposit
بیٹا	M	beeTaa	son; see 5.9
بیٹھنا		baiThnaa	to sit; see 8:7; 127, 168
بے جان		bee-jaan	lifeless
بیچارہ		bee-caaraa	helpless; the poor one
بیچ میں		biic-meeN	in the middle of X /-kee/
بیچنا	N	beecnaa	to sell



بیچوں بیچ		biicooN-biic	right in the middle of X /-kee/; see 5:6
بے چین		bee-cain	restless
بے حد		bee-had	extremely; lit., without limit
بے خوفی	F	bee-xaufii	boldness, fearlessness
بیرٹری	F	bairestrii	from Eng. barrister
بیرٹی	F	biiRii	bidi; see 13:29
بیزار ہونا		bee-zaar-hoonaa	to have nothing to do with X /-see/, to be displeased with X /-see/
بیس		biis	twenty (20)
بے سرو پا		bee-sar-o-paa	a total orphan; lit., without head and foot; also often used as "without head or tail"
بیکار		beekaar	useless; unemployed
بیگانہ		beegaanaa	estranged; see 9:24
بیگم	F	beegam	wife, (very polite form)
بیمار		biimaar	ill; patient
بیماری	F	biimaarii	illness, disease
بینک	MF	baink	Eng. bank
بے وقوف		bee-wuquuf	stupid, fool
پاٹلی پتر	F	paaTliiputr	Patliputra, an ancient town
پاخانہ	M	paa-xaanaa	latrine
پاداش	F	paadaas	retribution

پادری	M	paadrii	Christian priest; see 9:19
پار		paar	across X /-kee/; on this or that side (with /is/ or /us/); through X /-kee/
پار کرنا	N	paar-karnaa	to go across X
پارٹی	F	paarTii	Eng. party
پاس		paas	near X /-kee/; see 7:5
پاس کرنا	N	paas-karnaa	Eng. to pass (an examination, etc.)
پاک		paak	pious, ritually clean; pure
پاک	M	paak	abbreviation for / Paakistaan/
پاکٹ	F	paakiT	Eng. pocket
پاکستان		paakistaan	Pakistan
پالک	MF	paalak	spinach
پالیسی	F	paaliisii	Eng. policy
پان	M	paan	betel leaf
پانا	N	paanaa	to find; see 173, 177
پانچ		paaNc	five (5)
پانی	M	paanii	water; with برشا = to rain; see 11:13
پانی پانی کرنا	N	paanii- paanii-karnaa	to make X/-kee/feel acutely ashamed
پانی پت	M	paaniipat	name of a city near Delhi
پاؤں	M	paaooN	foot
پتلون	MF	patluun	pants; from Eng. pantaloons
پتہ چلنا	KM	pataa calnaa	to learn about X /-kaa/; see 2:27

پتہ ہونا	KM	pataa hoonaa	to know about X /-kaa/; see 2:25
پتھر	M	patthar	stone
پتی	F	pattii	small leaf: (/patta/, big leaf)
پٹری	F	paTrii	railway tracks
پٹنہ	M	paTnaa	Patna, a city in Bihar (India)
پچھلا		pichlaa	last; the one before
پچیس		pacciis	twenty-five (25)
پر		-par	on; see 1:6, 8:6, 7:9, 8:13, 3:26; 208, 209
پرانا		puraanaa	old; see 8:4
پر بھی		X-par bhii	in spite of X; see 3:26
پرچا سوشلسٹ	F	parjaa soosalisT	Praja Socialist party
پردہ	M	pardaa	veil; curtain
پردہ میں		pardee-meeN	in the guise of X /-kee/
پرستی	F	-parastii	/X-parastii/= worship of X; see 6:24, 11:24
پرسوں		parsoonN	day before yesterday; day after tomorrow; see 3:3
پرواز	F	parwaaz	flying, flight
پروٹسٹنٹ		prooTesTenT	Eng. protestant
پروفیسر	M	proofeesar	Eng. professor
پروگرام	M	proograam	Eng. program
پرول	M	parwal	a vegetable

پرہیز	M	parheez	abstinence from certain food for medicinal purposes
پرہیز کرنا	N	parheez karnaa	to abstain from X /-see/
پرہیز گار		parheez-gaar	pious, abstinent
پرہیز گاری	F	parheez-gaarii	piety
پریشان		pareesaan, pariisaan	worried, anxious
پریشان ہونا		pariisaan-hoonaa	to become scattered; to become worried
پریشانی	F	pareesaanii,	worry
پڑنا		paRnaa	to fall; to occur; to come to be; see 4:5, 9: 13, 11: 13, 13:13, 9:21, 4:29; 166, 167, 226
پڑھا لکھا		paRhaa-likhaa	literate
پڑھنا	N	paRhnaa	to read; to study; to study under X /-see/
پڑھانا	N	paRhaanaa	to teach
پس		pas	consequently
پستی	F	pastii	lowness, inferiority
پسند	F	pasand	choice; see 6:13, 11:24
پسند کرنا	N	pasand-karna	to like
پسند ہونا	K	pasand-hoonaa	to like
پکا		pakkaa	ripe; devout; firm; see 4:16
پکارنا	N	pukaarnaa	to call
پکار اٹھنا		pukaar-uThnaa	to cry out
پکانا	N	pakaanaa	to cook (Tr.)

پکڑنا	N	pakaRnaa	to catch; to grasp
پکنا		paknaa	to be cooked; to ripen; see 4:16
پل	M	pul	bridge
پلنگ	M	palang	cot
پنج شنبہ	M	panj-sambaa	Thursday; see 23:22
پیچہ	M	panjaa	claw: claws
پنشن	F	pensan	Eng. pension
پوچھنا	N	puuchnaa	to enquire from X /-see/, to ask X /-see/X1
پودا	M	padaa	plant
پودینہ	M	poodiinaa	mint (herb)
پورا		puuraa	full, complete; see 4:13, 14:18
پورا کرنا	N	puuraa-karnaa	to fulfill
پورا ہونا		puuraa-hoonaa	to be completed
پورس	M	pooras	Porus (name of a famous Indian King)
پہاڑ	M	pahaaR	mountain
پہاڑی	F	pahaaRii	hill
پہچانا	N	pahcaanna	to recognize
پہلا		pahlaa	the first
پہلو	M	pahluu	side (of the body)
پہلے		pahlee	at first: earlier; before X /-see/; see 3:10

پہنچانا	N	pahuncaanaa	to carry; same as پہنچنا ; see 3:21
پہنچنا		pahuNcnaa	to reach; also پہنچنا ; see 6:11, 3:21
پہننا	N	pahenna	to wear
پہنچانا	N	pahoNcaanaa	same as پہنچنا ; see 3:21
پہیلی	F	paheelii	riddle
پہیہ	M	pahyaa	wheel
پھاڑنا	N	phaaRnaa	to tear apart
پھاندنا	N	phaandnaa	to jump over (Tr.)
پھٹنا		phaTnaa	to get torn
پھر		phir	again; then; see 7:2, 4:9
پھر بھی		phir-bhii	even then, even so
پھرنا		phimaa	to wander; see 3:12
پھسلنا		phisalnaa	to slip, to slide
پھل	M	phal	fruit
پھلنا پھولنا		phalnaa-phuulnaa	to blossom, flourish; /phalnaa/" to bear fruit", /phuulnaa/"to bloom"; see 3:12
پھننا		phaNsnaa	to get caught in X /-meeN/
پھوڑنا	N	phooRnaa	to break, smash
پھول	M	phuul	flower
پھیکا		phiikaa	bland, insipid
پھیلانا	N	phailaanaa	to spread (Tr.)
پھیلنا		phailnaa	to spread (Intr.)

پھینکنا	N	phēeNknaa	to throw
پیار کرنا	NM	pyaar karnaa	to kiss X /-koo/; to love X /-see/
پیاسا		piyaasaa	thirsty
پیاسا ہونا		piyaasaa-hoonaa	to be thirsty for Y /-kaa/
پیام	M	payaam	message
پی۔ایچ۔ڈی		pīi-ec-Dīi	Ph.D.
پیٹھ	F	pīiTh	back
پیش	F	peeciṣ	diarrhea
پچھے		piichee	behind X /-kee/
پیدا کرنا	N	paidaa-karnaa	to create; to raise, produce; see 11:12
پیدا ہونا		paidaa-hoonaa	to be produced; to be born; see 11:12; 260
پیدائش	F	paidaaṣ	birth; see 11:12, 260
پیڑ	M	peeR	tree
پیسہ	M	paisaa	money; pice; paisa; 1/100th of a rupee, earlier 1/64th of a rupee
پیش آنا		pees-aanaa	to behave toward X /-see,-kee saath/ with Y /-see/
پیش کرنا	N	pees-karnaa	to present, put forward
پیغام	M	paiGaam	message
پینا	N	piinaa	to drink; to smoke
تاجر	M	taajir	businessman, merchant
تاریخ	F	taariix	history; date

تاریکی	F	taariikii	darkness
تازہ		taazaa	fresh
تاکہ	F	taa-ki	so that
تامل		taamil	Tamil
تب بھی		tab bhii	even then
تبدیل ہونا		tabdiil-hoonaa	to be changed; to change into X /-meeN/
تبدیلی	F	tabdiilii	change
تب	MF	tap	fever
تجارت	F	tijaarat	trading; trade
تجویز	F	tajwiiz	suggestion
تحت		tahet	under X /-kee/
تحریک	F	tahriik	movement (political, etc.)
تحصیل	F	tahsiil	administrative division of a district
تحفظ	M	tahaffuz	protection; see 8:23
تخت	M	taxt	a square wooden board raised on four legs; throne
تخلص	M	taxallus	nom de plume; see 1:20
تذکرہ	M	tazkiraa	mention
تذکرہ کرنا	NM	tazkiraa karnaa	to mention X /-kaa/ to XI /-see/
تربوز	M	tarbuuz	water-melon
ترجمہ	M	tarjumaa,	translation; see 7:18
ترجمہ کرنا	NM	tarjumaa karnaa	to translate X /-kaa/



ترجمہ کرنا	N	tarjumaa-karnaa	to translate
ترجمہ ہونا	Ka.M	tarjumaa-hoonaa	to be translated
ترس آنا	KM	taras aanaa	to feel pity for X /-par/; see 6:8
ترشح	M	tarassuh	drizzle
ترقی	F	taraqqii	progress, promotion; development; see 11:24
ترقی دینا	NF	taraqqii deenaa	to develop X /-koo/
ترقی پسند		taraqqii-pasand	progressive
ترقی کرنا	NF	taraqqii karnaa	to make progress
ترکاری	F	tarkaarii	vegetable
ترکی	F	turkii	the Turkish language
ترکیب	F	tarkiib	device, method; recipe
ترئی	F	turarii	a kind of squash
ترپنا		taRapnaa	to writhe
تسلی	F	tasallii	comfort, consolation
تسلی پانا	NF	tasallii paanaa	to be consoled, to derive comfort from X /-see/
تسلی دینا	NF	tasallii deenaa	to console X /-koo/
تسلیم کرنا	N	tasliim-karnaa	to accept, to admit
تشریف رکھنا	NF	tasriif rakhnaa	to sit down, (used in polite and formal conversation); see 2:1
تشویش	F	taswiis	care, anxiety
تصور	M	tasawwur	imagination; conception

تصور کرنا	NM	tasawwur karnaa	to imagine X /-kaa/
تجرب	M	ta'ajjub, taajjub	amazement; see 14:19
تعداد	F	taadaad	number, numerical strength; see 8:27
تعریف	F	taariif	praise
تعریف کرنا	NF	taariif karnaa	to praise X /-kii/
تعزیت	F	taaziyat	condolence; see 4:22
تعزیت کرنا	NF	taaziyat karnaa	to express condolence to X /see/ regarding X1 /-kii/
تعلق	M	ta'alluq	relation
تعلق سے		ta'alluq-see	related to X /-kee/
تعلقات	Mp	taalluqaat	relationships
تعلیم	F	taaliim	education; see 2:26
تعلیم دینا	NF	taaliim deenaa	to teach X /-koo/ X1 /-kii/
تعلیمی		taaliimii	educational
تفریح	F	tafriih	enjoyment
تفصیل	F	tafsiil	detail
تفصیل کے ساتھ		tafsiil-kee saath	in detail; also تفصیل سے
تقاریب	Fp	taqaariib	ceremonies; formal occasions; pl.of تقرب /taqriib/
تقدیر	F	taqdiir	destiny, fate
تقریباً		taqriiban	approximately
تقسیم کرنا	N	taqsiim-karnaa	to distribute
تک		-tak	upto; see 206, 209

تکلیف	F	takliif	difficulty; pain
تکلیف پہنچنا	KF	takliif pahuNcnaa	to get hurt; see 6:11
تکلیف کرنا	NF	takliif karnaa	to take the trouble to I /-kii/
تلاش	F	talaas	search
تلاش کرنا	N	talaas-karnaa	to search for something
تلاش کرنا	NF	talaas karnaa	to look for X /-kii/
تماشا	M	tamaasaa	entertainment, shows
تمام		tamaam	all, entire
تن	M	tan	body
تندرست		tan-durust	healthy
تنظیم	F	tanziim	organization
تو		too	See 5:1, 7:2, 6:6; 210, 221, 222
توانا		tawaanaa	healthy, strong; (unmarked adj.)
توانائی	F	tawaanaaii	strength
توبہ	F	taubaa	repentance; see 4:11
توبہ کرنا	NF	taubaa karnaa	to vow to abstain from X /-see/
توجہ	F	tawajjoh	attention
توڑنا	N	toorNaa	to break (Tr.)
تہذیب	F	tahziib	culture
تہذیب الاخلاق		tahziib-ul-axlaaq	name of a journal; lit., education of morals
تہذیبی		tahziibii	cultural

تہوار	M	tehwaar	festival; also تیوار
تھانہ	M	thaanaa	police station
تھکنا		thaknaa	to get tired, become tired
تھوڑا		thooRaa	a little; see 84
تھوک	M	thook	wholesale
تیار		tayyaar	prepared, ready; see 3:4, 9:17
تیار کرنا	N	tayyaar-karnaa	to prepare (Tr.)
تیار ہونا		tayyaar-hoonaa	to be prepared, get ready
تیاری	F	tayyaarii	preparation; see 9:17
تیاری کرنا	NF	tayyaarii karnaa	to prepare for Y /-kii/; to prepare to I/-kii/
تیر	M	tiir	arrow
تیرنا		tairnaa	to swim
تیرہواں		teerhwaan	the thirteenth
تیزی	F	teezii	rapidity
تیزی سے		teezii-see	rapidly
تیس		tiis	thirty (30)
تیسرا		tiisraa	the third
تین		tiin	three (3)
تین چار		tiin-caar	three or four; a few
تیوار	M	tyoohaar	festival; also تہوار
ٹالنا	N	Taalnaa	to ignore; to evade; see 18:29

ٲاؤن	M	Taaun	Eng. town
ٲٲو	M	TaTTuu	pony
ٲرک	M	Trak	Eng. truck
ٲکر	F	Takkar	encounter, collision; see 5:28
ٲکر لینا	NF	Takkar leénaa	to confront X /-see/; to seek battle with X /-see/
ٲکررا	M	TukRaa	piece
ٲلنا		Talnaa	to be postponed or set aside
ٲلدا	M	TinDaa	a vegetable
ٲوپي	F	Toopii	cap
ٲوکننا	N	Tooknaa	to object; to interrupt Z /-koo/
ٲھھ	M	ThaTh	crowd; see 3:15
ٲھھراانا	N	(X1)-Thahraanaa, Thairaanaa	to establish X /-koo/ as X1; also ٲھھیرانا
ٲھھیرنا		Thairnaa	to stay; also ٲھھیرنا
ٲھھیک		Thiik	all right; correct; exact
ٲھھیک کرنا	N	Thiik-karnaa	to set X /-koo/ right
ٲھھیکس	M	Taiks	Eng. tax
ٲھھیکسلا	M	Teeksilaa	Taxila (name of an ancient city)
ٲھھیت کرنا	N	saabit-karnaa	to prove
ٲھھوت	M	subuut	proof
ٲھھاری کرنا	N	jaarii-karnaa	to issue (a magazine, order, etc.); see 12:18

جاڑا	M	jaaRaa	winter; see 1:15
جان	F	jaan	life; see 1:12, 11:17
جان بچانا	NF	jaan bacaanaa	to save X's /-kii/ life
جان ڈالنا	NF	jaan Daalnaa	to put life in X /-meeN/
جانا		jaanaa	to go; see 5:7, 16:22; 98, 162, 178, 182-187, 201
جانب سے		jaanib-see	on behalf of X /-kii/
جاندار		jaan-daar	living being; see 1:12
جاننا	N	jaannaa	to know
جانور	M	jaanwar	animal
جاوید	M	jaaweed	a personal name
جب		jab	when
جب تک		jab-tak	so long as; see 5:30
جب کبھی		jab-kabhii	whenever
جتنا		jitnaa	as much as; see 71
جدوجہد	F	jidd-o-jahd	struggle, endeavour
جدید		jadiid	modern; see 10:18
جذبہ		jazbaa	sentiment, emotion
جرمنی	M	jarmanii	Germany
جس		jis	which; oblique of /joo/; see 61, 63-68
جسم	M	jism	body
جگہ	F	jagah, jaghaa	place; instead of X /-kii jagah/

جگہ لینا	NF	jagah leenaa	to take X's /-kii/ place
جلدی		jaldii	hurriedly, quickly; soon
جلسہ	M	jalsaa	session, meeting
جلسہ کرنا	NM	jalsaa karnaa	to hold a meeting
جلنا		jalnaa	to burn (Intr.)
جمع کرنا	N	jamaa-karnaa	to collect (Tr.); to deposit
جمع کروانا	N	jamaa-karwaanaa	to deposit; caus. of جمع کرنا; see 3:27
جملہ	M	jumlaa	sentence; see 6:21
جمہوریت	F	jamhuuriyat	democracy
جناب		janaab	a title of respect used before names; see 12:22
جنازہ	M	janaazaa	a funeral; see 15:13
جن سنگھ	F	jan-sangh	Jana Sangh, name of an Indian political party
جنگ	F	jang	war
جنگ عظیم	F	jang-e-aziim	World War; lit. The Great War
جنوبی		junuubii	southern; see 18:17
جواب	M	jawaab	answer
جواب دینا	NM	jawaab deenaa	to answer Y /-kaa/; to answer Z /-koo/
جواب لکھنا	NM	jawaab likhnaa	to write in reply to Y /-kaa/
جوان		jawaan	young; see 8:4, 10:22
جو کچھ		joo-kuch	whatever
جو کوئی		joo-kooii	whoever

جولائی	MF	juulaaii	Eng. July
جون	M	juun	Eng. June
جہان	M	jahaan	world; in poetry, also جہاں /jahaaN/
جہاں		jahaaN	where
جہلم	M	jehlam	Jhelum (name of one of the five rivers in the Punjab)
جھپٹنا	M	jhapaTnaa	to dash forward, to leap at X/-par/
جھٹکا		jhaTkaa	jerk, jolt
جھکنا		jhuknaa	to bow
جھگڑنا		jhagaRnaa	to quarrel with X /-see/
جھلک	F	jhalak	glimpse; reflection
جھلکنا		jhalaknaa	to flash; to appear through
جھوٹ	M	jhuuT	a lie
جھوٹ بولنا	NM	jhuuT boolnaa	to tell a lie
جھونپڑا	M	jhooNpRaa	hut
جی		jii	a term of respect used after names
جی		jii	yes; see 4:1
جیتنا	n	jiitnaa	to win
جیسا		jaisaa	as; see 5:12, 19:15; 69, 70, 76-78
جیسے		jaisee	as; see 19:15; 202
جینا		jiinaa	to live
چادر	F	caadar	sheet



چار		caar	four (4)
چاروں طرف		caaroonN taraf	around X /-kee/; all around
چالاک		caalaak	cunning
چالاکي	F	caalaakii	cunning
چالیس		caaliis	forty (40)
چاند	M	caand	moon
چاہنا	N	caahnaa	to desire, want; see 189, 190
چاہے		caahee	See 3:3, 8:8
چاہیے		caahiye	See 5:2; 190
چپ		cup	silent (mostly used in the complement function)
چپ کرنا	N	cup-karnaa	to silence X /-koo/
چپ ہونا		cup-hoona	to be silent
چٹان	F	caTaan	rock
چٹنی	F	caTnii	chutney
چٹ پٹا		caTpaTaa	spicy; see 11:14
چچا	M	cacaa	paternal uncle; see 11:7
چچی	F	cacii	paternal aunt
چراغ	M	ciraaG, caraaG	lamp
چرچ	M	carc	Eng. church
چڑھائی	F	caRhaaii	attack, invasion
چڑھائی کرنا	NF	caRhaaii karnaa	to invade X /-par/, to attack X /-par/

چڑھنا		caRhnaa	to climb X /-par/
چڑیا	F	ciRyaa	bird
چکنا		cuknaa	to come to an end; see 169
چلا آنا		calaa-aanaa	to come, to come in
چلا جانا		calaa-jaanaa	to go away; see 4:6
چلانا	N	calaanaa	to drive, to move; to run (a job, machine, etc.); see 13:7
چلنا		calnaa	to walk; to go; see 3:1, 4:6, 6:9, 17:15, 8:30
چلنا پھرنا		calnaa-phimaa	to walk around
چمک دمک		camak-damak	glitter, sheen
چمکنا		camaknaa	to shine (Intr.)
چنانچہ		cunaan-ce	therefore, consequently; see 10:21
چند		cand	a few
چندہ	M	candaa	donation
چننا	N	cunnaa	to elect
چوتھا		cauthaa	the fourth
چور	M	coor	thief; see 9:27
چوراسی		cauraasii	eighty-four (84)
چوری چھپے		coorii-chipee	secretly
چوڑا		cauRaa	wide, broad
چوکس		caukas	alert to X /-see/
چونکنا		cauNknaa	to be startled

چونکہ		cuuN-ki	since, because; see 9:5
چہرہ	M	cehraa	face
چہرہ اترنا	Ka.M	cehraa utarnaa	to grow pale in the face from dismay
چھ		chee	six (6)
چھاپنا	N	chaapnaa	to publish, to print
چھاپہ خانہ	M	chaapaa-xaanaa	printing press
چھانا		chaanaa	to be spread above X /-par/
چھا جانا		chaa-jaanaa	to overwhelm X /-par/; lit., to cover X /-par/ (Intr.)
چھپانا	N	chupaanaa	to hide
چھپنا		chupnaa, chipnaa	to hide (Intr.)
چھپنا		chapnaa	to be printed
چھت	F	chat	roof, ceiling
چھوٹا		chooTaa	young; small; younger
چھوٹنا		chuuTnaa	to be released from X /-see/; to leave; to be left behind
چھوڑنا	N	chooRnaa	to leave; to give up
چیز	F	ciiz	thing; also see بات; see 12:8
چین	M	ciin	China
حاصل کرنا	N	haasil-karnaa	to obtain; see 3:17
حاصل ہونا	K	haasil-hoonaa	to gain, receive; see 3:17
حاکم	M	haakim	ruler
حال	M	haal	account; state

حالات	Mp	haalaat	events; circumstance
حالانکہ		haalaaN-ki	whereas, although; see 13:11
حالت	F	haalat	condition
حائل		haael	obstructing, intervening
حائل ہونا		haael-hoonaa	to obstruct Y /-meeN/
حج	M	haj	the pilgrimage to Mecca
حجت	F	hujjat	argument, proof
حد	F	had	limit; see 3:24
حدود	Fp	huduud	limits; pl. of حد
حرکت	F	harkat	movement; antic
حرکت کرنا	NF	harkat karnaa	to move (Intr.)
حصہ	M	hissaa	part, share
حصہ لینا	NM	hissaa leenaa	to take part in X /-meeN/
حضرت	M	hazrat	Sir, a title of respect; see 13:22; 255
حضور	M	huzuur	a polite term of address; lit., presence; see 14:22; 255
حظ	M	haz	delight
حظ اٹھانا	NM	haz uThaanaa	to enjoy X /-see, -kaa/
حفاظت	F	hifaazat	defence, protection; see 8:23
حق	M	haq	truth; right; also adj., true
حقوق	Mp	huquuq	rights; pl. of حق
حقیقت	F	haqiiqat	fact, reality

حکام	Mp	hukkaam	officers; pl. of حاکم /haakim/
حکم	M	hukm	order; see 6:17
حکم دینا	NM	hukm deenaa	to order X /-koo/ to I /-kaa/
حکومت	F	hukuumat	government; reign
حکیم	M	hakiim	philosopher; Eastern-style doctor
حلق	M	halq, halaq	throat
حلقہ	M	halqaa	circle
حمایت	F	himaayat	support
حمایت کرنا	NF	himaayat karnaa	to support X /-kii/
حملہ	M	hamlaa	attack
حملہ کرنا	NM	hamlaa karnaa	to attack X /-par/
حیات	F	hayaat	life
حیات جاوید		hayaat-e-jaaweed	name of a book by Hali
حیثیت	F	haisiyat	position, status
حیدرآباد	M	haidaraabaad	Hyderabad (Deccan), a city in South India
حیرت	F	hairat	astonishment; perplexity
حیرت زدہ		hairat-zadaa	astonished, amazed; see 9:30
خاص		xaas	special
خاص طور پر		xaas-taur-par	especially (also with /-see/)
خاصا		xaasaa	quite; fairly
خاطر		xaatir	for the sake of X /-kii/

خاکی		xaakii	khaki
خالص		xaalis	pure, unadulterated
خالی		xaalii	empty, vacant; see 16:13, 10:17
خاموش		xaamoos	silent
خاموش رہنا		xaamoos-rahnaa	to keep quiet
خاموش ہونا		xaamoos-hoonaa	to become silent
خان	N	xaan	a title for Muslim nobles conferred by the Moguls; a Muslim surname
خاندان	M	xaandaan	family
خانہ		-xaanaa	See 2:5
خبر	F	xabar	news; see 24:22, 11:29
خبر لینا	NF	xabar leena	to settle accounts with X /-kii/; to berate X /-kii/; to look after X /-kii/; see 7:8, 24:22, 11:29
خبر ہونا	KF	xabar hoonaa	to know, to come to know of X /-kii/
خبردار		xabar-daar	beware, be on guard
خبردار کرنا	N	xabar-daar-karnaa	to warn X /-koo/ about Y/-see/
ختم کرنا	N	xatm-karnaa	to finish
ختم ہونا		xatm-hoonaa	to come to an end
خدا	M	xudaa	God; god; see 6:1; 10:5; 24
خدا حافظ		xudaa-haafiz	"May God protect you", goodbye
خدمت	F	xidmat	service; see 1:3
خدمت کرنا	NF	xidmat karnaa	to serve X /-kii/

خراب		xaraab	bad
خرابی	F	xaraabii	defect
خراج	M	xiraaj	tribute
خریوزه	M	xarbuuzaa	a kind of melon
خرچ کرنا	N	xarc-karnaa	to spend; see 9:11
خردمند	N	xiradmand	intellectual; philosopher
خریدار		xariidaar	buyer
خریدنا	N	xariidnaa	to buy
خزانہ	M	xazaanaa	treasure
خصوصیات	Fp	xusuusiyaat	characteristics; pl. of خصوصیت
خط	M	xat	letter
خطرناک		xatar-naak	dangerous
خطرہ	M	xatraa	danger
خطوط	Mp	xutuut	letters; pl. of خط
خفا		xafaa	angry, (an unmarked adjective)
خفا ہونا		xafaa-hoonaa	to be angry
خلاف		xilaaf	against X /-kee/
خواب	M	xwaab	dream
خواجہ		xwaajaa	a Muslim family name
خواہ		xwaah, xaah	whether; (the second clause will also have either خواه or یا)
خواہش	F	xwaahis	desire; see 11:19

خوب		xuub	much; well, nice; see 10:8
خوبصورت		xuub-suurat	beautiful
خود		xud	itself; see 9:8, 8:12
خودی	F	xudii	ego, selfhood; see 3:25
خوش		xus_	happy
خوشامد	F	xusaamad	flattery; see 12:30
خوشامد کرنا	NF	xusaamad karnaa	to flatter X /-kii/
خوشامدانه		xusaamdaanaa	flattering; see 3:18, 12:30
خوشبو	F	xus_-buu	fragrance
خوشی	F	xus_ii	happiness; enjoyment; wish
خوشی کرنا	NF	xus_ii karnaa	to rejoice
خیال	M	xayaal	thought; see 1:4, 5:11, 13:18, 28:22, 2:29
خیال رکھنا	NM	xayaal rakhnaa	to take care of X /-kaa/; see 28:22
خیالات	Mp	xayaalaat	ideas; pl. of خیال
خیرات	F	xairaat	alms
خیرات کرنا	NF	xairaat karnaa	to give alms
خیریت	F	xairiyat	welfare, news of welfare
دادی	F	daadii	paternal grandmother; see 11:17
دارا	M	daaraa	Darius
داخل ہونا		daaxil-hoonaa	to enter X /-meeN/
دال	F	daal	lentils



دام	M	daam	price; see 7:2, 7:4
دامن	M	daaman	hem of a garment; see 6:30
دانا		daanaa	wise (an unmarked adjective)
دانه	M	daanaa	grain
دبانا	N	dabaanaa	to press, force
دخلى هونا	KM	daxl hoonaa	to have some power in X /-meeN/; see 7:22
دراصل		dar-asl	in fact
دربار	M	darbaar	royal court
درجه	M	darjaa	class
در حقيقت		dar-haqiiqat	in fact, in truth
درخت	M	daraxt	tree
درد	M	dard	pain
دردناك		dard-naak	tragic, painful
درميان		dar-miyaan	between X and X1/- kee/; middle of X /-kee/
دروازه	M	darwaazaa	door
دژه	M	darraa	mountain-pass
دريا	MF	daryaa	large river
دريافت كرنا	N	daryaaft-karnaa	to enquire from X /-see/
دس		das	ten (10)
دستر خوان	M	dastar-xwaan	a piece of cloth on which meals are served; see 15:15

دستہ	M	dastaa	platoon
دسمبر	M	desambar	Eng. December
دعا	F	du'aa	prayer; blessings; see 10:16, 1:17, 7:22
دعا پڑھنا	NF	du'aa paRhnaa	to recite prayers
دعا کرنا	NF	du'aa karnaa	to pray for Y /-kii/; to pray for X /-kee liyee/
دعوئی	M	daawaa	claim
دفتر	M	daftar	office
دفعہ	F	dafaa	(one) time; same as بار
دفن ہونا		dafn-hoonaa	to be buried
دکان	F	dukaan	shop
دکن	M	dakan, dakin	the Deccan; South India
دکنی		daknii	Deccani, a variety of Urdu
دکھ	M	dukh	pain; grief
دکھانا	N	dikhaanaa	to show
دکھائی دینا		dikhaaaii-deenaa	to be seen; to come into sight
دل	M	dil	heart; see 3:3, 3:16
دلچسپ		dil-casp	interesting
دلچسپی ہونا	KF	dilcaspaii hoonaa	to be interested in X /-see, -meeN/
دلہن	F	dulhan	bride
دلیل	F	daliil	proof
دم	M	dam	breath; moment

دم گھٹنا	Ka.M	dam ghuTnaa	to be suffocated
دماغ	M	dimaaG	peace of mind, lit., mind; see 19:20
دن	M	din	day
دنیا	F	dunyaa	world; see 3:16
دنیا سے اٹھنا		dunyaa-see uThnaa	to leave the world (to die)
دنیا سے سدھارنا		dunyaa-see sidhaarnaa	to depart from the world (to die)
دو		doo	two (2)
دوا	F	dawaa	medicine; 7:22
دواخانہ	M	dawaa-xaanaa	chemist's shop; dispensary
دوبارہ		doobaaraa	again; see 8:21
دودھ	M	duudh	milk
دَور	M	daur	period; age
دُور		duur	far from X /-see/; see 7:5
دُور کرنا	N	duur-karnaa	to remove from X /-see/
دَورہ	M	dauraa	tour of duty
دَورہ کرنا	NM	dauraa karnaa	to tour X /-kaa/
دوست	MF	doost	friend
دوسرا		duusraa	another; the second
دولت	F	daulat	wealth
دولہا	M	duulhaa	bridegroom; also دولہا
دوم		doom	second
دونوں		doonooN	both

دہلی	F	dehlii	Delhi; same as دہلی /dillii/
دھرم	M	dharm	religion
دھڑا دھڑا		dhaRaa-dhaR	ceaselessly, rapidly
دھن	F	dhun	ardent desire
دھواں	M	dhuaaN	smoke
دھواں اڑانا	NM	dhuaaN uRaanaa	to blow smoke
دھوپ	F	dhuup	sun (as in "sit in the sun"), sunlight
دھوکہ	M	dhookaa	deception, fraud
دھوکہ دینا	NM	dhookaa deenaa	to deceive X /-koo/
دھوکے میں ڈالنا	N	dhookee-meeN Daalnaa	to mislead X /-koo/
دھیان	M	dhyaan, dheyaan	attention
دھیان سے		dheyaan-see	attentively
دیر	F	deer	lapse of time; see 19:29
دیر تک		deer-tak	till late
دیس	M	dees	country; homeland
دیکھنا	N	deekhnaa	to see
دینا	N	deenaa	to give; see 158:164, 176:177
دیوان	M	diiwaan	collection of poetry
دیوی	F	deewii	a title of respect used after the names of Hindu ladies; lit., "goddess"
دیہاتی		diihaatii	rural
ڈاک	F	Daak	mail

ڈاکٹر	M	DaakTar	Eng. doctor
ڈاکٹریٹ		DaakTreeT	Eng. doctorate
ڈاک خانہ	M	Daak-xaanaa	post office; see 2:5
ڈالنا	N	Daalnaa	to pour, put into; to lay down
ڈبوونا	N	Duboonaa	to ruin X /-koo/; lit., to sink (Tr.), to drown (Tr.); see 18:20
ڈر	M	Dar	fear
ڈرنا		Darnaa	to fear X /-see/
ڈگری	F	Digrii	Eng. degree
ڈنڈا	M	DanDaa	stick, staff
ڈنر	M	Dinar	Eng. dinner
ڈوبنا		Duubnaa	to set, (with sun, etc.); to sink (Intr.)
ڈویژن	M	Diwiizan	Eng. division
ڈھائی		Dhaaii	two and a half
ڈھلکنا		Dhulaknaa	to roll down
ڈھونڈنا	N	DhuunDnaa	to search for, to seek
ڈھونگ	M	DhooNg	pretence, fraud
ڈھیر	M	Dheer	heap
ڈھیلا ڈھالا		Dhiilaa-Dhaalaa	loose; see 11:28
ڈیوک	M	Dyuuk	Eng. duke
ڈرا		zaraa	just; a little; see 3:2
ڈریجہ	M	zarii'aa, zaryaa	means

ذریعے		zariiee, zaryee	by means of X /-kee/
ذلت	F	zillat	humiliation
ذوق	M	zauq	taste for, or delight in, X /-kaa/
ذہن	M	zahn	mind
رات	F	raat	night
راجدھانی	F	raajdhanaai	capital
راجہ	F	raajaa	king; also راجا
راز	M	raaz	secret
راستہ	M	raastaa	way
راضی کرنا	N	raazii-karnaa	to make X /-koo/ agree; to conciliate X /-koo/
راضی ہونا		raazii-hoonaa	to agree to I /-par/
راہپور	M	raampur	Rampur, a former princely state in U.P. (India)
راہ	F	raah	path, way
راج کرنا	N	raaej-karnaa	to put into circulation
رائے	F	raaee	opinion; see 1:4, 13:18
رحم	M	rahm	mercy
رحم کرنا	NM	rahm karnaa	to show mercy to X /par/
رحم دل		rahm-dil	kind-hearted
رخ	M	rukh	face; direction

رُخ کرنا	NM	rux karnaa	to turn one's /-kaa/ face toward X /-kii taraf/; to set off toward X /-kaa/
رُخصت کرنا	N	ruxsat-karnaa	to see X /-koo/ off
رخنه	M	raxnaa	disturbance, stoppage; see 10:23
رسالہ	M	risaalaa	magazine
رسم	F	rasm	ritual; see 12:14
رشی	F	rassii	rope
رشی	M	riṣii	pious person, a sage
رضا	F	razaa	consent; wish
رعایا	F	ri'aayaa	subject, people
رفتہ رفتہ		raftaa-raftaa	gradually; see 5:18
رفعِ شر		rafa-e-Sar	avoidance of evil; see 2:29
رفع ہونا		rafaa-hoonaa	to go away; see 2:29
رقص	M	raqs	dance
رقص کرنا	NM	raqs karnaa	to dance
رُکن	M	rukṅ	member
رُکنا		ruknaa	to stop (Intr.)
رُکوانا	N	rukwaanaa	to cause to be stopped
رکھنا	N	rakhnaa	to put, to keep; see 14:11
رمضان	M	ramzaan	the 9th month of the Muslim calendar during which Muslims fast
رَنج	M	ranj	grief

رنج هونا	KM	ranj hoonaa	to be grieved
رنگ	M	rang	colour; attitude; condition; see 5:3, 10:24
رواداری	F	rawaadaarii	toleration
روا رکھنا	N	rawaa-rakhnaa	to tolerate, to allow; see 7:23
رواج	M	rawaaj	customary usage, practice; see 12:14
روانگی	F	rawaangii	departure
روانہ ہونا		rawaanaa-hoonaa	to depart
روایات	Fp	riwaayaat	traditions; pl. of روایت
روایت	F	riwaayat	tradition; saying
روپیہ	M	rupyaa	rupee; see 3:3
روٹی	F	rooTii	bread; see 9:29, 20:29
روٹی ڈالنا	NF	rooTii Daalnaa	to prepare bread
روٹی کمانا	NF	rooTii kamaanaa	to earn one's livelihood
روح	F	ruuh	spirit; soul
روز	M	rooz	day; adv., daily, everyday; see 2:9, 4:15, 4:20
روزگار	M	roozgaar	the mundane world; see 3:22
روزہ	M	roozaa	(a) fast; see 8:14
روزہ رکھنا	NM	roozaa rakhnaa	to keep a fast
روزی	F	roozii	sustenance, livelihood; see 3:22
روزی کمانا	NF	roozii kamaanaa	to earn for sustenance
روس	M	ruus	Russia



روشن		rausaan	bright, lit up; see 14:28
روشن کرنا	N	rausaan-karnaa	to bring Y /-koo/ into light; to light; see 14:28
روشنی	F	rausnii	light
روکنا	N	rooknaa	to stop (Tr.)
روکھا		ruukhaa	dry; see 21:29
رولس رائس	F	rools-raais	Eng. Rolls Royce
رونا	N	roonaa	to cry, weep
رونا پیٹنا		roonaa-piiTnaa	to wail (Intr.); /roonaa/ "to weep" + /piiTnaa/ "to beat"; see 216
رونق	F	raunaq	glow, colorful effect; see 17:20
رہا ہونا		rihaa-hoonaa	to be set free
رہا کرنا		rihaa-karnaa	to set X /-koo/ free
رہائی	F	rihaaai	release; see 9:22
رہنا		rahnaa	to remain; to stay; to reside; see 3:2, 1:4, 10:9, 14:11, 16:22, 7:25, 8:29, 174, 179
رہنمائی	F	rah-numaaii	guidance
رہنمائی کرنا	NF	rah-numaaii karnaa	to guide X /-kii/
ریاست	F	riyaasat	state; estate
ریختہ	F	reextaa	an earlier name of Urdu; lit., mixed; see 9:21
ریل	F	reel	train
زبان	F	zabaan, zubaan	language; tongue

زبردست		zabar-dast	strong, grand
زُلف	F	zulf	tresses
زمانہ	M	zamaanaa	time; age, period
زمین	F	zamiin	land; earth
زمیندار	M	zamiin-daar	landlord (of land, not houses)
زندگی	F	zindagii	life; see 1:12
زندہ		zindaa	alive
زندہ رہنا		zindaa-rahnaa	to remain alive
زندۂ جاوید		zinda-e-jaaweed	immortal
زور	M	zoor	power; see 16:15
زور پر ہونا		zoor-par hoonaa	to be powerful; to be at its peak
زور پکڑنا	NM	zoor pakaRnaa	to gain strength
زور ہونا	Ka.M	zoor hoonaa	to be in full strength; see 16:15
زیادہ		ziyaadaa	much, excessive; see 84
زیادہ کرنا	N	ziyaadaa-karnaa	to add to X, to increase X
زیادہ تر		ziyaadaa-tar	mostly; most; see 10:14
سا		saa	See 2:6; 56, 75-81
ساتھ	M	saath	along with X /-kee/; see 9:9, 8:24
ساتھ ہی ساتھ		saath hii saath	along with it; along with X /-kee/
ساتھی	MF	saathii	companion
سادہ	M	saadaa	simple
سارا		saaraa	whole, entire; see 4:13

ساگ	M	saag	greens
سال	M	saal	year
سالانہ		saalaanaa	annually; annual; see 4:20
سالن	M	saalan	any dish of meat and vegetables with gravy
سامان	M	saamaan	baggage
سامنا	M	saamnaa	encounter; confrontation; see 1:28
سامنا ہونا	Ka.M	saamnaa-hoonaa	to be faced with X /-kaa/; to have an encounter with X /-see/
سامنے		saamnee	in front of X /-kee/
سانس	MF	saaNs	the breathing, breath
سانس لینا	NFM	saaNs leenaa	to breathe
سائنس	F	saains	Eng. science
سائیکل	F	saaiikil	Eng. bicycle
سب		sab	all; see 4:13
سبب	M	sabab	reason
سبب سے		sabab-see	on account of X /-kee/
سبحان اللہ		subhaan-allaah	a term of pleasant surprise; lit., praise be to God; see 21:22
سبزی	F	sabzii	vegetable
سبزی فروش	M	sabzii-farooṣ	vegetable-seller
سپاہی	M	sipaahii	soldier
ستارہ	M	sitaaraa	star

ستانا	N	sataanaa	to persecute X /-koo/, to tease X /-koo/
ستمبر	M	sitambar	Eng. September
سجانا	N	sajaanaa	to decorate; to arrange nicely
سچ		sac	truth; adj., true
سخت		saxt	vehement, strong; see 20:19
سختی	F	saxtii	harshness; see 7:13
سدهارنا		sidhaarnaa	to depart
سدهارنا	N	sudhaarnaa	to improve (Tr.)
سڈنی	M	siDnii	Sydney
سر		sar	Eng. Sir
سر	M	sar, sir	head; see 8:22
سراغ	M	suraaG	clue
سردی	F	sardii	cold; see 7:1, 1:15, 10:29
سرکار	F	sarkaar	government
سرکاری		sarkaarii	official
سرکشی	F	sar-kasii	disobedience, rebellion
سرکنا		saraknaa	to move away
سرمایہ	M	sarmaayaa	funds, capital
سرمایہ پرست		sarmaayaa-parast	capitalist; see 11:24
سرنامہ	M	sar-naamaa	address on an envelope (obsolete)
سڑک	F	saRak	road

سزا	F	sazaa	punishment
ستا	M	sastaa	cheap, inexpensive
سشن جج	M	sesan-jaj	Eng. Sessions Judge
سفر	M	safar	journey, voyage
سفر کرنا	NM	safar karnaa	to travel; to travel to X /-kaa/
سکنا		saknaa	to be able to I (root); see 172, 173
سکندر	M	siknadar	Alexander
سلسلے میں		silsilee-meeN	in connection with X /-kee/
سلطنت	F	saltanat	kingdom, kingship; see 11:21
سگانا	N	sulgaanaa	to light (a fire, a cigarette)
سلمان	M	salmaan	a personal name
سلوک	M	suluuk	treatment
سلوک کرنا	NM	suluuk karnaa	to treat X /-see, -kee saath/
سماج	M	samaaj	society
سماجی		samaajii	social
سماں	M	samaaN	scene
سمجھ	F	samajh	understanding, intelligence
سمجھ میں آنا		samajh-meeN aanaa	to be understood by X /-kii/
سمجھانا	N	samjhaanaa	to make X /-koo/ understand; to convince X /-koo/
سمجھنا	N	samajhnaa	to understand; to consider X /-koo/ to be X1

سمیت		sameet	with, along with X; including X; also /-kee sameet/
سنجھالنا	N	saNbhaalnaa	to take care of X; see 5:13, 8:16
سنجیدگی	F	sanjiidgii	seriousness; see 13:19
سند	F	sanad	authorisation, certificate
سنسکرت	F	sanskrit	the Sanskrit language
سننا	N	sunnaa	to hear; see 13:17
سو		sau	hundred (100)
سوا		sawaa	quarter (1/4); see 3:4
سوا		siwaa	except for X /-kee/; /siwaa X -kee/ = /X -kee siwaa/; see 5:15, 2:22
سوار ہونا		sawaar-hoonaa	to ride on X /-par/, in X /-meeN/
سواری کرنا	NF	sawaarii karnaa	to ride on X /-par/
سوال	M	sawaal	question
سوائے		siwaaee	except for X /-kee/; same as/siwaa/
سوٹ	M	suuT	Eng. suit of clothes
سوچنا	N	soocnaa	to think; see 3:1, 13:18
سودا	M	saudaa	trade, trading
سوراج	M	swaraaj	independence; "self-rule"
سورج	M	suuraj	sun
سوشلزم	F	soosalizm	Eng. socialism
سوشلسٹ		soosalisT	Eng. socialist

سولہ		soolaa	sixteen (16)
سوم		soom	third
سونا		soonaa	to sleep
سوڻياں	FP	siwayyaaN	vermicelli cooked in milk and sugar
سویرا	M	saweeraa	early morning, dawn
سویرے		saweeree	at dawn; early
سہارا	M	sahaaraa	help, support
سہارے		sahaaree	with the help of X /-kee/
سہنا		sahemnaa	to get frightened
سہی		sahii	atleast
سے		see	from; than; see 7:3; 172, 184-186, 205, 209
سیاست	F	siyaasat	politics
سیاسی		siyaasii	political
سیالکوٹ	M	siyaalkooT	name of a city in W. Pakistan
سیاہ		siyaah	black
سیٹی	F	siiTii	whistle
سیٹی بجانا	NF	siiTii bajaanaa	to whistle; to whistle a tune
سیٹی دینا	NF	siiTii deenaa	to blow on a whistle
سید		sayyad	a Muslim surname; see 2:18, 14:24
سیدھا		siidhaa	straight; simple
سیر	F	sair	sightseeing; a walk for pleasure

سیر کرنا	NF	sair karnaa	to see the sights of X (-kii)
سیر	M	seer	a weight of about two pounds
سیکھنا	N	siikhnaa	to learn
سینا		siinaa	to sew
سینکڑوں		saiNkRooN	hundreds of X; also سیکڑوں
شاخ	F	<u>sa</u> ax	branch
شادی	F	<u>sa</u> dii	marriage; see 10:13
شادی کرنا	NF	<u>sa</u> dii karnaa	to be married to X /-see/; to get X /-kii /married
شادی ہونا	Ki.F	<u>sa</u> dii hoonaa	to be married to X /-see/
شاعر	M	<u>sa</u> aer	poet; pl., شعرا /su'araa/
شاعر مشرق		<u>sa</u> aer-e-masriq	The Poet of the East
شاعری	F	<u>sa</u> aerii	poetry; see 6:20
شاعری کرنا	NF	<u>sa</u> aerii karnaa	to write poetry
شاگرد	M	<u>sa</u> agird	disciple; see 16:20
شام	F	<u>sa</u> am	evening; see 4:15
شامل ہونا		<u>sa</u> amil-hoona	to be a part of X /-meeN/, to be included in X /-meeN/; see 19:17
شان	F	<u>sa</u> an	dignity; hauteur; see 8:11
شانہ	M	<u>sa</u> anaa	shoulder
شاہجہاں	M	<u>sa</u> ahjahaaN	Shah Jahan (1628-1658)
شاید		<u>sa</u> ayad	perhaps



شائع کرنا	N	<u>saae'</u> -karnaa, saayaa-karnaa,	to publish; to make public
شائع ہونا	N	<u>saae'</u> -hoonaa	to be published
شتاب		<u>sitaab</u>	soon (obsolete)
شخص	M	<u>saxs</u>	person
شدّت	F	<u>siddat</u>	severity
شرط	F	<u>sart</u>	condition; bet; see 9:23
شروع کرنا	N	<u>suruu</u> -karnaa	to begin (Tr.); see 6:1
شروع ہونا		<u>suruu</u> -hoonaa	to begin (Intr.)
شریف		<u>sariif</u>	noble, gentlemanly; see 2:18
شریک	M	<u>sariik</u>	partner; see 19:17
شریک ہونا		<u>sariik</u> -hoonaa	to take part in X/-meeN/; see 19:17
شعبہ	M	<u>soobaa</u>	department; see 6:17
شعر	M	<u>seer</u>	verse, couplet; see 6:20
شعرا	Mp	<u>su'araa</u>	poets; plural of شاعر / <u>saaer</u> /
شعور	M	<u>su'uur</u> , <u>sa'uur</u>	intelligence, sense
شعور ہونا	KM	<u>su'uur</u> hoonaa	to be aware of Y/-kaa/
شک	M	<u>sak</u>	doubt
شکار	M	<u>sikaar</u>	hunt; prey; see 7:11
شکار کھیلنا	NM	<u>sikaar</u> -kheelnaa	to hunt X/-kaa/; see 7:11
شکاگو	M	<u>sikaagoo</u>	Chicago
شکر	M	<u>sukr</u>	thanks; see 3:1, 7:10

شکل	F	<u>sakl</u>	form
شکلیل	M	<u>sakiil</u>	a personal name
شمال	M	<u>sumaal, simaal</u>	north; see 18:17
شور	M	<u>soor</u>	noise
شور مچانا	NM	<u>soor macaanaa</u>	to make noise
شوق	M	<u>sauq</u>	gusto, pleasure; see 10:15, 11:19
شوهر	M	<u>sauhar</u>	husband
شهر	M	<u>saher</u>	city
شہرت	F	<u>sohrat</u>	fame
شہرت پانا	NF	<u>sohrat paanaa</u>	to become famous
شیخ	M	<u>saix</u>	sheikh; see 17:24
شیوہ	M	<u>seewaa</u>	personal custom or habit
صاحب	M	<u>saaheb, saahab</u>	gentleman; see 1:1, 1:3; 255
صاف		<u>saaf</u>	clean
صبح	F	<u>subh</u>	morning; see 4:15
صبر	M	<u>sabr</u>	endurance, fortitude; see 2:22
صبر کرنا	NM	<u>sabr karnaa</u>	to endure; to be patient
صحبت	F	<u>suhbat</u>	company of X / - kii
صحت	F	<u>sehet</u>	health
صحیح		<u>sahiih</u>	right, correct
صد		<u>sad</u>	hundred (100)
صدارت	F	<u>sadaarat</u>	presidentship

صدارت کرنا	NF	sadaarat karnaa	to preside over X /-kii/
صدر	M	sadr, sadar	president
صدی	F	sadii	century
صرف		sirf	only; see 6:4, 6:14
صرف کرنا	N	sarf-karnaa	to spend; see 9:11
صلاح	F	salaah	advice; see 6:22
صلاح بتانا	NF	salaah bataanaa	to give advice to X /-koo/
صلح	F	sulh, sulah	peace, reconciliation
صلح کرانا	NF	sulh karaanaa	to make peace between X and X1 /-meeN/
صندوق	M	sanduuq	trunk, box
صوبہ	M	suubaa	province
صوبائی		suubaaii	provincial
صوفی		suufii	sufi, mystic
ضائع کرنا	N	zaae' - karnaa	to waste
ضخامت	F	zaxaamat	size; lit., bigness
ضرور		zaruur	certainly; see 18:22
ضرورت	F	zaruurat	necessity
ضرورت ہونا	KF	zaruurat hoona	to need X /-kii/; see 7:1
ضروری		zaruurii	necessary, needed
ضلع	M	zilaa	district
ضمیر	M	zamiir	conscience

طاقت	F	taaqaat	power, strength; see 5:8
طالب علم	M	taalib-ilm	student; pl. طلباء /talabaa/
طبیعت	F	tabii'at	health, disposition; see 12:17
طرح		tarh, tarah	in X's /-kii/ manner; like X /-kii/
طرح دینا	NF	tarah deenaa	to encourage X /-koo/ by ignoring; see 13:28
طرف	F	taraf	side; toward X /-kii/; see 1:5, 12:17
طرف سے		taraf-see	on X's /-kii/ behalf
طریقہ	M	tariiqaa	method
طلباء	MP	talabaa, tulabaa	students; pl. of طالب علم
طوالت	F	tawaalat	complication; lit., lengthiness
طوالت پکڑنا	NF	tawaalat pakaRnaa	to be prolonged; to get complicated
طویل		tawiiil	lengthy
طے کرنا	N	tai-karnaa	to traverse, cross
ظاہر کرنا	N	zaahir-karnaa	to disclose
ظاہری		zaahirii	apparent; external
ظریفانہ		zariifaanaa	witty, humorous
ظلم	M	zulm	injustice, tyranny
ظلم کرنا	NM	zulm karnaa	to be cruel to X /-par/
عالم	M	aalim	scholar
عام		aam	common; see 2:21
عبادت	F	ibaadat	worship; see 10:16

عبادت کرنا	NF	ibaadat karnaa	to worship X /-kii/
عجیب		ajiiib	strange, amazing
عرب	M	arab	Arabia; Arab
عربی	F	arabii, arbii	the Arabic language; adj. : Arabian
عرصہ	M	arsaa	a long period of time
عرصہ سے		arsee-see	for a very long time
عرض کرنا	N	arz-karnaa	to submit to X /-see/; see 15:22; 257
عرضی	F	arzii	petition; application; see 13:24
عزت	F	izzat	honour, respect
عزت کرنا	NF	izzat- karnaa	to respect X /-kii/
عزیز	M	aziiz	relative; adj: dear, close; see 1:17
عزیزی		aziizii	"my dear" (a term of address for younger in age or relation); see 1:17
عشق	M	iṣq	passion, love
عطا کرنا	N	ataa-karnaa	to bestow upon X /-koo/
عظیم		aziim	great, magnificent
عقل	F	aql	intelligence, wisdom
عقیدت	F	aqiidat	devotion, faith
علاج	M	ilaaj	cure; treatment; see 4:10
علاج کرنا	NM	ilaaj karnaa	to cure X /-kaa/; to get treated by Z /-kaa/
علاقہ	M	ilaaqaa	region; see 25:22

علاقه هونا	KM	ilaaqaa hoonaa	to have something to do with X /-see/; see 25:22
علاوه		alaawaa	in addition to X /-kee/; apart from X /-kee/; see 5:15
علم	M	ilm	knowledge
علم هونا	KM	ilm hoonaa	to have the knowledge of Y /-kaa/
علی گڑھ	M	aliigaRh	name of an Indian city; see 1:29
عمارت	F	imaarat	building
عمده		umdaa	excellent
عمر	F	umr	age; see 1:13, 2:13
عمل	M	amal	action
عناصر	Mp	anaasir	elements; pl. of عنصر
عنصر	M	unsur	element; see 4:28
عوام	Mp	awaam	masses; public
عورت	F	aurat	woman
عید	M	iid	Eid, a Muslim festival; see 9:14
عیدالاضحیٰ	F	iid-ul-azhaa	the Muslim festival of sacrifice held on the 10th of /zi-l-hijjaa/, the 12th month of the Muslim calendar
عیدالفطر	F	iid-ul-fitr	the Muslim festival celebrated at the end of Ramadan, the month of fasting, on the 1st of /sawwaal/ the 10th month of the Muslim calendar.
عیدگاہ		iid-gaah	a big open space where Eid prayers are offered

عیو	M	iiduu	a personal name
عیوی	F	iidii	money gifts given at Eid to children and younger in age
عیش کرنا	N	aiṣ-karnaa	to enjoy, live it up
عائب		Gaaeb	absent
عائب ہونا		Gaaeb-hoonaa	to disappear; to be absent
عدر	M	Gadar	the Mutiny of 1857; lit., chaos
عذا	F	Gizaa	food, nutriment
غرض	F	Garaz	purpose; adv. : in short
غریب		Gariib	poor
غزل	F	Gazal	a lyric; see 6:20
غسل خانہ	M	Gusl-xaanaa	bathroom
غصہ	M	Gussaa	anger
غصہ آنا	KM	Gussaa aanaa	to become angry
غلام	MF	Gulaam	slave
غلط		Galat	wrong; see 7:24
غلطی	F	Galtii	mistake
غلیظ		Galiiz	filthy, soiled
غم	M	Gam	sorrow, grief
غم کرنا	NM	Gam karnaa	to grieve for Y /-par, -kaa/
غمگین		Gamgiin	sad
غور کرنا	NM	Gaur karnaa	to think over X /-par/; see 9:20

غوطه	M	Gootaa	the act of diving; see 6:10
غوطه کھانا	NM	Gootaa khaanaa	to go down under water
غوطه لگانا	NM	gootaa lagaanaa	to dive
غیر	M	Gair	the other, the stranger; non-X; see 3:14
غیر مسلم		Gair-muslim	Non-Muslim; see 3:14
غیر ملکی		Gair-mulkii	foreign
فارسی	F	faarsii	the Persian language
فائدہ	M	faaedaa	benefit, advantage
فائدہ اٹھانا	NM	faaedaa uThaanaa	to reap benefit from X /-see/
فائدہ پہنچانا	NM	faaedaa pahoNcaanaa	to benefit X /-koo/
فتح	F	fath, fateh	victory
فتح کرنا	N	fateh-karnaa	to conquer
فتح ہونا		fateh-hoona	to be conquered
فراغت	F	faraaGat	leisure, repose; see 15:29
فراغت پانا	NF	faraaGat paanaa	to finish doing X /-see/
فرزند	M	farzand	son; see 19:22
فرسودہ		farsuudaa	out-dated
فرصت	F	fursat	leisure, free time; see 1:2
فرصت ہونا	KF	fursat hoona	to have the time for X /-kii/
فرض	M	farz	duty
فرضی		farzii	fictitious



فرط اشتیاق سے		fart-e-istiyaaq-see	in extreme eagerness; see 11:30
فرق	M	farq	difference
فرقہ	M	firqaa	group or sect (of people)
فرقہ پرور		firqaa-parwar	communalist
فرقہ واریت	F	firqaa-waariyat	sectarianism, communalism
فرمانا	N	farmaanaa	to command; see 15:22; 257
فرنگ		farang, firang	the English; from "the Franks"
فساد	M	fasaad	mischief, wickedness; riot
فصل	F	fasl	crop
فضل	M	fazl	grace
فضل سے		fazl-see	by the grace of X /-kee/
فقط		faqat	See 14:17
فقیر	M	faqiir	beggar; ascetic; see 3:18
فقیرانہ		faqiiraanaa	simple, saintly
فکر	F	fikr	worry; thought; see 18:25
فکر مند		fikr-mand	worried
فلاں		fulaaN, falaaN	such and such, so and so; see 2:12
فلسفہ	M	falsafaa	philosophy
فلسفی	M	falsafii	philosopher
فلم	F	film	Eng. film
فوج	F	fauj	army
فوراً		fauran	immediately

فی		fii	per; see 3:3, 11:15
فی صدی		fii-sadii	percent; also فی صد
فیصلہ	M	faislaa	decision
فیصلہ کرنا	NM	faislaa karnaa	to decide X /-kaa/
فیل قوس	M	fiilqaus	Phillips (Arabicized Greek name)
فیل کرنا	N	feel karnaa	to fail X /-koo/ (Tr.)
قابل		qaabil	fit for X /-kee/; worthy of X /-kee/
قابل ذکر		qaabil-e-zikr	noteworthy; lit., worthy of mention
قاعدہ	M	qaaedaa	rule
قانون	M	qaanuun	law
قانونی		qaanuunii	legal
قائم کرنا		qaaem-karnaa	to establish
قبضہ	M	qabzaa	possession
قبضہ کرنا	NM	qabzaa karnaa	to take possession of X /-par/
قتل	M	qatl	murder
قتل کرانا	N	qatl-karaanaa	to get X /-koo/ killed
قدامت پرست		qadaamat-parast	conservative, orthodox; see 11:24
قدر	F	qadar	extent; used with /is/ or /us/ only; see 2:11
قدرت	F	qudrat	Nature
قدیم		qadiim	ancient
قربانی	F	qurbaanii	sacrifice

قربانی کرنا	NF	qurbaanii karnaa	to sacrifice X /-kii/
قریب		qariib	near
قسم	F	qism	variety, kind
قسم	F	qasam	oath
قصہ	M	qissaa	tale
قطرہ	M	qatraa	drop
قلندر	M	qalandar	See 16:25
قلی	M	qulii	porter
قوم	F	qaum	nation; a people
قوم پرور		qaum-parwar	nationalist; lit., one who nourishes the nation; see 8:28
قوم پروری	F	qaum-parwarii	nationalism
قومی		qaumii	national
قید	F	qaid	imprisonment
قیمت	F	qiimat	price; value; see 7:2, 7:15
کاٹنا	N	kaaTnaa	to cut (Tr.)
کارخانہ	M	kaar-xaanaa	factory; see 5:27
کارروائی	F	kaarrawaaii	deed, action, procedure; see 10:27
کارروائی کرنا	NF	kaarrawaaii karnaa	to take action against X /-kee xilaaf/
کاروبار	M	kaar-o-baar	business
کافر	M	kaafir	infidel; as an explicator: staunch
کافی		kaafii	enough, sufficient; see 4:4

کالا		kaalaa	black
کالج	M	kaalij	Eng. college
کانگا		kaalingaa	Kalinga, an ancient kingdom of Orissa
کام	M	kaam	work; deed
کام کا		kaam-kaa	useful, worthwhile
کام کرنا	NM	kaam karnaa	to work
کام لینا	NM	kaam leenaa	to make use of X /-see/
کامریڈ	M	kaamreeD	<u>Comrade</u> , name of the newspaper edited by Muhammad Ali
کامیاب		kaamyaab	successful
کامیاب ہونا		kaamyaab-hoonaa	to be successful
کامیابی	F	kaamyaabii	success
کان	M	kaan	ear
کباب	M	kabaab	kabob
کبھی		kabhii	ever; see 3:10
کبھی کبھی		kabhii-kabhii	sometimes
کبیر	M	kabiir	a personal name
کپڑا	M	kapRaa	cloth; see 5:2, 2:3
کپڑے	Mp	kapRee	clothes; cloths
کتاب	F	kitaab	book
کتنا		kitnaa	how much; see 49, 59, 60
کٹنا		kaTnaa	to get cut; see 16:24

کھ پتلی	F	kaTh-putlii	puppet
کثرت	F	kasrat	abundance
کثرت سے		kasrat-see	in abundance
کثیر		kasiir	multiple, many
کچا		kaccaa	raw; unripe; see 10:28
کچھ		kuch	a little, some; a few; see 4:3; 72, 84
کدو	M	kadduu	pumpkin
کدھر		kidhar	which way?
کرایہ	M	kiraayaa	rent; fare
کرتا	M	kurtaa	a long and loose shirt
کرپلانی	M	kirpalaanii	J.B. Kripalani; see 7:28
کرسی	F	kursii	chair
کرنا	N	karnaa	to do; see 97, 98, 158, 181, 257
کرنسی	F	karansii	Eng. currency
کروانا	N	karwaanaa	to get something done through X /-see/
کریلا	M	kareelaa	bitter gourd
کس		kis	oblique of کون /kaun/; see 57
کسان	M	kisaan	farmer
کسی		kisii	any; oblique of کوئی /kooii/; see 72
کسی طرح		kisii-tarah	somehow
کشادہ		kuṣaadaa	spacious, wide

کشادہ کرنا	N	ku <u>s</u> aadaa-kamaa	to open, to widen
کشتی	F	ka <u>s</u> tii, ki <u>s</u> tii	boat
کفایت	F	kifaayat	economy
کفایت شعاری	F	kifaayat-si'aarii	habit of economy, frugality
کفن	M	kafan	shroud; see 5:16
کفن دینا	NM	kafan deenaa	to shroud X /-koo/
کل		kal	tomorrow; yesterday
کل		kul	total, all; see 4:13
کلام	M	kalaam	sayings; verses; see 2:19
کلرکی	F	kilarkii	clerkship
کلکتہ	M	kalkattaa	Calcutta
کلیان	M	kalyaan	a personal name
کلیجہ	M	kaleejaa	heart; lit., human liver; see 5:22
کلیجہ کٹنا	Ka.M	kaleejaa kaTnaa	to be engulfed with grief
کم		kam	less; see 1:13; 84
کم سے کم		kam-see-kam	at least
کمال	M	kamaal	excellence; also used as an adjective; see 13:19
کمانا	N	kamaanaa	to earn (a living or salary, etc.)
کمبل	M	kambal	blanket
کمپنی	F	kampanii	East India Company; Eng. Company
کمرہ	M	kamraa	room

کمزور		kamzoor	weak
کمزوری	F	kamzoorii	weakness
کم عمری	F	kam-umrii	young age; see 1:13
کمی	F	kamii	lack of X /-kii/
کمیٹی	F	kameeTii	Eng. committee
کنارہ	M	kanaaraa, kinaaraa	edge, side; bank
کنواں	M	kuNwaaN	well; pl. کنویں /kuNweeN/
کو		-koo	See 3:9 ; 134, 184, 190-193, 199, 204
کوتا	M	kawwaa	crow
کوارٹر	M	kwaarTar	Eng. quarter, quarters
کودنا		kuudnaa	to jump (Intr.)
کوشش	F	koosis	effort
کوشش کرنا	NF	koosis-karnaa	to make an effort to I /-kii/
کونا	M	koonaa	corner
کونسل	F	kaunsil	Eng. council
کونڈہ	M	kooilaa	coal
کوئی		kooii	someone, any; see 4:3; 72
کہ		ki, ke	that; see 3:8; 214
کہانی	F	kahaanii	story; see 2:10
کہلانا		X-kahlaanaa	to be called X
کہنا	N	kahnaa	to say to X /-see/; see 2:1, 6:13, 6:27

کہیں		kahiin	lest; see 12:28
کہیں		kahiiN	somewhere; see 2:2, 15:29
کھانا	M	khaanaa	food; meals; see 18:19
کھانا	N	khaanaa	to eat
کھٹاس	F	khaTaas	sourness; see 11:14
کھدر	M	khaddar	handloom cloth
کھدوانا	N	khudwaanaa	to have X /-koo/ engraved; caus. of /khoodnaa/ : to dig; to engrave
کھڑا ہونا		khaRaa-hoonaa	to stand; see 8:7, 12:13
کھڑی بولی		khaRii-boolfii	khadi boli; an Indic dialect of Western Uttar Pradesh
کھلا		khulaa	open; flagrant
کھل کر		khul-kar	openly
کھلنا		khulnaa	to open (Intr.)
کھلوانا	N	khulwaanaa	to get X opened; caus. of /khoodnaa/: to open (Tr.)
کھلوانا	M	khilaunaa	toy
کھیت	M	kheet	agricultural field
کھیتی کرنا	NF	kheetii karnaa	to till the land, to do farming
کھیل	M	kheel	game
کھیلنا	N	kheelnaa	to play with Y /-see/; to play with Z /-kee saath/; see 7:11, 1:30
کیا		kyaa	what; see 1:4, 8:4, 11:9, 20:22; 49-53, 55, 60, 218



کیتھولک		keethoolik	Eng. Catholic
کیسا		kaisaa	how, of what sort; see 58
کیلنڈر		kailenDar	Eng. calendar
کیمبرج	M	keembrij	Eng. Cambridge
کیمپس	M	kaimpas	Eng. campus
کیوں		kyooN	why; see 1:2, 6:9
کیونکر		kyooN-kar	how; see 19:19, 5:22
کیونکہ		kyooN-ki	because; see 9:5
کئی		kaii	several
گاڑی	F	gaaRii	train; cart; see 8:19
گال	M	gaal	cheek
گاندھی	M	gaaNdhii	Gandhi, name of the famous Indian leader
گانووں	Mp	gaaNwooN	villages; pl. of گاؤں
گاؤں	M	gaaooN	village; also written گانوں /gaaNooN/; see 1:26
گاہک	MF	gaahak	customer
گائے	F	gaaee	cow
گذر کرنا	NMF	guzar karnaa	to subsist on X /-par/
گذرنا		guzarnaa	to pass (Intr.); also written as گزرتا; see 3:7, 1:11, 16:24
گذشتہ		guzastaa, guzistaa	last, previous
گرامر	F	graamar	Eng. grammar

گرانا	N	giraanaa	to cause X /koo/ to fall
گردش	F	gardis	revolution, circular movement
گرفت	F	girift, giraft	clutches, grasp
گرم		garm	warm; hot; see 2:3
گرم کرنا	N	garm-karnaa	to heat
گرم ہونا		garm-hoona	to be heated
گرم	M	garmaa	summer; see 1:15
گرمی	F	garmii	heat; summer; see 7:1, 1:15
گرنا		girnaa	to fall
گروہ	M	girooh	group
گرے		gree	Eng. grey
گریجویٹ		greejweeT	Eng. graduate
گڑبڑ	F	gaRbaR	confusion; see 13:13
گڑیا	F	guRyaa	doll; see 1:30
گزن	M	gaz	yard; see 3:3
گزنٹ		gazeT	Eng. gazette; see 17:24
گزرنا		guzarnaa	same as گزرتا
گلا سٹرا		galaa-saRaa	rotten; from /galnaa/, to become soft, and /saRnaa/, to rot; see 2:16
گلستانِ سعدی	F	gulistaan-e-saadii	The Gulistan of Sa'di; see 1:10
گلستاں	M	gulsitaaN	garden; also /gulistaaN/
گلی	F	galii	lane, alley

گلے مانا		galee-milnaa	to embrace X /-see/
گمراہ		gum-raah	erring, misled
گمراہی	F	gumraahii	error; sin
گناہ	M	gunaah	sin
گو		goo	although, though; see 13:11
گورنمنٹ	F	gawarmenT	Eng. Government
گوشت	M	goost	meat
گوشت خور		goost-xoor	a non-vegetarian; lit., meat-eater; see 14:15
گوشہ	M	goosaa	corner
گول		gool	round
گویا		gooyaa	as if
گہرا		gahraa	deep; dark (with colors, etc.); see 5:3
گھاس	F	ghaas	grass
گھر	M	ghar	house
گھڑی	F	ghaRii	watch; clock
گھسنا		ghusnaa	to enter forcibly into X /-meeN/
گھلنا		ghulnaa	to dissolve (Intr.)
گھنٹہ	M	ghanTaa	hour
گھوڑا	M	ghooRaa	horse
گھومنا		ghuumnaa	to wander; to go around
گیارہ		gyaaraa	eleven

گیارہواں		gyaarhwaaN	eleventh
گیبڑین	F	gaibarDiin	Eng. gabardine
لاٹ	F	laaT	monumental pillar
لادنا	N	laadnaa	to load X on X1 /-par/
لاش	F	laas	corpse
لاکھ		laakh	one lac; 100,000
لان	M	laan	Eng. lawn
لانا		laanaa	to bring
لاہور	M	laahaur	Lahore
لائبریری	F	laaibreerii	Eng. library
لائٹ		laaiT	Eng. light
لباس	M	libaas	dress, costume
لحاظ	M	lihaaz	respect, honor; see 5:17
لحاظ سے		lihaaz-see	in accordance with X /-kee/; with respect to X /-kee/; (also /is lihaaz-see/ : in this respect)
لدنا		ladnaa	to be loaded with X /-see/
لذت	F	lazzat	deliciousness; taste; see 18:15
لڑائی	F	laRaaii	battle; conflict
لڑکا	M	laRkaa	boy; son
لڑکی	F	laRkii	girl; daughter
لڑنا	n	laRnaa	to fight with X /-see/; see 124, 205
لطیفہ	M	latiifaa	joke

لغت	F	luGat	lexicography; dictionary; see 13:20
لفظ	M	lafz, lawz	word
لکچر	M	lekcar	Eng. lecture
لکچر	MF	lekcarar	Eng. lecturer
لکڑی	F	lakRii	wood; firewood
لکھنا	N	likhnaa	to write
لکھنؤ	M	lakhnauu	Lucknow
لکھوانا	N	likhwaanaa	to make X /-see/ write on XI /-par/
لگانا	N	lagaanaa	to plant (tree, etc.); see لگانا; see 3:4
لگا ہونا		lagaa-hoonaa	to be busy in X /-meeN/
لگاؤ	M	lagaao	attachment, liking; see 7:22
لگ بھگ		lag-bhag	approximately
لگنا		lagna	to be used or spent; see 3:4, 8:5, 6:7, 7:9, 3:15, 9:17, 15:20, 11:27; 225
لمبا		lambaa	long; tall (with animate nouns); see 9:12
لندا پھندا		laNdaa-phaNdaa	loaded with X /-see/
لندن	M	landan	London
لو	F	luu	hot wind; see 17:15
لوٹا	M	looTaa	a small round metal pot, with spout, used for keeping water
لوٹنا		lauTnaa	to return (Intr.)
لوکی	F	laukii	bottle-gourd

لوگ	Mp	loog	people; see 7:21
لیٹنا		leeTnaa	to lie down
لیچی	F	liicii	lichi-fruit
لیڈر	M	liiDar	Eng. leader
لیکن		leekin	but; see 2:14, 5:14
لینا	N	leena	to take; see 6:1, 1:21; 158, 165
لینن گراڈ	M	leenin-graad	Leningrad
لئے		liee	for X /-kee /, for the sake of X /-kee/; see 3:9
مادہ	M	maaddaa	Matter
مارا جانا		maaraa-jaanaa	to be killed; from /maarnaa/ "to kill"
مارنا	N	maarnaa	to beat; to kill; see 11:8
مار ڈالنا	N	maar-Daalnaa	to kill X/ -koo/; see 11:8
مال	M	maal	goods; see 3:3
مالک	MF	maalik	owner
ماموں	M	maamuun	maternal uncle; see 11:17
ماں	F	maan	mother; see 11:17; 256
مانگ	F	maang	demand; see 13:15
مانگنا	N	maangnaa	to ask for
ماننا	N	maanna	to accept; see 12:2
مایوس ہونا		maayuus-hoonaa	to be disappointed
مبارک		mubaarak	blessed

مبنی		mabnii	based on X /-par/
متعجب ہونا		mutaajjib-hoonaa	to be surprised; see 14:19
متعلق		mutaalliq	about X /-kee/; related to X /-kee/; see 20:17
متوسط		mutawassit	average, medium
مٹنا		miTnaa	to be erased
مٹھائی	F	miThaaii	sweetmeats
مثلاً		maslan	for instance, for example
مثنوی	F	masnawii	Mathnawi; see 5:25
مجبور		majbuur	oppressed, compelled
مجبور کرنا	N	majbuur-karnaa	to force X /-koo/ to I /-par/
مجبور ہونا		majbuur-hoona	to be forced to I /-par/
مجبوراً		majbuuran	under duress, perforce
مجرم	M	mujrim	offender, criminal
مجموعہ	M	majmuuaa	collection
محاوہ	M	muhaawraa	idiom
محبت	F	mohabbat	love, affection
محبت کرنا	NF	mohabbat karnaa	to love X /-see/
محسوس کرنا	N	mahsuus-karnaa	to feel; to realise
محض		mahez	only; see 6:4, 6:14
محلوم		mahkuum	conquered, enslaved
مخت	F	mehnat	labour

مخت کرنا	NF	mehnat karnaa	to work hard on X /-par/
مخت لینا	NF	mehnat leenaa	to make X /-see/ labour
مخالف		muxaalif	opponent; opposite
مختصر		muxtasar	brief, short; see 8:17
مختصر یہ کہ		muxtasar yee ki	in short
مختلف		muxtalif	different
مدت	F	muddat	an indefinite but long period of time
مدت سے		muddat-see	since long ago
مدد	F	madad	help
مدد کرنا	NF	madad karnaa	to help X /-kii/
مدرسہ	M	madrasaa	school (religious or traditional)
مذاق	M	mazaaq	jest; taste for something
مذاق کرنا	NM	mazaaq karnaa	to jest with X /-see, -kee saath/
مذاقات		mazaaqan	in jest
مذہب	M	mazhab	religion
مذہبی		mazhabii	religious
مرتبہ	F	martabaa	(one) time; same as دفعہ and بار
مرتبہ	M	martabaa	position, rank
مرحوم		marhuum	the deceased; the late
مرد	M	mard	man; male; see 10:22
مرد مومن	M	mard-e-moomin	the True Believer
مرغی	F	murGii	hen



مرکز	M	markaz	centre
مرکزی		markazii	central
مرنا		marnaa	to die; see 14:7, 3:16; 259
مريض		mariiz	sick
مزا	M	mazaa	taste; flavour; also مزہ; see 11:14, 18:15
مزاج	M	mizaaj	disposition; state of health; see 2:1, 12:17
مزدور	M	mazduur	labourer
مزه	M	mazaa	taste; also مزہ; see 11:14, 18:15
مسافر	M	musaafir	traveller
مسالہ	M	masaalaa	spice
مساویانہ		musaawiyaanaa	equal, egalitarian; see 3:23
مستحق		mustahaq	deserving
مستحق ہونا		mustahaq-hoonaa	to deserve Y /-kaa, -kee, -kii/
مستقبل	M	mustaqbil	the future
مسجد	F	masjid	mosque
مسرت	F	masarrat	happiness
مسكرانا		muskuraanaa	to smile
مسلم		muslim	Muslim
مسلمان	M	musalmaan	Muslim
مسلم لیگ	F	muslim liig	the Muslim League
مشترکہ		muṣṭarakaā	joint, shared

مشرقی		masriqii	Eastern; see 18:17
مشکل	F	muṣkil	difficulty; adj., difficult
میشن اسکول	M	miṣan iskuul	Eng. Mission School
مشہور		maṣhuur	famous
مصر	M	misr	Egypt
مصروف		masruuf	busy
مصیبت	F	musiibat	calamity, trouble
مضامین	Mp	mazaamiin	essays; subjects; pl. of مضمون
مضبوط		mazbuut	strong; see 5:8
مضمّر		muzmar	hidden, inherent; see 12:23
مضمون	M	mazmuun	subject; essay
مطابق		mutaabiq	according to X /-kee/
مطالبہ	M	mutaalibaa	demand
مطالعہ	M	mutaale'aa	study
مطالعہ کرنا	NM	mutaale'aa karnaa	to study X /-kaa/
مطلب	M	matlab	purpose; meaning; see 3:19, 4:24, 14:29
مظالم	Mp	mazaalim	tyrannies; related to ظلم /zulm/
مظفرنگر	M	muzaffar nagar	name of a north Indian city
معاشی		ma'aasii	economic
معاملہ	M	muaamlaa	matter, incident
معاملہ میں		muaamlee-meeN	concerning the matter of X /-kee/

معصومیت		maasuumiyat	innocence
معلوم کرنا		maaluum-karnaa	to find out
معلوم ہونا		maaluum-hoonaa	to seem or appear X
معلوم ہونا	K	maaluum-hoonaa	to know something as a matter of knowledge
معمولی		maamuulii	ordinary
معنی	Mp	maanii	meaning
معیّن		mu'ayyan	fixed, predetermined; see 20:20
مغرب	M	maGrib	West; the West; see 18:17, 6:24
مغربی پاکستان		maGribii-paakistaan	West Pakistan
مغل		muGal	Mogul, Mughal; see 2:18, 3:20
مقابلہ	M	muqaablaa	confrontation; competition; comparison
مقابلہ کرنا	NM	muqaablaa karnaa	to confront X /-kaa, -see/; to compare X with X1 /-see/
مقابلے میں		muqaablee-meeN	in comparison with X /-kee/
مقام	M	muqaam, maqaam	place
مقامی		muqaamii	local
مقبول		maqbuul	popular
مقدار	F	miqdaar	quantity; see 8:27
مقدس		muqaddaas	sacred
مقدمہ	M	muqaddamaa	law-suit
مقرر کرنا	M	muqarrar-karnaa	to appoint X /-koo/ as X1

مقررہ		muqarraraa	fixed, predetermined
مقصد	M	maqsad	purpose; see 4:24
مقصود		maqsuud	intended
مکان	M	makaan	house
مکاندار	MF	makaan-daar	landlord
مکرر		mukarrar	P.S; repeated ; further; see 15:17
مکمل		mukammal	complete; comprehensive
مکھی	F	makkhii	house fly
مگر		magar	but; see 2:14, 2:22
مگر مچھ	M	magar-mach	crocodile
مگن		magan	absorbed in X /-meeN/; see 3:8
ملا جلا		milaa-julaa	mixed
ملازم	M	mulaazim	servant, employee; pl. ملازمین
ملازمت	F	mulaazimat	service, employment
ملاقات	F	mulaaqaat	meeting, acquaintance; see 3:1, 10:19
ملانا	N	milaanaa	to mix (Tr.); to win Z /-koo/ over to one's side; to introduce X /-koo/ to X1 /-see/
ملک	M	mulk	country
مل کر		mil-kar	together, jointly
ملنا		milnaa	to be available; see 6:15
ملنا	K	milnaa	to get, receive
ملنا		milnaa	to meet X /-see/; see 1:8, 9:14, 5:21

ممبر	M	membar	Eng. member
ممکن		mumkin	possible
من	M	man	maund (a measure of weight, about 80 lbs.)
من	M	man	heart
مناسب		munaasib	proper, suitable
منافع	M	munaafaa	profit
منانا	N	manaanaa	to observe or celebrate; see 4:14
منتظمین	Mp	muntazimiin	administrators; pl. of منتظم /muntazim/
منٹ	M	minaT	Eng. minute
منحصر		munhasar	dependent upon X /-par/
مندر	M	mandir	temple
منڈی	F	manDii	open-air market; wholesale market; see 2:15
منصف	M	munsif	subordinate judge; see 6:18
منظر	M	manzar	scene
منع کرنا	N	manaa-karnaa	to stop X /-koo/ from X1 /-see/
منہ	M	muNh, muuNh	face, mouth; also منہ ; see 16:24
مواقع	Mp	mawaaqe'	opportunities; pl. of موقع /mauqaa/
موت	F	maut	death; see 3:16
موٹر	MF	mooTar	car; from Eng. motor car
موجود		maujood	present

موجود ہونا		maujuud-hoonaa	to exist, be present
موسم	F	mausim, mausam	season; weather; see 1:15
موضوع	M	mauzuu	topic, pl. موضوعات
موقع	M	mauqaa	occasion; also موقعہ ; see 5:29
موقوف		mauquuf	restricted to X / -par/; see 16:19
مولانا	M	maulaanaa	a title used among the Muslims, before the names of persons respected for learning
مول تول کرنا	NM	mool-tool	to bargain with X /-see/ about (the cost of) X1 /-kaa/
مولوی	M	maulwii	a Muslim religious teacher
مومن	M	moomin	a True Believer
مویشی	Mp	maweesii	cattle
مہاتما	M	mahaatmaa	venerable; a title for Hindu Saints
مہذب		muhazzab	cultured, civilized
مہم	F	muhim	campaign
مہمان	MF	mehmaan	guest
مہنگا	M	mahaNgaa	expensive
مہینہ	M	mahiina	month
میاں	M	miyaaN	Mr. ; master; see 10:5, 2:8, 14:29, 14:30
میٹھا		miiTha	sweet; see 11:14
میدان	M	maidaan	open field

میر تقی	M	miir taqii	a personal name
میرٹھ	M	meeraTh	Meerut, a city near Delhi
میر مہدی	M	miir mehdii	a personal name
میرن	M	miiran	a nick name
میز	F	meez	table
میلا		mailaa	dirty, soiled
میل جول	M	meel-jool	social intercourse, admixture; see 5:21
میلا	M	meelaa	fair
میلا لگانا		meelaa lagnaa	for a fair to be held; see 225
میں		meeN	in; see 3:4, 8:6, 6:7, 7:9, 9:10; 207, 209
میخ	M	meeNh	rain
میونخ	M	myoonix	Munich
میوہ	M	meewaa	nuts and dry fruit
نا		naa	See 5:1
نا جائز		naa-jaez	illegal
ناچنا		naacnaa	to dance
ناحق		naa-haq	unjustly
ناخوشگوااری	F	naa-Xusgawaarii	unpleasantness
ناراض ہونا		naaraaz-hoonaa	to be angry with X /-see/
نازک		naazuk	delicate, subtle

نام	M	naam	name; addressed to X /-kee naam/; see 17:19, 9:21
نانا	M	naanaa	maternal grandfather; see 11:17
ناواقفیت	F	naa-waaqfiyat	ignorance
نبی	M	nabii	prophet; see 253, 255
نتیجہ	M	natiijaa	result, consequence
نثر	F	nasr	prose
نجات	F	najaat	relief, release
ندی	F	nadii	river
نذر	F	nazr	something offered by an inferior to a superior, tribute; see 3:29
نذر کرنا	N	nazr-karnaa	to offer X to X1 /-kii/ or /-koo/
نرم		narm	soft
نرمی	F	narmii	kindness, softness
نسبت		nisbat	in comparison with X /-kii/ ; about X /-kii/; see 9:15
نسل	F	nasl	stock, race; generation
نسلی		naslii	racial; generational
نشان		nisaan	sign, mark
نشان دہی	F	nisaan-dehii	indication, clue
نصیحت	F	nasiihat	advice (moral, ethical)
نصیحت کرنا	NF	nasiihat karnaa	to advice X /-koo/
نظام	M	nizaam	structure; system



نظر	F	nazar	glance; see 9:18
نظر آنا		nazar-aanaa	to appear to X /-koo/; see 8:15, 9:18
نظریاتی		nazariyaatii	ideological
نظریہ	M	nazariyaa	idea, ideology
نظم	F	nazm	poem
نفرت	F	nafrat	hatred
نفع	M	nafaa	benefit, profit
نفع بخش		nafaa-baxs_	profiting; lit., profit-giving
نفی کرنا	NF	nafii karnaa	to negate X /-kii/
نقصان	M	nuqsaan	loss
نقطہ	M	nuqtaa	point, dot
نقل	F	naql, naqal	imitation, copy; see 8:18, 7:19
نقل کرنا	N	naql-karnaa	to quote; to copy out
نقل کرنا	NF	naql karnaa	to imitate X /-kii/
نکالنا	N	nikaalnaa	to take out; to bring out (newspaper, magazine, etc.); see 14:20
نکال دینا	N	nikaal-deenaa	to remove
نکلنا		nikalnaa	to come out; see 5:7
نگرانی	F	nigraanii	supervision
نماز	F	namaaz	Muslim prayers; see 10:16
نماز پڑھنا	NF	namaaz paRhnaa	to offer Muslim prayers
نمائش	F	numaaais_	exhibition

نمائندگی	F	numaaindagii	representation; see 246
نمائندگی کرنا	NF	numaaindagii karnaa	to represent X /-kii/
نمائندہ	M	numaaindaa	representative
نمک	M	namak	salt
نمکین		namkiin	salty; savory; see 11:14
نمناک		nam-naak	wet
نواب	M	nawwaab, nawaab	Nawab
نوٹ	M	noot	Eng. note; bill (as in dollar bill)
نوکر	M	naukar	servant
نوکری	F	naukrii	service; employment
نومبر	M	naumbar	Eng. November
نہ		na	no; not; see 95, 161
نہالچہ	M	nihaalcaa	infant's bedding
نہانا	N	nahaanaa	to take a bath
نہایت		nihaayat	very much, extreme
نہیں		nahiiN	no; not; see 72, 95, 113, 161
نیا		nayaa	new; see 10:18
نیچے		niicee	below X /-kee/
نیک		neek	kind, good (ethically)
نیکی	F	neekii	virtue, kindness
نیگرو		niigroo	Eng. Negro
نیلا		niilaa	blue

نیند	F	niind	sleep
نیند آنا	KF	niind aanaa	to fall asleep
نیویارک	M	nyuu-yaark	New York
و		-wa-, -o-	See 242
واپس جانا		waapas-jaanaa	to return, to go back
واپس کرنا	N	waapas-karnaa	to return (Tr.)
واپس ہونا		waapas-hoonaa	to return (Intr.); see 12:9
واپسی	F	waapsii	return
واقعہ	M	waaqe'aa	event
واقعی		waaqa'ii	really
واقف ہونا		waaqif-hoonaa	to be acquainted with X /-see/; see 12:20
<hr/>			
واقفیت	F	waaqfiyat	acquaintance
والد	M	waalid	father
والدہ	F	waalidaa	mother; see 1:16
والدین	Mp	waalidain	parents
والہانہ		waalehaanaa	madly, intensely
وجہ	F	wajh, wajah	reason
وجہ سے		wajh-see	because of X /-kii/
ورسٹڈ	M	warsTaD	Eng. worsted, a type of cloth
ورنہ		warnaa	otherwise; see 7:2
وسعت	F	wus'at	extensiveness, width, vastness

وصول کرنا	N	wusuul-karnna	to recover (money, wages) from X /-see/
وطن	M	watan	homeland
وطنی		watanii	patriotic
وعدہ	M	waadaa	promise
وعدہ کرنا	NM	waadaa karnaa	to promise X /-see/ XI /-kaa/
وعظ	M	waaz	sermon
وعظ دینا	NM	waaz deenaa	to exhort, sermonize
وعلیکم السلام		wa-alaikum-as-salaam	a greeting; see 1:1
وفات	F	wafaat	death; see 3:16; 259
وفات پانا	NF	wafaat paanaa	to die
وکالت کرنا	NF	wakaalat karnaa	to practise law; to defend X /-kii/
وکیل	M	wakiil	advocate
ولایت		wilaayat	a dialectal term for Europe, in general, and England, in particular; see 11:18
ووٹ	M	wooT	Eng. vote
ووٹ دینا	NM	wooT deenaa	to vote for X /-koo/
ووٹ ڈالنا	NM	wooT Daalnaa	to cast a vote
ووٹر	M	wooTar	Eng. voter
وہ		woo	he; she; it; they; see 17:20; 27, 40, 41, 47
وہی		wahii	that very; /woo + hii/; see 6:5

وہیں		wahiiN	there; at that place; /wahaaN + hii/
ویسا		waisaa	of that kind; see 47, 69
ویسے		waisee	in that manner; see 5:14
ہاتھ	M	haath	hand; see 5:24, 11:25
ہاتھ لگانا	NM	haath lagaanaa	to touch X /-koo/; see 12:15
ہاتھوں		haathooN	at the hands of X /-kee/; see 5:24
ہاتھی	M	haathii	elephant
ہارپر		haarpar	Eng. Harper
ہارنا	N	haarna	to be defeated; to lose
ہاں		haaN	yes; see 4:3, 5:4
ہانڈی	F	haaNDii	an earthen pot
ہائے		haaee	an exclamation of sorrow and dismay
ہٹنا		haTnaa	to move away (Intr.)
ہدایت	F	hidaayat	instruction, guidance
ہدایت کرنا	NF	hidaayat karna	to instruct X /-koo/
ہر		har	every; each
ہرا		haraa	green
ہرا بھرا		haraa-bharaa	green, fertile
ہزار		hazaar	thousand
ہستی	F	hastii	(a) being; existence
ہفتہ	M	haftaa	week
ہلانا	N	hilaanaa	to shake (Tr.)

ہمت	F	himmat	courage; see 13:30
ہمت افزائی	F	himmat-afzaai	encouragement
ہمدردی	F	hamdardii	sympathy
ہمیشہ		hameesaa	always, ever; see 4:11
ہمیشہ کے لئے		hameesaa-kee liyee	for ever
ہند	M	hind	abbreviation for /hindustaan/; see 10:25
ہندو	M	hinduu	Hindu
ہندوستان	M	hindustaan	India
ہندوستانی		hindustaanii	Indian
ہندی		hindii	Indian; Hindi; see 6:25
ہنسانا	N	haNsaanaa	to make X /-koo/ laugh
ہنسی	F	haNsii	laughter
ہنگامہ	M	hangaamaa	uproar
ہوا	F	hawaa	air; see 17:15
ہوٹل	M	hooTal	Eng. hotel
ہوش	M	hoos_	sense, consciousness; see 24:22
ہوش کی خبر لینا	NF	hoos-kii xabar leenaa	to come to senses, (used mainly in admonition); see 24:22
ہوش میں آنا		hoos-meeN aanaa	to come to senses
ہوشیار		hoosyaar	clever

ہونا		hoo-naa	to be; to become; to exist; see 7:1, 4:7, 16:17, 17:22, 20:22, 6:29; 2-6, 100, 158, 191, 193, 199
ہو کر		hoo-kar	via; see 4:7
ہولینا		hoo-leena	See 6:29
ہی		hii	See 6:5, 8:9; 210, 212, 213
یا		yaa	either; see 7:20; 214
یاد	F	yaad	remembrance; memory; see 10:20, 12:24
یاد آنا	KF	yaad aanaa	to suddenly think of X /-kii/
یاد ہونا	K	yaad-hoo-naa	to remember, to know by heart
یادگار	F	yaadgaar	relics; monument
یادگارِ غالب		yaadgaar-e-Gaalib	name of a book by Hali
یعنی		yaanii	that is, i.e.; that means
یقین رکھنا	NM	yaqiin rakhnaa	to have faith in X /-par/, to believe in X /-par/
یکساں		yak-saaN	all the same; similar
یک لخت		yak-laxt	suddenly
یکم		yakum	the first; see 4:23
یکہ	M	yakkaa	a one-horse cart; see 1:29
یکہ بان	M	yakkee-baan	driver of the horse-cart; same as /yakkee-waalaa/
یورپ	N	yoorap	Eng. Europe
یوسف مرزا	M	yuusuf mirzaa	a personal name

یوں		yuun, yoon	in this manner; see 1:14
یونان	M	yuunaan	Greece
یونین	F	yuuniyan	Eng. union
یونیورسٹی	F	yuuniiwarsiTii	Eng. university
یہ		yee	this; these; see 2:17; 40, 41, 47
یہاں		yahaaN	here; at X's /-kee/ place; see 18:19
یہیں		yahiiN	right here; /yahaaN + hii/